

مكتبة تحف عین الہدیٰ • رتبہ شہزادہ دہلی شہزادہ

مؤمنان الی شہدہ

مؤلف

الشیخ الاسلامی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی

تقریباً

چھٹھ

پہلی بار ۱۹۵۲ء تا دسمبر ۱۹۷۸ء

ترجمہ

مولانا محمد اویس سرسبز

مکتبہ رحمانیہ (پشاور)

اردو بازار لاہور



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ سوره غم 4.3:27

مصنف ابن ابی شیبہ

جلد نمبر ۵

حدیث نمبر ۱۶۱۵۲ تا حدیث نمبر ۱۹۶۳۸

مؤلف

الامام ابو جبر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العباسی الکوفی

المتوفی ۲۳۵ھ

مترجم

مولانا محمد اویس سرور ظیلہ



مکتبہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)

اقرا سٹریٹ، عرفی سٹریٹ، آڈو پلازا لاہور
فون: 042-37224228-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں



مکتبہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)

نام کتاب ÷

مُصَنَّف ابْنِ شَبِیْہ (جلد نمبر ۵)

مترجم ÷

مولانا محمد اویس سرور علیہ

ناشر ÷

مکتبہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)

مطبع ÷

خضر جاوید پرنٹرز لاہور

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

تنبیہ

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگر اس کی تمام ترمیم داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،



اِقْرَأْ سُنَّتَ عَرَبِيَّ سَتْرِيْط. اَرْدُوْ بَاَزَارْ لَاهُوْر

فون: 042-37224228-37355743

اجمالی فہرست

جلد نمبر ۱

حدیث نمبر ۱ ابتدا تا حدیث نمبر ۴۰۳۶ باب: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

جلد نمبر ۲

حدیث نمبر ۴۰۳۷ باب: فِي كُنُسِ الْمَسَاجِدِ تا حدیث نمبر ۸۱۹۶ باب: فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

جلد نمبر ۳

حدیث نمبر ۸۱۹۷ باب: فِي مَسِيرَةِ كَمْ تُقْصِرُ الصَّلَاةَ

تا

حدیث نمبر ۱۲۲۷۱ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقْفَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

جلد نمبر ۴

حدیث نمبر ۱۲۲۷۲ کتابُ الْإِيمَانِ وَالْتَدْوِيرِ

تا

حدیث نمبر ۱۶۱۵۱ کتابُ الْمَنَائِسِكِ، باب: فِي الْمُحْرَمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَضْبُوعِ

جلد نمبر ۵

حدیث نمبر ۱۶۱۵۲ کتابُ التَّكَاحِ تا حدیث نمبر ۱۹۶۴۸ کتابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ؟

جلد نمبر ۶

حدیث نمبر ۱۹۶۴۹ کتابُ الْجِهَادِ

تا

حدیث نمبر ۲۳۸۷۹ کتابُ الْبَيْعِ باب: الرَّجُلُ يَقُولُ لِعُجْلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ

جلد نمبر ۷

حدیث نمبر ۲۳۸۸۰ کتاب الطّب

تا

حدیث نمبر ۲۷۶۰ کتاب الأدب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَاقَةِ

جلد نمبر ۸

حدیث نمبر ۲۷۶۱ کتاب الدِّيَاتِ

تا

حدیث نمبر ۳۰۹۴۴ کتاب الفضائل والقرآن باب: فِي نَقْطِ الْمَصَاحِفِ

جلد نمبر ۹

حدیث نمبر ۳۰۹۴۵ کتاب الأيمان والرؤيا

تا

حدیث نمبر ۳۳۴۸۷ کتاب السیر باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجْلِ يَسْتَشْهَدُ يَغْتَسِلُ أَمْرًا؟

جلد نمبر ۱۰

حدیث نمبر ۳۳۴۸۸ باب: مَنْ قَالَ يُغْتَسِلُ الشَّهِيدَ

تا

حدیث نمبر ۳۶۸۸۲ کتاب الزهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ حُسْنِيَةِ اللَّهِ

جلد نمبر ۱۱

حدیث نمبر ۳۶۸۸۳ کتاب الأوائل تا حدیث نمبر ۳۹۰۹۸ کتاب الجہل

فہرست مضامین

كِتَابُ النِّكَاحِ

- ۳۱..... جو حضرات نکاح کا حکم اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے
- ۳۳..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا
- ۳۸..... اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۹..... جن حضرات کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح کی صورت میں میاں بیوی میں جدائی نہیں کرائی جائے گی
- ۴۱..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کسی عورت کی شادی نہیں کر سکتی بلکہ نکاح کروانے کا اختیار مردوں کو ہے
- ۴۲..... کیا ایک عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟
- ۴۳..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا
- جو حضرات فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی سے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا اقرار اس کی خاموشی ہے
- ۴۶.....
- ۴۸..... اگر دو ولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معتبر ہے؟
- ۴۹..... اگر یتیم لڑکی کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرا دی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۵۰..... اگر کسی عورت کا ولی اس کا نکاح کرانے سے انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۵۱..... جن حضرات کے نزدیک نابالغ بیٹے کا نکاح کرانا باپ کے لئے جائز ہے
- ۵۲..... اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو مہر کس پر واجب ہوگا؟
- کیا کوئی آدمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت اس کا بمعرف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تشریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟
- ۵۳.....

- ۵۵..... کیا کوئی آدمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کے کر سکتا ہے؟
- ۵۵..... غلام کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟
- ۵۷..... اگر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۵۷..... اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گی؟
- ۵۸..... جن حضرات کے نزدیک آزاد آدمی کا باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے
- ۶۰..... ایک آزاد آدمی کتنی باندیوں سے شادی کر سکتا ہے؟
- ۶۱..... جن حضرات کے نزدیک آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے
- ۶۱..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کر لی تو اس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی
- ۶۳..... باندی کے ہوتے ہوئے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کا حکم
- ۶۳..... جن حضرات کے نزدیک مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتا
- ۶۳..... جب ایک آدمی کے نکاح میں آزاد اور باندی ہوں تو ان کے درمیان کیسے تقسیم کرے گا؟
- ۶۶..... جن حضرات کے نزدیک مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا
- ۶۷..... اگر کوئی آدمی کسی عورت کا مہر مقرر کرتے ہوئے علانیہ کچھ اور کبے اور خفیہ طور پر کچھ اور تو خفیہ کا اعتبار ہوگا
- ۶۷..... جن حضرات کے نزدیک علانیہ کا اعتبار ہوگا
- ۶۸..... اگر کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرے پھر اسے خرید لے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۹..... اگر ایک آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اسے دو طلاقیں دیدے پھر خرید لے تو کیا حکم ہے؟
- ۷۱..... کیا ایسی باندی کا سابقہ خاوند اب ملکیت کی بنا پر اس سے مباشرت کر سکتا ہے؟
- ۷۲..... اگر غلام اپنی باندی بیوی کو دو طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۷۳..... ایک آدمی کے نکاح میں باندی تھی، اس نے اس کا کچھ حصہ خرید لیا اب وہ اس سے وطی کر سکتا ہے یا نہیں؟
- ۷۴..... جن حضرات کے نزدیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آزادی کو مہر بنانا جائز ہے
- ۷۴..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کو مہر بنانے والا قربانی کے جانور پر سواری کرنے والے کی طرح ہے
- ۷۵..... اگر ایک شخص نے اپنی باندی کو اللہ کے لئے آزاد کیا تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟
- ۷۶..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے لئے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے

- ۷۶ جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے
- ۷۷ جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے
- ۷۸ ایک مسلمان کتنی اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟
- ۷۹ مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟
- ۸۰ اہل کتاب کی باندیوں سے نکاح کا بیان
- ۸۰ مہجّل اور مؤہل مہر کا بیان
- ۸۲ بنو تغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان
- ۸۳ کیا وصی نکاح کر سکتا ہے؟
- ۸۴ اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیا لیکن بعد میں وہ غلام نکلا تو کیا حکم ہے؟
- ۸۴ اگر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے لیکن اس سے ازدواجی ملاقات کی نوبت نہ آئے تو کیا اس آدمی کے باپ کے لئے اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہوگا
- ۸۵ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو چھوا یا اس کے کپڑے اتارے تو وہ اس کے باپ اور بیٹوں کے لئے حرام ہو جائے گی
- ۸۹ اگر کسی آدمی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی سے صحبت کی تو بیوی کا کیا حکم ہے؟
- ۹۱ اگر ایک آدمی کی ملکیت میں باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں اور وہ ایک سے جماع کرنا چاہے تو شرعی حکم کیا ہے؟
- ۹۳ اگر کسی آدمی کے پاس دو مملوک بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کر سکتا ہے؟
- ۹۶ اگر آدمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیا اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟
- ۹۸ جن حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے
- ۹۹ جن حضرات کے نزدیک غلام کا مال میں تصرف کرنا مکروہ ہے
- ۱۰۰ اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اسے کوڑھ یا پھلہری ہونے کا پتہ چلے، اور وہ اس سے دخول کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۰۲ شادی کے بعد اگر مرد میں کوڑھ، پھلہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہو تو عورت کے لئے کیا حکم ہے؟
- ۱۰۳ جن حضرات کے نزدیک جو سیہ باندی سے نکاح کرنا ممنوع ہے
- ۱۰۴ نصرانیہ اور یہودیہ باندی سے جماع کرنا جائز ہے یا نہیں؟
- ۱۰۶ حرامیہ باندی سے جماع کرنے اور اس سے طلب اولاد کا حکم
- ۱۰۷ زانیہ باندی سے جماع کرنے کا بیان

- ۱۰۸ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے یا سنے تو کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟
- ۱۱۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کرے تو اس کی بیوی کا کیا حکم ہے؟
- ۱۱۱ ایک آدمی نے کسی شخص کی بیٹی سے نکاح کیا لیکن شب زفاف میں دوسری بیٹی اسے پیش کی گئی تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟
- ۱۱۲ مہر کے بارے میں علماء کی آراء اور اختلاف
- ۱۱۶ جن حضرات نے زیادہ مہر پر نکاح کیا اور کروایا ہے
- ۱۱۸ نکاح کے اعلانیہ ہونے کا بیان
- ۱۱۹ شادی کے موقع پر ڈھول بجانے اور گانے کی اجازت
- ۱۲۰ جن حضرات کے نزدیک دف بجانا ناجائز ہے
- ۱۲۰ جن حضرات کے نزدیک کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے
- ۱۲۱ جن حضرات کے نزدیک کسی آدمی کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی جو کسی اور بیوی سے ہے دونوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے
- ۱۲۳ شادی کے بعد اگر کوئی عورت آکر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۲۵ نکاح کے بعد عورت کو کچھ دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات کرنا کیسا ہے؟
- ۱۲۶ جن حضرات کے نزدیک مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر شرعی ملاقات نہیں کر سکتا
- ۱۲۶ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی تو جن حضرات کے نزدیک اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے
- ۱۲۹ جن حضرات کے نزدیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں
- ۱۳۰ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرائے اور اپنے لئے کسی چیز کی شرط لگائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۳۱ اگر کوئی عورت مرد سے کہے کہ مجھے طلاق نہ دے بلکہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۳۳ اگر عورت اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۳۶ نامرد کو علاج کے لئے کتنی مہلت دی جائے گی؟
- ۱۳۹ اگر عورت کو نامرد سے چھ نکارے کے لئے اختیار دیا جائے تو اسے نکاح کی بقاء اور اختتام کے بارے میں اختیار ہے
- ۱۳۹ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے باقی رکھنے کو اختیار لے لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا
- ۱۳۹ نامرد کی بیوی کے مہر کی کیا صورت ہوگی؟

- ۱۴۰ اگر نامر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد اس پر قادر نہ رہے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۴۱ فاسق سے شادی کرانے کا بیان
- ۱۴۱ وہ باندی جسے آزاد کر دیا جائے اور اس کا خاوند کوئی آزاد ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۴۲ جن حضرات کے نزدیک خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا
- ۱۴۳ جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا
- ۱۴۳ اگر عورت کو خیار کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۴۳ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی نہیں رہے گا
- ۱۴۶ اگر کوئی شخص بیوی کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ اسے خیار کا علم تھا تو کیا بیوی سے قسم لی جائے گی؟
- ۱۴۷ کیا مکاتبہ باندی کو آزاد کے بعد اختیار ہوگا؟
- ۱۴۷ نہاریات سے نکاح کرنے کا بیان
- ۱۴۸ ایک آدمی نکاح میں یہ شرط لگائے کہ عورت کو دن یا رات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا
- ۱۴۹ اگر نکاح کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلاں دن تک خاوند نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا
- ۱۴۹ کسی خاص چیز کے عوض نکاح کرنے کا بیان
- ۱۵۰ اگر ایک آدمی دوسرے کا نکاح کرادے اور دو لہا بعد میں انکار کرے تو مہر کی کیا صورت ہوگی؟
- ۱۵۱ عزل اور اس کی اجازت کا بیان
- ۱۵۳ جن حضرات کے نزدیک عزل کی اجازت نہیں
- ۱۵۶ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزاد عورت سے اجازت لی جائے گی
- ۱۵۷ باندی کو خریدنے کے بعد حمل سے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے
- ۱۵۸ جن حضرات کے نزدیک ایک ایک حیض سے باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین ہو جائے گا
- ۱۶۰ اگر خریدی ہوئی باندی حائضہ ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۶۰ اگر باندی کو کسی عورت سے خرید اتو کیا حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟
- ۱۶۰ اگر باندی کو خرید اور وہ حائضہ نہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟
- ۱۶۱ وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو اس کا استبراء جن حضرات کے نزدیک ڈیڑھ مہینہ ہوگا
- ۱۶۲ جن حضرات کے نزدیک قابل حیض باندی کا استبراء دو حیض ہے

- ۱۶۲ استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے تفلذ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟
- ۱۶۳ آقا کو چاہئے کہ باندی کو بیچنے سے پہلے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے
- ۱۶۴ قرآن مجید کی آیت: ﴿وَسَأَوْكُمْ كُحْرًا لَكُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں“ کا بیان
- ۱۶۴ قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملو جیسے ملنے کا حکم دیا ہے“
- ۱۶۸ قرآن مجید کی آیت: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ”اگر تم چاہو بھی تو بیویوں کے درمیان عدل کی طاقت نہ رکھو گے“
- ۱۶۹ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا
- ۱۷۰ جن حضرات کے نزدیک خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا
- ۱۷۲ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے، جن حضرات کے نزدیک وہ شادی نہیں کر سکتی
- ۱۷۳ جو حضرات فرماتے ہیں کہ شوہر کے گم ہو جانے کی صورت میں وہ عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے انتظار نہیں کرے گی ...
- ۱۷۴ گم شدہ شخص واپس آئے اور اس کی بیوی شادی کر چکی ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۷۵ ایک شخص کے نکاح میں کوئی باندی تھی، اس نے اسے طلاق بائند دے دی، وہ اپنے آقا کے پاس واپس آئی اور اس نے اس سے وطی کی تو کیا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے؟
- ۱۷۷ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ ہے
- ۱۷۹ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ نہیں ہے
- ۱۸۱ اگر ایک آدمی کسی عورت کو طلاق دے تو کیا اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟
- ۱۸۲ جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے
- ۱۸۳ کیا اپنی بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جاسکتا ہے؟
- ۱۸۳ دو بیچازاد بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کا بیان
- ۱۸۶ ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے
- ۱۸۷ جن حضرات کے نزدیک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا
- ۱۹۰ بیوی نے لواطت کی حرمت کا بیان
- ۱۹۱

- ۱۹۳ آدمی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟
- قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کی تفسیر..... ۱۹۶
- اگر کوئی غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے اور مہر دے اور پھر آقا کو علم ہو تو کیا حکم ہے؟..... ۲۰۰
- جن حضرات کے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنے والا غلام زانی ہے..... ۲۰۱
- قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر..... ۲۰۳
- اس آدمی کا کیا حکم ہے جس کا کسی عورت سے نکاح ہو لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ شرعی ملاقات سے پہلے کہیں زنا کر بیٹھے؟..... ۲۰۴
- قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر..... ۲۰۶
- قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر کا بیان..... ۲۱۰
- قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر..... ۲۱۲
- وہ مرد جس پر حد جاری ہوئی وہ کسی ایسی عورت سے ہی نکاح کر سکتا ہے جس پر حد جاری ہوئی یا کسی اور سے بھی کر سکتا ہے؟..... ۲۱۴
- اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور وہ کسی اور آدمی سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟..... ۲۱۵
- اگر آدمی باکرہ یا شیبہ عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس کتنا قیام کرے گا؟..... ۲۱۷
- جن حضرات کے نزدیک مستحاضہ سے وطی کرنا مکروہ ہے..... ۲۲۰
- جن حضرات کے نزدیک مستحاضہ کا خاوند اس سے جماع کر سکتا ہے..... ۲۲۰
- قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر..... ۲۲۲
- جو حضرات قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے..... ۲۲۵
- قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ کی تفسیر..... ۲۲۶
- رضاعت کا بیان: جن حضرات کے نزدیک ایک یا دو چسکیاں لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی..... ۲۲۸
- جن حضرات کے نزدیک تھوڑا یا زیادہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے..... ۲۳۰
- جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں..... ۲۳۱
- جن حضرات کے نزدیک صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو..... ۲۳۳
- نکاح متعد کا بیان..... ۲۳۶

- ۲۳۹..... ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور دوسرا آدمی اس سے اس لئے شادی کرے تاکہ وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے۔ اس کا کیا حکم ہے؟
- ۲۴۱..... اگر حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو جن حضرات کے نزدیک بچے کو جنم دینے سے عدت پوری ہو جائے گی
- ۲۴۶..... نکاح کے بعد مہر دینے سے پہلے اگر خاوند کا انتقال ہو جائے.....
- ۲۴۹..... عورت پر خاوند کا کیا حق ہے؟
- ۲۵۴..... اچھے اخلاق والی اور برے اخلاق والی عورت.....
- ۲۵۶..... نکاح کی بنیاد کن چیزوں کو بنانا چاہئے؟
- ۲۵۷..... بیوی سے شرعی ملاقات کے کیا آداب ہیں؟
- ۲۵۸..... اگر کوئی مسلمان عورت مشرکین کی سرزمین میں جا بے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۲۵۹..... شادی اور ختنوں کے موقع پر کھانا کھلانا.....
- ۲۶۰..... اس عورت کا بیان جس نے اپنا نفس نبی ﷺ کے لئے بہہ کر دیا.....
- ۲۶۲..... اگر آدمی اسلام قبول کر لے اور اس کے پاس دو سگی بہنیں ہوں تو کیا حکم ہے؟
- ۲۶۳..... ایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس عورتیں ہوں تو کیا حکم ہے؟
- ۲۶۳..... قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْبُرُئَةِ﴾ کی تفسیر کا بیان.....
- ۲۶۴..... جو عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اسے مہر ملے گا یا نہیں؟
- ۲۶۶..... ایک آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے اور وہ اسے اچھی محسوس ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے؟
- ۲۶۷..... ایک آدمی عورت سے اس بات پر شادی کرے کہ مہر کے بارے میں عورت کی فرمائش مانی جائے گی.....
- ۲۶۹..... جس آدمی کی شادی ہو اسے کیا دعائیں چاہئے؟
- ۲۶۹..... بد نظری کی ممانعت.....
- ۲۷۳..... اگر ایک آدمی دخول سے پہلے عورت کو طلاق باندھ دے اور پھر اس خیال سے جماع کر بیٹھے کہ ابھی رجوع کا حق ہے تو اس عمل کا کیا حکم ہوگا؟
- ۲۷۵..... اگر ایک آدمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا جائے، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟
- ۲۷۶..... ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اپنے قول سے رجوع کر لے تو عورت اس مرد کے ساتھ قیام پذیر ہے یا معاملہ قاضی کے دربار میں لے جائے؟

- ۲۷۷ ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حلتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۷۸ کیا آدمی اپنی ماں کے خاوند کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے؟
- ۲۷۹ اگر ایک عورت نے (تعلقی سے) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوند تھا، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟
- ۲۷۹ اگر ایک آدمی کسی عورت کا بوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟ یا وہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آدمی کے لئے حلال ہوگی؟
- ۲۸۰ جن حضرات کے نزدیک غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے
- ۲۸۱ آدمی اپنی ماں یا بہن کے بال دیکھ سکتا ہے
- ۲۸۲ ماں کے بالوں کو دیکھنا، ان میں کٹکھی کرنا اور پٹیاں بنانا کیا ہے؟
- ۲۸۳ جلد کے جلد کو چھونے کا حکم
- ۲۸۳ دادی یا نانی کے بال دیکھنے کا حکم
- ۲۸۳ کیا کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد کو اپنی باندی سے جماع کی اجازت دے سکتے ہیں؟
- ۲۸۵ کیا آدمی مکاتبہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟
- ۲۸۶ جن حضرات کے نزدیک زانی پر عقرب (فرج منسوب کی دیت) نہیں ہے
- ۲۸۷ کیا غیر محرم عورت آدمی کا سر چوم سکتی ہے؟
- ۲۸۸ اگر آدمی کسی باندی سے شادی کرے تو کیا اس کو اس کے شہر سے نکال سکتا ہے؟
- ۲۸۸ اگر کوئی عورت خود کو خاوند کے لئے ہبہ کر دے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۹۰ ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے، دخول بھی کرے اور پھر معلوم ہو کہ وہ تو محرم ہے
- ۲۹۱ نابالغ بچی کی شادی کرانے اور اس سے شادی کرنے کا حکم
- ۲۹۲ جن حضرات کے نزدیک دیہاتی کا مہاجرہ عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے
- ۲۹۳ جن حضرات کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شری حیثیت رکھتا ہے
- ۲۹۵ جن حضرات کے نزدیک دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا
- ۲۹۵ جب لعان کرنے والے مرد و عورت کے درمیان جدائی کرادی گئی تو وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اور آدمی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا
- ۲۹۷ جن حضرات کے نزدیک لعان کرنے والا مرد اپنے قول سے رجوع کرنے کے بعد عورت کو پیام نکاح بھجوا سکتا ہے
- ۲۹۹ اگر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو عورت کو مہر ملے گا یا نہیں؟

- ۳۰۰ اگر عورت نکاح کا مہر خود ادا کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۰۱ کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے؟
- ۳۰۱ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو جن حضرات کے نزدیک وہ اسے دیکھ سکتا ہے
- ۳۰۳ قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء ۱۲] کی تفسیر
- ۳۰۵ بت پرست عورتوں سے نکاح کا بیان
- ۳۰۵ قرآن مجید کی آیت ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۰۶ قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ کی تفسیر
- ۳۰۶ قرآن مجید کی آیت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ کی تفسیر
- ۳۰۶ مہر کے معاملے میں عورت سے زیادتی کرنے کا وبال
- ۳۰۷ جن حضرات کے نزدیک مکاتبہ کے باقی ماندہ بدلہ کتابت کو مہر بنا کر شادی کرنا جائز ہے
- ۳۰۷ قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تُعْوَلُونَ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۰۸ کیا مرض الموت میں نکاح کرنا جائز ہے؟
- ۳۱۰ قرآن مجید کی آیت ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ﴾ کی تفسیر
- ۳۱۰ اولاد کی شادی اچھی جگہ کرانے کا بیان
- ۳۱۱ اگر کوئی مالکن اپنے غلام سے یہ کہے کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۱۲ قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۱۲ قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۱۳ کیا نفاس والی عورت پاک ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے؟
- ۳۱۳ نفاس والی عورت کا خاندان کتنے دن تک اس سے جماع نہیں کر سکتا؟
- ۳۱۵ اگر آدمی کسی باندی کو خریدے یا قیدی بنائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۳۱۸ اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے کسی لڑکی کا پردہ بکارت زائل کر دے تو اس پر کیا تاوان ہوگا؟
- ۳۲۰ دو آدمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہر ایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لائی گئی تو کیا حکم ہے؟
- ۳۲۱ فاحشہ کی کمائی کی حرمت کا بیان
- ۳۲۲ اگر آدمی ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت سے شادی کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۲۲ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے شرعی ملاقات کی پھر وہ مر گیا۔ پھر اس بات پر گواہی قائم ہو گئی کہ وہ

- ۳۲۲ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔ اب کیا حکم ہے؟
- ۳۲۳ ایک آدمی کسی عورت کا ولی ہو لیکن اس سے نکاح کرنا چاہے تو کیا کرے؟
- ۳۲۳ زبردستی کرائے گئے نکاح کا حکم
- ۳۲۳ اگر مرد و عورت میں عاجل مہر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۲۳ ایک آدمی کی کوئی بیوی یا باندی ہو لیکن اسے بچے میں شک ہو تو وہ کیا کرے؟
- ۳۲۵ مرد کا بلاوجہ آگے تناسل کو ہاتھ میں لینا درست نہیں
- ۳۲۶ نکاح شغار (رشتے کے لین دین کے ساتھ) نکاح کرنا کیسا ہے؟
- ۳۲۷ نکاح کے خطبوں کا بیان
- ۳۲۸ جن حضرات کے نزدیک عورت کا بالکل سیدھا لٹ کر سونا مکروہ ہے
- ۳۲۸ اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے نکاح میں کوئی یہودی یا عیسائی عورت ہو اور وہ عورت دخول سے پہلے اسلام قبول کر لے
- ۳۲۹ تو کیا اسے مہر ملے گا؟
- ۳۳۰ اگر کوئی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۳۰ اگر مہر کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۳۱ اگر کوئی عورت خاندان کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۳۱ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو کیا اسے مہر ملے گا؟
- ۳۳۳ بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا بیان
- ۳۳۵ اگر کسی آدمی کی دو بیویاں یا دو باندیاں ہوں تو کیا دوسری کے سامنے ایک سے جماع کر سکتا ہے؟
- ۳۳۵ ایک آدمی کو اس کی بیوی پیش کی گئی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں چھوا، مرد بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، کیا اس عورت کو مہر ملے گا؟
- ۳۳۵ اگر ایک آدمی کسی شخص سے یہ کہے کہ جب فلاں مہینہ آئے گا تو میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کر دوں گا تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۳۳۶ اگر آقا غلام کو شادی کی اجازت دے تو نفقہ اسی پر لازم ہوگا
- ۳۳۶ عورت کا اپنے بیٹے یا باپ کے ساتھ کھلے سر بیٹھنا کیسا ہے؟
- ۳۳۷ میاں بیوی کے لئے خلوت کی باتوں کو بیان کرنے کی ممانعت
- ۳۳۸ قحط سالی کے دنوں میں نکاح کی ممانعت

- ۳۳۸ اگر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے لیکن وہ راضی نہ ہو البتہ بعد میں راضی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۳۸ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا
- ۳۳۱ قرآن مجید کی آیت ﴿اِذَا أَحْصِنَا﴾ کی تفسیر
- ۳۳۱ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کے بارے میں کہ وہ غلام تھے یا آزاد؟
- ۳۳۲ حسن کس چیز کا نام ہے؟
- ۳۳۳ آدمی کا آدمی کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا درست نہیں
- ۳۳۳ آدمی اپنی ماں یا بہن کے یہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے
- ۳۳۶ کیا آدمی اپنی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟
- ۳۳۷ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۳۸ قرآن مجید کی آیت ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۳۹ دورانِ صحبت پردہ کرنے کا بیان
- ۳۳۹ یہودیہ، نصرانیہ یا فاحشہ کے دودھ سے رضاعت ثابت ہونے کا بیان
- ۳۵۰ ایک عورت کو دوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکروہ ہے
- ۳۵۰ اگر آدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھر اس سے شادی کر لی تو رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کر سکتا ہے
- ۳۵۱ کسی کے پیامِ نکاح پر پیامِ نکاح نہ بھیجا جائے
- ۳۵۱ زنا کی مذمت کا بیان
- ۳۵۳ خصی آدمی سے شادی کرنے کا بیان
- ۳۵۳ اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی پھر خاوند مر گیا لیکن بیٹی کو علم نہیں تھا
- ۳۵۳ شبِ زفاف کے دن آدمی کا اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے پاس لے جانا
- ۳۵۳ آدمی کا اپنی والدہ کی شادی کرانا
- ۳۵۵ آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو پیار کر سکتا ہے
- ۳۵۵ جن عورتوں کے خاوند شہر میں موجود نہ ہوں ان سے مرد ملاقات کے لئے نہیں جاسکتے
- ۳۵۷ خادموں اور باندیوں کے عوض شادی کرنے کا بیان
- ۳۵۷ چھوٹی بچیوں کا بناؤ سنگھار کر کے مردوں کے سامنے آنا
- ۳۵۸ ناپسندیدہ مردوں سے عورت کی شادی کرنا مکروہ ہے

- ۳۵۸ ارض حرب میں شادی کرنا درست نہیں ❁
- ۳۵۹ ناجائز نکاح آدمی کو حصن نہیں بناتا ❁
- ۳۵۹ خضاب کے ذریعے نقش بنانے کا حکم ❁
- ۳۵۹ مردوں کے لئے خلوک کا استعمال کیسا ہے؟ ❁
- ۳۶۱ جن حضرات کے نزدیک مردوں کے لئے خلوک کے استعمال کی گنجائش ہے ❁
- ۳۶۲ بچہ باپ کا ہوگا ❁
- ۳۶۳ اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرزمین میں چلا جائے تو کیا اس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟ ❁
- ۳۶۳ باکرہ عورتوں سے نکاح کی فضیلت ❁
- ۳۶۵ نکاح میں برابری کرنے کا بیان ❁
- ۳۶۶ غیرت کا بیان ❁
- ۳۶۷ جب لعان ختم کر دیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا ❁
- ۳۶۸ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ ❁
- ۳۶۹ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر وہ مر گیا یا طلاق دے دی، جبکہ اس آدمی کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، کیا آدمی کے بیٹے کے لئے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ ❁

کِتَابُ الطَّلَاقِ

- ۳۷۰ طلاق سنت کیا ہے؟ یہ طلاق کب دی جائے؟ ❁
- ۳۷۳ طلاق کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ ❁
- ۳۷۴ حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے گی؟ ❁
- ۳۷۵ اگر حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ ❁
- ۳۷۷ جن حضرات کے نزدیک اس حیض کو بھی عدت میں شمار کیا جائے گا ❁
- ۳۷۷ جن حضرات کے نزدیک حالت حیض میں دی گئی طلاق معتبر ہے ❁
- ۳۷۷ اگر ہر طہر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شمار کب سے ہوگا؟ ❁
- ۳۷۹ طلاق کے بعد بیوی سے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان ❁

- ۳۸۰ اپنے دل میں رجوع کرنے کا حکم
- ۳۸۱ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی لیکن آدمی کو علم نہیں تھا تو اسے جب علم ہو تو رجوع پر گواہ بنانا ضروری ہے
- ۳۸۱ جن حضرات کے نزدیک ایک نشست میں تین طلاقیں دینا مکروہ ہے، لیکن یہ واقع ہو جائیں گی
- ۳۸۳ جن حضرات کے نزدیک تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں
- ۳۸۳ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک جملے میں سو یا ہزار طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟
- ۳۸۶ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”تجھے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق“ تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۳۸۷ اگر ایک آدمی نے کہا کہ ”جس دن میں فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق“ جن حضرات کے نزدیک اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں
- ۳۸۹ اگر ایک آدمی نے کہا کہ ”میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے تین طلاقیں“ تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۳۹۰ جن حضرات کے نزدیک ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر طلاق کو کسی وقت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس وقت طلاق ہو جاتی ہے
- ۳۹۳ اگر کسی آدمی نے کہا کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق اور کوئی وقت مقرر نہ کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۹۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۳۹۷ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۹۸ اگر آدمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی
- ۳۹۸ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر اسے ایک آدمی ملے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟، جواب دے ہاں دے دی، پھر ایک اور آدمی ملے وہ بھی یہی سوال کرے تو آدمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو کیا حکم ہے؟
- ۴۰۱ اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق کب واقع ہوگی؟
- ۴۰۱ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی
- ۴۰۲ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۴۰۳ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ ”عدت شمار کر“ تو کیا حکم ہے
- ۴۰۴ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شمار کر، تجھے طلاق ہے عدت شمار کر، تو کیا حکم ہے؟
- ۴۰۴ مجنون کی طلاق کا حکم

- ۴۰۵..... ناقص العقل (معتوہ) کی طلاق کا حکم.....
- ۴۰۶..... جس شخص کو موت (بے ہوشی اور جنون کا دورہ) ہو اس کی طلاق کا حکم کیا ہے؟.....
- ۴۰۷..... کیا مجنون اور معتوہ کا ولی ان کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟.....
- ۴۰۸..... ایسے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ اپنی بیوی کو مار ڈالے گا؟.....
- ۴۰۸..... بچے کی طلاق کا حکم.....
- ۴۱۰..... برسم نامی بیماری کے شکار اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کی طلاق کا حکم.....
- ۴۱۲..... نشتے میں مبتلا شخص کی طلاق کا حکم.....
- ۴۱۳..... جن حضرات کے نزدیک نشتے میں مبتلا شخص کی طلاق درست نہیں.....
- ۴۱۴..... اگر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو مراد لیا تھا تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۱۶..... اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، تو شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۱۷..... اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۱۸..... اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تیرا رستہ چھوڑ دیا یا مجھے تجھ پر کوئی حق نہیں تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۱۸..... اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے.....
- ۴۱۹..... اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۲۰..... اگر کسی نابالغ بچی کو طلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟.....
- ۴۲۱..... اگر مرد کے نکاح میں ایسی عورت ہو جسے عدم بلوغت یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو آدمی اسے کیسے طلاق دے؟.....
- ۴۲۱..... اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کہے کہ تم میں سے ایک کو طلاق ہے، کسی کا نام نہ لے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۲۲..... اگر آدمی ان شاء اللہ کہہ کر طلاق دے لیکن اگر طلاق سے ابتداء کرے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۲۳..... طلاق میں استثناء کا بیان.....
- ۴۲۵..... جن حضرات کے نزدیک طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی.....
- ۴۲۶..... جو حضرات مجبور کئے گئے شخص کی طلاق کو درست سمجھتے تھے.....
- ۴۲۷..... ایک آدمی کی دو بیویاں ہو، وہ ایک کو نکلنے سے منع کرے، لیکن دوسری بیوی نکلے جسے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کو منع کیا تھا لہذا وہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۲۹..... اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا“ تو کیا حکم ہے؟.....

- ۴۳۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۱ اگر کوئی شخص دل میں بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۲ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اسی کے سپرد کر دے اور وہ خود کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۴ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۵ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور اس نے خود کو اختیار کر لیا تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۶ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔
- ۴۳۷ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور عورت اختیار قبول نہ کرے اور مجلس سے اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۸ جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کے بولنے تک اسے اختیار ہے گا یعنی جب بات کی تو اختیار ختم ہو جائے گا۔
- ۴۳۹ اگر کوئی شخص بیوی کو اختیار دے تو کیا بیوی کے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے؟
- ۴۴۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دے اور وہ ایک کو استعمال کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۴۱ اگر ایک آدمی نے عورت کو اختیار دیا لیکن وہ خاموش رہی اور اس نے کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟
- ۴۴۲ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو قطعی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۴۳ عورت کو تخلیہ کا کہنا کیا حکم رکھتا ہے؟
- ۴۴۴ عورت کو بری الذمہ کہنے کا حکم
- ۴۴۵ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۴۶ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۴۴۷ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۴۸ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو جن حضرات کے نزدیک یہ طلاق نہیں قسم ہے۔
- ۴۴۹ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۵۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو ہبہ کر دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۵۱ اگر عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ نے تجھے مجھ سے راحت دی اور آدمی نے کہا ہاں تو کیا حکم ہے؟
- ۴۵۲ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے جو ہزار طلاقیں کے برابر ہے یا کہا کہ تجھے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

- ۴۵۹ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھر انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۶۱ اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے لیکن غلطی سے بیوی کو طلاق کے کلمات زبان سے نکال دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۶۱ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائیدہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۶۲ اگر ایک غلام کے نکاح میں آزاد عورت اور آزاد مرد کے نکاح میں باندی ہو تو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟
- ۴۶۳ جو حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اور عدت کا عورتوں سے ہے.....
- ۴۶۵ اگر کوئی شخص اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائے پھر باندی کو بیچ دے تو جن حضرات کے نزدیک اسے بیچنا طلاق کے مترادف ہے.....
- جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، البتہ خریدنے والا اس وقت تک جماع نہیں کر سکتا جب تک اسے طلاق نہ دے دی جائے.....
- ۴۶۶ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو شادی کی اجازت دے تو طلاق کا حق غلام کے پاس ہوگا.....
- ۴۶۸ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کا حق آقا کو ہوگا.....
- ۴۷۱ اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی.....
- ۴۷۱ اگر کافر کی کافرہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو جن حضرات کے نزدیک ان کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی.....
- ۴۷۳ اگر کسی کافر کی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو جن حضرات کے نزدیک یہ ایک طلاق کے حکم میں ہے.....
- ۴۷۴ اگر مسلمان ہونے والی عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو جن حضرات کے نزدیک وہ رجوع کا زیادہ حقدار ہے.....
- ۴۷۵ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا.....
- ۴۷۶ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۷۷ جن حضرات کے نزدیک مباراۃ (یعنی خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا) طلاق ہے.....
- ۴۷۸ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے.....
- ۴۷۹ اگر کسی باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا جائے اور وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۸۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۸۰ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۴۸۱ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟.....

- ۴۸۲ اگر ایک صاحبِ زوجہ شخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہے نہیں تو کیا حکم ہے؟
- ۴۸۳ اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۴۸۳ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک لفظ میں طلاق دی اور تین کی نیت کی تو کیا حکم ہے؟
- ۴۸۴ جو حضرات فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق ہے.....
- ۴۸۴ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں، پھر اس سے شادی کر لی تو اب اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟
- ۴۸۵ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاقِ جدید کا حق ہوگا.....
- ۴۸۶ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۸۸ اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۸۹ جو حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق اور غلام کو آزاد کرنے میں مزاح نہیں ہوتا، یہ لازم ہو جاتے ہیں.....
- ۴۸۹ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں طلاق دینے کا حکم.....
- ۴۹۱ آدمی کے لئے اپنی بیوی کو خلع کا کہنا کب درست ہے؟
- ۴۹۱ خلع کتنی طلاقوں کے قائم مقام ہے؟
- ۴۹۲ جو حضرات خلع کو طلاق نہیں سمجھتے.....
- ۴۹۷ خلع یافتہ عورت کی عدت.....
- ۴۹۷ جن حضرات کے نزدیک خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے.....
- ۴۹۸ خلع یافتہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟
- ۴۹۹ کیا سلطان کی مداخلت کے بغیر خلع ہو سکتی ہے؟
- ۵۰۰ جن حضرات کے نزدیک خلع کے لئے سلطان کے پاس جانا ضروری ہے.....
- ۵۰۱ اگر ایک آدمی خلع کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے تو جن حضرات کے نزدیک طلاق نافذ ہو جائے گی.....
- ۵۰۱ جن حضرات کے نزدیک خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی.....
- ۵۰۳ خلع لینے والی عورت کا نفقہ عدت کے دوران مرد پر لازم ہوگا یا نہیں؟
- ۵۰۳ خلع لینے والی عورت کے متعہ کے بارے میں علماء کی آراء.....
- ۵۰۵ خلع یافتہ عورت کا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟
- ۵۰۵ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۵۰۷ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں
- ۵۰۹ جن حضرات کے نزدیک مہر سے زیادہ بدل خلع دینا درست ہے
- ۵۱۰ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لی، پھر وہ اسی سے شادی کرتا ہے اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو کتنا مہر ملے گا؟
- ۵۱۱ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مہر ملے گا
- ۵۱۲ اگر ایک عورت نے خاوند کے مرض الموت میں اس سے خلع لی اور پھر وہ عدت میں مر گیا تو کیا حکم ہے؟
- ۵۱۲ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور پھر اس کو چار مہینے گزر گئے تو جن حضرات کے نزدیک ایسا کرنا ایک طلاق ہے
- ۵۱۵ جو حضرات فرماتے ہیں کہ چار مہینے گزرنے کے بعد حکم ایلاء کرنے والے (نولی) پر موقوف ہوگا
- ۵۱۷ جو حضرات ایلاء کو طلاق نہیں سمجھتے تھے
- ۵۱۸ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گزر جائیں تو عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے
- ۵۱۹ جن حضرات کے نزدیک چار مہینے سے کم کا ایلاء شرعی ایلاء نہیں ہے
- ۵۲۰ جن حضرات کے نزدیک چار مہینے سے کم کا ایلاء بھی شرعی ایلاء ہے
- ۵۲۱ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے لیکن کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نہ توڑ سکے اور زبان سے ایلاء کی قسم کو توڑنے کا کہہ دے تو جن کے نزدیک یہ رجوع کے حکم میں ہے
- ۵۲۲ جن حضرات کے نزدیک بغیر جماع کے ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی
- ۵۲۳ اگر کسی شخص کے نکاح میں باعدی ہو تو اس سے ایلاء کے لئے کتنا عرصہ ہوگا؟
- ۵۲۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۲۵ ایلاء غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے
- ۵۲۶ جن حضرات کے نزدیک ایلاء صرف قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے
- ۵۲۷ اگر کوئی شخص بیوی سے ایلاء کرے، پھر عورت عدت گزارے اور وہ پھر اس کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۲۸ اگر کوئی غلام اپنی آزاد بیوی سے ایلاء کرنا چاہے تو کتنی مدت ہوگی؟
- ۵۲۸ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اور عورت عدت ایلاء کو گزارنے لگے تو جن حضرات کے نزدیک خاوند عدت میں اسے پیام نکاح دے سکتا ہے
- ۵۲۹ جو شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا یا نہیں؟
- ۵۲۹ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں جگہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا تو جن حضرات کے نزدیک وہ ایلاء کرنے والا

- ۵۳۰ نہیں ہے
- ۵۳۱ جن حضرات کے نزدیک تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر نفقہ واجب ہوگا
- ۵۳۳ جو حضرات فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا
- ۵۳۴ اگر حاملہ کو طلاق دی جائے تو کیا مرد پر نفقہ واجب ہوگا
- ۵۳۵ کیا خلع لینے والی حاملہ کو نفقہ ملے گا؟
- ۵۳۶ جو حضرات فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی حاملہ کو نفقہ نہیں ملے گا
- ۵۳۶ اگر کوئی غلام اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دے تو جن حضرات کے نزدیک اس پر نفقہ لازم ہوگا
- اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو جن حضرات کے
- ۵۳۷ نزدیک اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا
- ۵۳۸ جن حضرات کے نزدیک ہر طلاق یا فتنہ عورت کے لئے متعہ ہے
- ۵۳۹ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لئے مہر مقرر کیا گیا ہو اسے متعہ نہیں ملے گا
- ۵۴۰ متعہ کیا ہے؟
- ۵۴۱ متعہ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار کا بیان
- ۵۴۲ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو استحاضہ کی حالت میں طلاق دے تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟
- ۵۴۳ اگر نفاس والی عورت کو طلاق دی جائے تو جن حضرات کے نزدیک وہ نفاس کو عدت میں شمار کرے گی
- ۵۴۴ عورت کے استحاضہ ہونے کا یقین کیسے ہوگا؟
- ۵۴۵ ”اقراء“ سے کیا مراد ہے؟
- ام ولد باندی کی عدت کا بیان، جن حضرات کے نزدیک اس کے آقا کے فوت ہونے کی صورت میں وہ تین حیض عدت
- ۵۴۵ گزارے گی
- ۵۴۶ جن حضرات کے نزدیک اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے
- ۵۴۷ جن حضرات کے نزدیک ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے
- ۵۴۸ اگر ام ولد کو آزاد کر دیا جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟
- ۵۴۹ جب باندی کو طلاق دی جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟
- ۵۵۱ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دے تو کیا اس پر عدت واجب ہوگی؟
- ۵۵۲ اگر کسی باندی کو آزاد کیا جائے اور اس کا خاوند ہو تو وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو عدت کا کیا حکم ہوگا؟

- ۵۵۲ اگر ایک آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اسے ایک طلاق دے دے پھر اس باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت کا کیا حکم ہے؟
- ۵۵۳ اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہو اور وہ آدمی مر جائے اور اس کی موت کے بعد باندی کو بھی آزاد کر دیا جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۵۴ اگر کوئی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اور پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو وہ کس عدت کو پہلے گزارے گی؟
- ۵۵۵ اگر ایک عورت کا کوئی خاوند ہو اور اس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہو اور وہ بچہ مر جائے تو جن حضرات کے نزدیک مرد اس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب تک اسے حیض نہ آجائے
- ۵۵۶ اگر نامرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو کیا عورت عدت گزارے گی؟
- ۵۵۷ کیا مرتد کی بیوی پر عدت لازم ہوگی؟
- ۵۵۸ اگر ذمیہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند مر جائے اور وہ عدت میں مسلمان ہو جائے تو کتنی عدت گزارے گی؟
- ۵۵۸ جن حضرات کے نزدیک عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اور ان کی عدت بھی مسلمان عورت کی طرح ہے
- ۵۶۰ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہوں، وہ ایک کو جنم دے دے تو عدت کا حکم ہے؟
- ۵۶۱ جن حضرات کے نزدیک اگر ایک بچے کو جنم دے دے تو عدت ختم ہو جاتی ہے
- ۵۶۲ عورت عدت کہاں گزارے گی؟
- ۵۶۳ جن حضرات کے نزدیک مطلقہ عدت میں اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ بھی کہیں رہ سکتی ہے
- ۵۶۳ اگر عورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اسے طلاق ہوگئی تو اب وہ کیا کرے؟
- ۵۶۵ کیا عورت عدت کے دنوں میں حج کر سکتی ہے؟
- ۵۶۶ جن حضرات نے عورت کو عدت میں حج کرنے کی اجازت دی ہے
- ۵۶۷ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے جن حضرات کے نزدیک وہ اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی
- ۵۷۰ جن حضرات کے نزدیک خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت اس کے گھر سے جا سکتی ہے
- ۵۷۱ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اسے ایک یا دو حیض آجائیں اور وہ عورت شادی کر لے تو کیا پہلے خاوند کے پاس رجوع کا حق ہوگا؟

- ۵۷۲ کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟
- ۵۷۳ ایک عورت کو اس کا خاوند طلاق دے اور پھر عدت میں اسے تیسرا حیض آجائے تو جن حضرات کے نزدیک اب خاوند رجوع نہیں کر سکتا
- ۵۷۴ جن حضرات کے نزدیک آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے
- ۵۷۵ ایک شخص اپنی بیوی کو اعلانیہ طلاق دے اور پھر رجوع کر لے لیکن عورت کو رجوع کا علم نہ ہو اور وہ شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۷۶ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟
- ۵۷۷ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی
- ۵۷۸ جن حضرات کے نزدیک عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فوسیدگی یا طلاق کی گواہی دیں
- ۵۷۹ اگر شادی شدہ غلام فرار ہو جائے تو کیا اس کا فرار ہونا طلاق کے مترادف ہے؟
- ۵۸۰ طلاق یافتہ عورت کا خاوند (جس کے پاس رجوع کا حق ہو) اس کے پاس آنے سے پہلے اجازت لے گا یا نہیں؟
- ۵۸۱ اگر خاوند کے پاس رجوع کا حق ہو تو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی
- ۵۸۲ جن حضرات کے نزدیک اگر آدمی نے عورت کو طلاق رجعی دی ہو تو وہ بناؤ سنگھار اور زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے
- ۵۸۳ جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ زیب و زینت کے حکم میں اس عورت کی طرح ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو
- ۵۸۴ وہ عورت جس کا خاوند انتقال کر گیا ہو وہ عدت میں زینت کی کن کن چیزوں سے اجتناب کرے گی؟
- ۵۸۵ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر اس کے ورثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا
- ۵۸۶ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا
- ۵۸۷ اگر ام ولد حاملہ ہو اور اس کا انتقال کر جائے تو اس پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟
- ۵۸۸ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کو حیض نہ آئے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۸۹ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق کو چھپائے رکھے یہاں تک کہ عدت گزار جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۵۹۰ جو حضرات فرماتے ہیں کہ دو حالت میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہوگا
- ۵۹۱ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟
- ۵۹۲ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوی سے دور چلا گیا ہو اس پر بھی بیوی کا نفقہ لازم ہے اگر وہ بھیجے تو ٹھیک و گرنہ طلاق دے
- ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸

- ۵۹۹ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو کیا عورت دخول سے پہلے اس سے نفقہ طلب کر سکتا ہے؟
- ۶۰۰ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی میں گھر سے نکلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟
- ۶۰۱ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو کیا وہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ پائے گی؟ ...
- ۶۰۲ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت کی حالت میں طلاق دے تو اگر عورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہو تو وارث ہوگی
- ۶۰۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکا ہو اور مرض الموت میں تیسری طلاق دے دے تو وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ ..
- ۶۰۴ اگر کوئی شخص کسی عمل پر طلاق یا آزادی کی قسم کھائے اور پھر بھول کر وہ کام کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۰۵ اگر دو آدمی کسی ایسی بات پر بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھالیں جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟
- ۶۰۶ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۰۸ ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کو طلاق دے اور فوت ہو جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس کو طلاق دی ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۰۹ اگر کوئی شخص طلاق کی قسم کھا کر کہے کہ وہ ضرور بضر دراپنے غلام کو مارے گا یا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی کرے گا اور ایسا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۱ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الوفا میں تین طلاقیں دے اور پھر انتقال کر جائے تو کیا عورت پر اس کی وفات کی عدت لازم ہوگی؟
- ۶۱۲ اگر کسی آدمی کے بارے میں تین شخصوں نے مختلف جگہوں میں طلاق دینے کی گواہی دی تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۳ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اور اس نے اپنے جسم کا کچھ حصہ اس گھر میں داخل کیا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۴ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۵ اگر ایک آدمی نے کسی چور کو پکڑا اور اس کے بارے میں اس سے بات کی گئی تو اس نے طلاق کی قسم کھالی، پھر وہ اس پر غالب آ گیا اور اس سے بھاگ گیا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۶ کیا کوئی شخص اپنی نابالغ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے؟
- ۶۱۷ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۸ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو چاہے تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

- ۶۱۵ طلاق کا اختیار کس کے قبضے میں ہوگا؟
- ۶۱۵ جن حضرات کے نزدیک حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہے
- ۶۱۶ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۶۱۸ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۱۸ مطلقہ کا نفقہ کتنا ہوگا؟
- ۶۱۹ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے اور اس کا چھوٹا بچہ ہو تو وہ کس کے پاس رہے گا؟
- ۶۲۱ اولیاء اور بچوں میں سے بچے کا زیادہ حقدار کون ہے؟
- ۶۲۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں ضرور بضرورت تجھ پر بہت زیادہ غصہ ڈھاؤں گا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۲۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا مرجائے اور اس کے گھر میں سامان ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۶۲۳ اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں مرجائیں اور اس کے حصے میں مال ہو تو اس کو دودھ پلانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟
- ۶۲۶ قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۶۲۸ جن حضرات کے نزدیک بچے کے دودھ کا انتظام مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں
- ۶۲۹ جب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا دودھ پیتا بچہ تھا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۰ کیا کسی عورت کو اس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟
- ۶۳۰ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے پھر لعان سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟
- ۶۳۲ اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۲ آدمی کو کس کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا؟
- ۶۳۳ اگر کوئی شخص اپنے والد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۳ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو "اے چھوٹی بہن" کہہ دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۳ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے اس کے پیسے چرائے ہیں اور پھر اس بات پر قسم کھالے کہ اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۳ اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۳ اگر ایک آدمی دو مردوں اور ایک عورت کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر دو گواہ مردوں میں سے ایک کا انتقال

- ۶۳۵ ہو جائے اور طلاق کے بارے میں ایک مرد اور ایک عورت گواہی دیں تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۵ اگر ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس کی بیوی کو تین طلاق تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۶ بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا جن حضرات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے
- ۶۳۶ اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق کر کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھائے اور پھر دونوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۷ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے خلع کی، حالانکہ اس نے خلع نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۶۳۸ آزاد عورت کو بچے کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟
- ۶۳۸ عورت کا گھربد لنے کے احکامات
- ۶۳۹ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اگر تو نے یہ لقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کو طلاق اور اتنے میں ایک لمبی آئی اور اس لقمہ کو کھا گئی تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۰ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا اس نے خط پڑھا لیکن کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۰ اگر کوئی غلام طلاق رجعی دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۱ اگر کوئی شخص عدت گزار جانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۱ اگر کسی آدمی کے بارے میں دو شخص گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے، اس کے بعد دونوں گواہوں میں سے ایک اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۲ قرآن مجید کی آیت ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ کی تفسیر
- ۶۴۲ جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پر دی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے
- ۶۴۵ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر وہ مر گیا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۵ اگر کسی خلع لینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تو اس کو اس شرط کا حق ہے
- ۶۴۶ مکاتبہ باندی کی طلاق کا بیان
- ۶۴۶ اگر ایک عورت اپنی عدت میں شادی کر لے پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے تو نفقہ کس پر واجب ہوگا؟
- ۶۴۶ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کا ارتکاب کریں اور اسے سنگسار کر دیا جائے تو کیا دوسرے کے لئے میراث ہوگی؟
- ۶۴۷ اگر کسی مرد نے اپنی نابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو کیا وہ لعان کرے گا؟
- ۶۴۷ ایک آدمی نے کسی عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ عورت کا معاملہ آدمی کے ہاتھ میں ہوگا

- ۶۴۷ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
- ۶۴۸ اگر آدمی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھر اسے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۸ اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ثالث بنا لیں اور پھر رجوع کر لیں تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۸ لعان کی کیا کیفیت ہے؟
- ۶۴۹ اگر کوئی شخص کسی حاملہ بیوی کو طلاق دے اور پھر وہ بچے کو جنم دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۴۹ غلام اگر طلاق دے تو اس پر متعہ لازم نہیں.....
- ۶۵۰ اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۰ اگر کسی آدمی کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دار الحرب چلی جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۰ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعد وہ گھر گر گیا تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۱ طلاق دینے کی اجازت کا بیان.....
- ۶۵۲ جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکروہ قرار دیا ہے.....
- ۶۵۲ خلع طلب کرنے کی ناپسندیدگی کا بیان.....
- ۶۵۳ قرآن مجید کی آیت ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر.....
- ۶۵۳ اگر ایک آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے کہا جائے کہ اس کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۵ عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بیان.....
- ۶۵۷ اگر نامکمل بچہ پیدا ہو جائے تو کیا عدت مکمل ہو جائے گی؟
- ۶۵۸ اگر دو آدمیوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور ہر ایک اپنی بات کو حق کہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۸ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵۹ عورت کا اپنے خاوند کی وفات پر سوگ منانا.....
- ۶۶۱ جو حضرات سوگ کے قائل نہ تھے.....
- ۶۶۱ عورت کی شرمگاہ اس کے پاس امانت ہے.....
- ۶۶۲ حیض کی مدت کا بیان.....



کِتَابُ النِّكَاحِ

(۱) فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحْتُ عَلَيْهِ

جو حضرات نکاح کا حکم اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : (۱۶۱۵۲) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي الْمُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكَحَ فَلَمْ يَنْكَحْ فَلَيْسَ مِنَّا . (ابوداؤد ۲۰۲ - عبدالرزاق ۷۶-۱۰۳)

(۱۶۱۵۲) حضرت ابو جریج سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کی وسعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

(۱۶۱۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَلَّ ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَا . (مسلم ۱۰۲۰ - احمد ۱۷۶/۱)

(۱۶۱۵۳) حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے۔

(۱۶۱۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أُمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنَى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا أُرْوُجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَدُكَّرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبُصْرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،

فَإِنَّهُ لَهٗ وَجَاءَ. (بخاری ۵۰۶۵۔ مسلم ۱۰۱۸)

(۱۶۱۵۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں منیٰ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس دوران امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن! میں ایک جوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کروادوں؟ شاید وہ آپ کے ماضی کوتازہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھی یہ بات کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں! تم میں جو شادی اور اس کے تعلقات پر دسترس رکھتا ہو اسے چاہئے کہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نگاہ کو جھکانے والی اور شرمگاہ کو پاکیزہ بنانے والی ہے۔ جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مستقل روزہ رکھے کیونکہ یہ روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا۔

(۱۶۱۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهٗ وَجَاءَ. (بخاری ۵۰۶۶۔ مسلم ۱۰۱۹)

(۱۶۱۵۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں! تم میں جو شادی اور اس کے تعلقات پر دسترس رکھتا ہو اسے چاہئے کہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نگاہ کو جھکانے والی اور شرمگاہ کو پاکیزہ بنانے والی ہے۔ جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مستقل روزہ رکھے کیونکہ یہ روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا۔

(۱۶۱۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصْرُهُ قَالَ : زَوَّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْرَبًا .

(۱۶۱۵۶) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت شداد بن اوس کی بیٹی ختم ہوگئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میری شادی کرادو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات نہ کرو کہ میں شادی شدہ نہ ہوں۔

(۱۶۱۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوَّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْرَبًا .

(۱۶۱۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرض الوفا میں فرمایا کہ میری شادی کرادو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بغیر نکاح کی حالت کے ملنا پسند نہیں کرتا۔

(۱۶۱۵۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي طَاوُوسٌ : تَتَنَكَّحَنَّ ، أَوْ لَا قَوْلَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزُّوَّائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ ، أَوْ فُجُورٌ .

(۱۶۱۵۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت طاووس نے مجھ سے فرمایا کہ یا تو نکاح کر لو ورنہ میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابواز وائد سے کہی تھی کہ تمہیں نکاح سے یا تو کمزوری نے روکا ہے یا بدکاری نے۔

(۱۶۱۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجْبِيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَتَمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ .
(۱۶۱۵۹) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جوان کی عبادتیں اور قربانیاں بغیر نکاح کے کامل نہیں ہو سکتیں۔

(۱۶۱۶۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوْ لَوْ لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ .
(۱۶۱۶۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف دس دن زندہ رہنا ہو تو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی بیوی ہو۔

(۱۶۱۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ .
(۱۶۱۶۱) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں مال ملے گا۔

(۱۶۱۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ابْتِغَاؤِ الْغِنَى فِي الْبَائَةِ .
(۱۶۱۶۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شادی کر کے مال کی امید رکھو۔

(۱۶۱۶۳) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ . (بيهقي ۷۸)
(۱۶۱۶۳) حضرت طاوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں۔

(۱۶۱۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ .
(۱۶۱۶۴) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف ایک رات زندہ رہنا ہو تو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی بیوی ہو۔

(۱۶۱۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَحْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُنِكَحَ الْمَرْأَةَ بِالتُّرْبِ إِلَى الْأَجْلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .
(۱۶۱۶۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان حضور ﷺ کے پاس تھے، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم

(بخاری ۳۶۱۵ - مسلم ۱۱)

(۱۶۱۶۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان حضور ﷺ کے پاس تھے، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم

اپنی مردانہ خواہشات کو ختم نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے اس بات کی رخصت دی کہ ہم کسی کپڑے کے بدلے عورت سے ہمیشہ کا نکاح کر لیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی (ترجمہ) اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔

(۱۶۱۶۶) حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سُمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ التَّبْتُلِ . (ترمذی ۱۰۸۲ - احمد ۵ / ۱۷)

(۱۶۱۶۶) حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲) مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا

(۱۶۱۶۷) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوْ الْوَلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . (ابوداؤد ۲۰۷۶ - احمد ۶ / ۱۷۵)

(۱۶۱۶۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے ولی یا سرپرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس کے خاوند نے اس سے نفع اٹھایا تو عورت کو اتنا مہر مل جائے گا جس قدر اس نے نفع اٹھایا۔ اگر ولیوں کا اختلاف ہو جائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔

(۱۶۱۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَخِي لَعْبِيدِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ عَمْرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا .

(۱۶۱۶۸) حضرت عبد الرحمن بن معبد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے نکاح کو رد کر دیا تھا۔

(۱۶۱۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَمَرَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ .

(۱۶۱۶۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ .

(۱۶۱۷۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح کے معاملے میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخت حضرت علیؓ تھے۔ وہ ایسا کرنے پر مارا کرتے تھے۔

(۱۶۱۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ .

(۱۶۱۷۱) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ولی یا سمجھدار سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۷۲) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ .

(۱۶۱۷۲) حضرت جابر بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ .

(۱۶۱۷۳) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ، أَوْ سُلْطَانٍ .

(۱۶۱۷۴) حضرت حسنؓ فرمایا کرتے تھے کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۷۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ .

(۱۶۱۷۵) حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہی منعقد ہوگا اگر کوئی ولی نہ ہو تو سلطان اس کا ولی ہے۔

(۱۶۱۷۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۱۷۶) حضرت ابراہیمؓ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۱۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشْرَةَ ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ .

(۱۶۱۷۷) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورت خواہ دس مرتبہ نکاح کرے اس کا نکاح ولی کی اجازت سے یا سلطان کی اجازت سے ہی ہوگا۔

(۱۶۱۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(۱۶۱۷۸) حضرت حسنؓ اور حضرت ابن سیرینؓ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی کون ہوگا؟ حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ سلطان اور حضرت ابن سیرینؓ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان۔

(۱۶۱۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : لَا تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَلَا يُنْكَحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا .

(۱۶۱۷۹) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس کا ولی اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرے گا۔

(۱۶۱۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُمِّي عَمْرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجْنِي بِشَهَادَةِ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي .

(۱۶۱۸۰) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ سے شادی کی ہے۔ خاوند نے کہا کہ میں نے اپنی ماں اور اپنی بہن کو گواہ بنا کر اس سے شادی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں میں فرقت کروائی اور ان سے حد کو ساقط کر دیا اور فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ .

(۱۶۱۸۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَالسُّلْطَانِ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . (احمد ۱/ ۲۵۰۔ ابن ماجہ ۱۸۸۰)

(۱۶۱۸۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔

(۱۶۱۸۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَأْمُومَةٍ وَشُهُودٍ وَعَلَانِيَةٍ .

(۱۶۱۸۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر، دو عادل گواہوں کے بغیر، معلوم صدقہ یعنی مہر کے بغیر اور علانیہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۸۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلَى ، حَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيْزَوْجَهَا رَجُلٌ مِنْ جَبْرَانِهَا ، قَالَ : تَلَيْتِي الْأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أضعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمُ رَجُلًا يَكَلِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أضعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إِذَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُحْصَةً .

(۱۶۱۸۴) حضرت معتمر کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو اور کوئی شخص اسے

نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا اس لڑکی ہمسایہ اس کا نکاح کروا سکتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ وہ امیر وقت سے کہے گی۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کی دسترس نہ رکھتی ہو تو؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی کے ذمے لگائے کہ وہ امیر سے بات کرے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کی بھی دسترس نہ رکھتی ہو تو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ کیا قاضی اس کا نکاح کرا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس صورت میں قاضی کرا سکتا ہے۔ البتہ حضرت حسن نے قاضی کے لئے رخصت رکھی۔

(۱۶۱۸۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ : إِذَا اتَّفَقَ الْوَالِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوُّجًا ، وَإِنْ اختلفَا فَالْوَالِيُّ .

(۱۶۱۸۵) حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ جب ولی اور لڑکی کی ماں کا اتفاق ہو جائے تو دونوں اس کی شادی کرا دیں اور اگر اختلاف ہو تو ولی کا قول معتبر ہوگا۔

(۱۶۱۸۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . (ابوداؤد ۲۰۷۸ - احمد ۳۹۳)

(۱۶۱۸۶) حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۸۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكْمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ .

(۱۶۱۸۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نکاح میں کم از کم چار افراد ہونے چاہئیں: شادی کرانے والا، شادی کرنے والا اور دو گواہ۔

(۱۶۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ .

(۱۶۱۸۸) حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۶۱۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَالِيُّ وَرَجُلٌ .

(۱۶۱۸۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ ایک آدمی کو لے کر گئے اور ولی ایک آدمی کو لے کر آیا۔

(۱۶۱۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ .

(۱۶۱۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح میں کم از کم چار آدمی ضرور ہوں: شادی کرنے والا، شادی کرانے والا، دو گواہ۔

(۲) فی المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۱۹۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتْ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَيْبًا أَمَرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ النَّكَاحَ وَالْمُنْكَاحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۶۱۹۱) حضرت عکرمہ بن خالد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راستے میں مختلف قافلے جمع ہوئے ان میں ایک شیبہ عورت نے اپنا معاملہ اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کیا کہ وہ کسی سے اس کی شادی کرادے۔ اس نے کسی آدمی سے اس کی شادی کرادی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو خبر ہوئی تو انہوں نے نکاح کرنے والے اور نکاح کروانے والے کو کوڑا مارا اور ان کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۶۱۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ أَجْزَأَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۶۱۹۲) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء اجازت دے دیں تو پھر جائز ہے۔

(۱۶۱۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَّتْ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ.

(۱۶۱۹۳) حضرت مصعب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں۔

(۱۶۱۹۴) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ، عَنْ سَفِيَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا نِكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازًا.

(۱۶۱۹۴) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کا نکاح کرایا گیا، پھر ولی نے اجازت دے دی تو اس کا نکاح ہو گیا۔

(۱۶۱۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرِ قَالَ: تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيْنَةٍ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجَلَّدَ مِنْهُ، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

(۱۶۱۹۵) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ولی کی اجازت اور گواہی کے بغیر نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس بارے میں خط لکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اسے سو کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر آپ نے سب شہروں میں خط لکھا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ زانیہ کی طرح ہے۔

(۱۶۱۹۶) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الزَّوْمِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ: الْوَلِيُّ وَالْأَمْرُ لِلْمُسْلِمَانِ.

(۱۶۱۹۶) اہل جزیرہ کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کی شادی کرائی جبکہ اس مرد کے علاوہ اس کا کوئی اور قریب کا ولی بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ پہلا حق ولی کا ہے پھر سلطان کا۔

(۷) باب من أجازة بغير ولي وكلم يفرق

جن حضرات کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح کی صورت میں میاں بیوی میں جدائی

نہیں کرائی جائے گی

(۱۶۱۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِيَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شُورٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مَذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ، فَوَضَعَتْ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خُلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُنْصَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْبِي يَكُونُ سِرًّا؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: أَدَخَلْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

(۱۶۱۹۷) حضرت بحریہ بنت ہانیہ فرماتی ہیں کہ میں نے قعقاع بن شور سے شادی کی۔ انہوں نے مجھے سونے کا زیور دیا کہ وہ میرے پاس ایک رات گذاریں۔ چنانچہ انہوں نے میرے گھرات گذاری۔ میں نے خلوق کا ایک برتن ان کے پاس رکھا۔ صبح ان کے کپڑوں پر خلوق خوشبو لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس خوشبو کی وجہ سے میری رسوائی کا سامان کر دیا کہ اب اس شادی کا سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مجھ جیسی سے کوئی راز رہ سکتا ہے؟ پھر میرے دیہاتی والد آئے اور قعقاع بن شور کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قعقاع سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیوی سے دخول کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کو جائز قرار دیا۔

(۱۶۱۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجُ بَغَيْرِ وَلِيِّهَا.

(۱۶۱۹۸) حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یزید سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

کہ بغیر ولی کے عورت کی شادی کرنا جائز ہے۔

(۱۶۱۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وِلْيَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفْرًا جَازًا. (۱۶۱۹۹) حضرت معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے سوال کیا کہ کیا عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر خاندانی بیوی کا کفو ہو تو جائز ہے۔

(۱۶۲۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ كُفْرًا جَازًا. (۱۶۲۰۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کفو ہوں تو جائز ہیں۔

(۱۶۲۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وِلْيَةٍ أَنْكَحَتْهَا أُمَّهَا بِرِضَاهَا. (۱۶۲۰۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر ولی کے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی ماں اس کی اجازت سے اس کا نکاح کر سکتی ہے۔

(۱۶۲۰۲) حَدَّثَنَا سَلَامٌ وَجَبْرِو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَانَبَ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّ وَوَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهٗ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ أَلُوهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ لِكَ، أَذْهَبِي فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ. (عبدالرزاق ۱۰۳۰۳)

(۱۶۲۰۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرے چچا زاد بھائی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن میرے والد نے اس رشتے کو رد کر دیا اور میری شادی ایسی جگہ کرادی جہاں مجھے پسند نہیں۔ حضور ﷺ نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح کر لیا ہے اور اس کے لئے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ نبی پاک ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، جاؤ اور جس سے چاہو نکاح کر لو۔

(۱۶۲۰۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّينَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةَ لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخَطَبَتْ فَكَرِهَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ نَيْبًا. (بخاری ۵۱۳۹۔ ابوداؤد ۲۰۹۳)

(۱۶۲۰۳) حضرت عبدالرحمن بن یزید انصاری اور مجح بن یزید انصاری فرماتے ہیں کہ خدام نامی ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی۔ اس لڑکی نے اپنے والد کے کرائے ہوئے نکاح کو ناپسند کیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور ساری بات

کا ذکر کیا۔ حضور ﷺ نے اس کے والد کے نکاح کو مسترد کر دیا۔ پھر اس کے نکاح کے پیغام آئے اور انہوں نے ابولبابہ بن عبدالمذر سے نکاح کر لیا۔ راوی یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ وہ شیبہ تھیں۔

(۱۶۲.۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللَّهِ ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُّرْغَبُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ .

(۱۶۲.۴) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی شادی منذر بن زبیر سے کرادی۔ اس وقت ان کے والد عبد الرحمن غائب تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن واپس آئے تو بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندو! کیا میرے جیسے شخص اس قابل ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے بارے میں اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کیا جائے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غصہ میں آئیں اور فرمایا کہ کیا منذر جیسے لوگوں سے اعراض کیا جاسکتا ہے؟

(۱۶۲.۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وَأَمَهَا ، قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيُّ النَّكَاحَ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيِّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ .

(۱۶۲.۵) حضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسی عورت کا مقدمہ آیا جس کے ماموں اور اس کی ماں نے اس کی شادی کرادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے نکاح کو جائز قرار دیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کیونکہ یہ ولی نہیں ہیں۔ حضرت علی بن صالح فرماتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا تو وہ ولی کے درجہ میں تھے۔

(۱۶۲.۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيِّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ .

(۱۶۲.۶) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسے شخص کا مقدمہ آیا جس نے ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی کی اور اس سے دخول بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔

(۵) مِنْ قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَزُوجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَّجُلِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کسی عورت کی شادی نہیں کرا سکتی بلکہ نکاح کروانے

کا اختیار مردوں کو ہے

(۱۶۲.۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ .

(۱۶۲۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح کرانے کا اختیار عورت کو نہیں بلکہ یہ اختیار مرد کو ہے۔

(۱۶۲۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنَاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : يَا فَلَانُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحُنَّ .

(۱۶۲۰۸) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب دیکھتیں کہ ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی نوجوان کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان پردہ کر دیتیں اور بات کرتیں۔ اور جب نکاح کے علاوہ کوئی صورت نہ بچتی تو فرماتیں اے فلاں! ان کا نکاح کرادو کیونکہ عورتیں نکاح نہیں کر سکتیں۔

(۱۶۲۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ .

(۱۶۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت عورت کی شادی نہیں کر سکتی۔

(۱۶۲۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ .

(۱۶۲۱۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عورت عورت کی شادی نہیں کر سکتی۔

(۱۶۲۱۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَزُوجُ الْمَرْأَةَ أُمَّهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تَزُوجْهَا .

(۱۶۲۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عورت اپنی باندی کی شادی کر سکتی ہے، جب وہ اسے آزاد کر دے تو اس کی شادی نہیں کر سکتی۔

(۱۶۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، بِعِنَى الْخُطْبَةِ وَلَا تَنْكِحُ .

(۱۶۲۱۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت پیغام نکاح کے وقت حاضر نہ ہوگی اور نہ نکاح کر سکتی ہے۔

(۶) فِي الْمَرْأَةِ تَزُوجُ نَفْسَهَا

کیا ایک عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟

(۱۶۲۱۳) حَدَّثَنَا عَسَانُ بْنُ مِصْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتُحَدِّثِينِي أَنَّكَ زَانِيَةٌ ؟ فَسَفَعَتْ بَرْنَةً ثُمَّ انْطَلَقَتْ .

(۱۶۲۱۳) حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت جابر بن زید کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کرادی۔ حضرت جابر بن زید نے فرمایا کہ تو مجھ سے یہ گفتگو کر رہی ہے کہ تو نے زنا کیا ہے! یہ سن کر اس عورت نے بیچ ماری اور اس کا رنگ بدل گیا پھر وہ چلی گئی۔

(۱۶۲۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُنِكَحُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنِكَحُ نَفْسَهَا .

(۱۶۲۱۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اسلاف کہا کرتے تھے کہ زانیہ وہ ہے جو اپنا نکاح خود کرادے۔

(۱۶۲۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ .

(۱۶۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۲۱۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الْبَغَايَا اللَّائِي يُنِكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْتَةٍ .

(۱۶۲۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فاحشہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر گواہی کے اپنا نکاح کر لیتی ہیں۔

(۷) الرجل يزوج ابنته من قال يستامرهما

جو حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا

(۱۶۲۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَامَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَعِهِنَّ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحِينَّ ، قَالَ : الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْيَمِينُ أَحَقُّ بِفَرْجِهَا .

(بخاری ۶۹۳۶ - مسلم ۶۵)

(۱۶۲۱۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرانے سے پہلے عورتوں سے اجازت طلب کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ اس بات سے حیا کریں گی! حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیوہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے، باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے۔

(۱۶۲۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْيَمِينُ أَحَقُّ بِفَرْجِهَا .

(ترمذی ۱۱۰۸ - ابو داؤد ۲۰۹۱)

(۱۶۲۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیوہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حق دار ہے، باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے۔

(۱۶۲۱۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَيَّ جَنْبِ خِدْرِيهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَحْطُبُ فُلَانَةً فَإِنْ سَكَتُ بِهِ رَوَّجَهَا ، وَإِنْ طَعَنْتُ

بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصُ بِيَدِهِ السَّبَابَةَ أَى يَطْعَنُ فِى فَيْحِذِهِ لَمْ يَزُوجْهَا. (عبدالرزاق ۱۰۲۷۹- بزار ۱۳۲۱)

(۱۶۲۱۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی کسی صاحبزادی کا پیغام نکاح آتا تو آپ اس کے پردہ والے کمرے کے پاس بیٹھ کر فرماتے کہ فلاں نے فلاں کے لئے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ اگر وہ خاموش رہتیں تو وہ نکاح کر دیتے اور اگر وہ اپنے ہاتھ چھوٹیں تو آپ ان کی شادی نہ کراتے۔ یہ کہتے ہوئے راوی حضرت حفص نے اپنی انکشت شہادت کو ران میں چھبویا۔
(۱۶۲۲۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لَا يَزُوجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمَرَهَا .
(۱۶۲۲۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیٹی کی اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس سے اجازت طلب نہ کرے۔

(۱۶۲۲۱) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِى عِيَالٍ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمَرَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِى غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا .
(۱۶۲۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے باپ کی سرپرستی میں ہو تو وہ اس سے اجازت طلب نہیں کرے گا اور اگر وہ کسی اور کی سرپرستی میں ہو تو اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا۔

(۱۶۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِى النِّكَاحِ الْبِكْرَ وَالْتَيْبَ .
(۱۶۲۲۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی باکرہ اور ثیبہ بیٹی کا نکاح کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا۔
(۱۶۲۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بَكْرًا كَانَ ، أَوْ تَيْبًا ، كَرِهْتُ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهُ .

(۱۶۲۲۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ باپ کے لئے بیٹی کا نکاح ہر صورت میں کرانا جائز ہے، خواہ وہ باکرہ ہو یا ثیبہ اور خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند۔

(۱۶۲۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ التَّيْبَ عَلَى نِكَاحِ هِيَ تَكْرَهُهُ .

(۱۶۲۲۴) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے اپنی ثیبہ بیٹی کا نکاح ایسی جگہ کرانا مکروہ نہیں جہاں نکاح کو وہ ناپسند سمجھتی ہو۔
(۱۶۲۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ : إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لِأَزْمَ لَهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ .

(۱۶۲۲۵) حضرت قاسم اور حضرت سالم فرمایا کرتے تھے کہ جب باکرہ کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا تو وہ طے ہو گیا خواہ اس کو ناپسند ہو۔

(۱۶۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنَّ أَبَا الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ،

قَالَ: يَتَّبِعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الصَّدَاقِ أَحْسَى أَنْ يَفْعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهِيَ أَحَقُّ.

(۱۶۲۲۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر باکرہ لڑکی کا باپ کسی سے اس کا نکاح کرانا چاہے اور وہ کسی اور سے نکاح کی خواہش مند ہو تو باپ کو چاہئے کہ وہ اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کرے اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اگرچہ باپ کی پسند کے رشتے میں مہر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر لڑکی کا باپ اسے مجبور کرے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۲۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.

(۱۶۲۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باپ کے سوا کوئی عورت کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔

(۱۶۲۲۸) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَزُوجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ فَعَدَّ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَدُكُرُّكَ.

(۱۶۲۲۸) حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ جب کسی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ فلاں تمہارا ذکر کر رہا تھا۔

(۱۶۲۲۹) حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبِيهَا.

(۱۶۲۲۹) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ باکرہ عورت سے اجازت طلب کی جائے گی خواہ وہ اپنے والدین کے درمیان ہو۔

(۱۶۲۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرَفَعَ بِي خَمْسِي سَنَةً وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِهَا ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ: أَمَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟ (احمد ۱/۱۳۶ - دارقطنی ۳۵)

(۱۶۲۳۰) حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کرادی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی غربت کو دور کر سکے۔ مجھے یہ نکاح ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، حضور ﷺ تشریف لائیں تو فیصلہ فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ سے ساری بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے والد کو بلا بھیجا۔ آپ نے فیصلے کا اختیار اس عورت کو دے دیا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اگر فیصلے کا اختیار مجھے ہے تو میں اپنے والد کے کئے گئے نکاح کو جائز قرار دیتی ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا عورتوں کو کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں؟

(۸) فی الیتیمۃ مَنْ قَالَ تُسْتَأْمَرُ فِی نَفْسِهَا

جو حضرات فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی سے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گی

اور اس کا اقرار اس کی خاموشی ہے

(۱۶۲۳۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ يَلْعُغٍ بِه النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا. (عبد الرزاق ۱۰۳۹۵)

(۱۶۲۳۱) حضرت سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا اقرار اس کی خاموشی ہے۔

(۱۶۲۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ لَبِثَتْ فَهِيَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

(ابوداؤد ۴۰۸۶-۲/۲۵۹)

(۱۶۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی، اگر وہ قبول کرے تو یہ اس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں۔

(۱۶۲۳۳) حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تَنْكُحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَفْرَطَتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِفْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تَنْكُحُ. (احمد ۴۰۸/۳- دارقطنی ۷۷)

(۱۶۲۳۳) حضرت ابو بردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی یتیم لڑکی کو نکاح کا پیغام بھجوایا گیا تو اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس سے اجازت نہ طلب کی جائے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اس کا سکوت اس کا اقرار ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

(۱۶۲۳۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرِضَاهَا أَنْ تُسْكُتَ. (۱۶۲۳۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی سے اس کی رضا طلب کی جائے گی اور اس کی رضا اس کی خاموشی ہے۔

(۱۶۲۳۵) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مَثَلَهُ. (۱۶۲۳۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۲۳۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ قَالُوا: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تُسْكُتَ.

(۱۶۲۳۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی سے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی رضا اس کی خاموشی ہے۔

(۱۶۲۳۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زَوَّجْتَ الْيَتِيمَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهَوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزُوجْ .

(۱۶۲۳۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یتیم لڑکی کی شادی کرائی جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضا ہے اور اگر اس نے ناپسند کیا تو اس کی شادی نہیں کرائی جائے گی۔

(۱۶۲۳۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شَرِيحٍ قَالَ : إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلِمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعْضَتْ لَمْ تُنْكَحْ .

(۱۶۲۳۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہے اور راضی رہے تو گویا اس نے مان لیا اور اگر وہ ناپسند کرے اور اظہار ناگواری کرے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

(۱۶۲۳۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجْتَ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ ، أَوْ بَكَتْ فَهَوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزُوجْ ، وَلَمْ يَذْكَرْ جَرِيرٌ كَرِهَتْ . (احمد ۳/۳۹۳ - ابن حبان ۳۰۸۵)

(۱۶۲۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کی شادی کرائی گئی، اگر وہ خاموش رہی یا روپڑی تو یہ اس کی رضا ہے، اگر اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس کی شادی نہ کرائی جائے گی۔

(۱۶۲۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : إِذَا زَوَّجْتَ فَضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ فَهَوَ رِضَاهَا .

(۱۶۲۴۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی کی اگر شادی کرائی جائے اور وہ ہنس پڑے یا روپڑے یا خاموش رہے تو یہ اس کی رضا مندی ہے۔

(۱۶۲۴۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ .

(۱۶۲۴۱) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم لڑکی سے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

(۹) فی الولیین یزوّجان

اگر دو ولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معتبر ہے؟

(۱۶۲۴۲) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ . (مسلم ۷- ابن ماجہ ۲۱۹۰)

(۱۶۲۴۲) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

(۱۶۲۴۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ . (ابوداؤد ۲۰۸۱- ابن ماجہ ۲۱۹۱)

(۱۶۲۴۳) حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

(۱۶۲۴۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَتَرَرَّ جَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرَ قَبْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا عَلَى لِأَوَّلٍ بَعْدَ مَا وُلِدَتْ لِلْآخَرِ .

(۱۶۲۴۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا نکاح کوفہ میں موجود ایک ولی ”عبید اللہ“ نے کیا، جبکہ شام میں موجود ایک شخص نے عبید اللہ سے پہلے اس سے نکاح کر لیا تو کس کا نکاح معتبر ہوگا؟ جب شام میں موجود آدمی کوفہ آیا تو وہ یہ مقدمہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے کے حق میں فیصلہ کر دیا حالانکہ دوسرے سے اس کا بچہ پیدا ہو چکا تھا۔

(۱۶۲۴۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَوَّلِ عُبَيْدُ اللَّهِ .

(۱۶۲۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گذشتہ روایت میں پہلے سے مراد ”عبید اللہ“ ہے۔

(۱۶۲۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ فَالنَّكَاحُ لِلْأَوَّلِ .

(۱۶۲۴۶) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

(۱۶۲۴۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْوَالِيَيْنِ يَزْوُّجَانِ ، قَالَ : تَخَيَّرَ .

(۱۶۲۳۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر دو ولیوں نے کسی عورت کی شادی کرادی تو عورت کو اختیار دیا جائے گا۔

(۱۶۲۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ .

(۱۶۲۳۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

(۱۶۲۴۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ

جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلَيْتَهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسِ ، وَزَوَّجَهَا أُخُوها رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْهَا شَهْرًا عَدُولًا ثُمَّ خَيْرُهَا ، فَأَيُّهُمَا اخْتَارَتْ فَهِيَ زَوْجُهَا .

(۱۶۲۳۹) حضرت ثابت بن قیس غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خط لکھا کہ جہینہ قبیلے کی ایک لڑکی

کا نکاح اس کے ولی نے قبیلہ قیس کے ایک آدمی سے کر دیا، جبکہ اس کے بھائی نے اس کا نکاح جہینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کرایا

ہے، اب وہ کس کی بیوی ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کے سامنے عادل گواہ لاؤ پھر اسے اختیار دو، وہ جس کو اختیار

کرے وہی اس کا شوہر ہے۔

(۱۶۲۵۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سَفِيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَسْوَدٍ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تَخَيَّرَ .

(۱۶۲۵۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر دو بھائیوں نے مختلف جگہ اپنی ایک بہن کی شادی کرادی تو اس کو دونوں کے بارے میں

اختیار ہوگا۔

(۱۶۲۵۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْوَلِيِّينِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهِيَ

زَوْجُهَا .

(۱۶۲۵۱) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر دو ولیوں نے کسی عورت کی شادی کرادی تو جس سے وہ راضی ہو وہی اس کا خاوند ہے۔

(۱۰) الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ

اگر یتیم لڑکی کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرادی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۲۵۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الدِّيَالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمِينَ : إِذَا

زَوَّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ .

(۱۶۲۵۲) حضرت سلم بن ابی ذیال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں ایک حکم نامہ لکھا کہ اگر ایک یتیم لڑکی اور

ایک یتیم لڑکی کے نابالغ ہونے کی حالت میں ان کی شادی کرادی گئی تو نابالغ ہونے پر انہیں اختیار ہے۔

(۱۶۲۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ .

(۱۶۲۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے اختیار ہے۔

(۱۶۲۵۴) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ .
(۱۶۲۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اسے اختیار ہے۔

(۱۶۲۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زُمَعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الصَّغِيرَاتِ ، قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَا .
(۱۶۲۵۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جب یتیم بچوں کا نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح کرایا گیا تو بالغ ہونے پر نہیں اختیار ہے۔

(۱۶۲۵۶) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلِهَا الْخِيَارُ .

(۱۶۲۵۶) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب یتیم لڑکی کے ولی نے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے اور اسے اختیار ہوگا۔

(۱۶۲۵۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا .
(۱۶۲۵۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح جائز ہے اور اسے اختیار بھی نہیں۔

(۱۱) المرأة يأبى وليها أن يزوجهَا

اگر کسی عورت کا ولی اس کا نکاح کرانے سے انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۲۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ نَيْبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يَزَوِّجَهَا ، فَكَتَبَتْ إِلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنَّ كُفْرًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يَزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَرَّوْجُهَا .

(۱۶۲۵۸) حضرت زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بنو لیس کی ایک شیبہ عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی کرانے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو خط لکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے خط لکھ کر حکم دیا کہ اگر وہ آدمی اس عورت کا کفو ہے تو اس کے باپ سے کہو کہ اس کی شادی کرادے۔ اگر وہ شادی نہ کرانے تو پھر بھی اس کی شادی کرادو۔

(۱۶۲۵۹) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رَدَّ أَمْرَهَا إِلَيْهَا .

(۱۶۲۵۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ولی اور سلطان کا اختلاف ہو گیا تو سلطان دیکھے گا اگر ولی عورت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس عورت کی بات معتبر ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو تو معاملہ ولی کے سپرد ہوگا۔

(۱۶۲۶۰) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ شَرِيحًا مَعَهَا

أُمُّهَا وَعَمَّتْهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمَّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الْيَدَى اخْتَارَتْ أُمَّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذُنُ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آذُنُ قَالَ : تَأْذُنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنُ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آذُنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذْهَبِي فَاثْبُحِي ابْنَتَكَ مِنْ شَيْتَانِ .

(۱۶۲۶۰) حضرت ابو جعفر اشجعی کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنی ماں اور اپنے چچا کے ساتھ حضرت شریح کے پاس آئی۔ اس کی ماں ایک آدمی سے اور اس کا چچا دوسرے آدمی سے اس کا نکاح کرانا چاہتا تھا۔ حضرت شریح نے اس عورت کو اختیار دیا تو اس عورت نے اپنی ماں کی پسند کو اختیار کیا۔ حضرت شریح نے اس کے چچا سے پوچھا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم! ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو قبل اس کے کہ تمہاری اجازت نہ رہے۔ اس کے چچا نے کہا کہ میں خدا کی قسم! ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت شریح نے اس عورت کی ماں سے فرمایا تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور جہاں چاہو اس کا نکاح کرادو۔

(۱۶) فِي رَجُلٍ يَزُوجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مِنْ أَجَازَةٍ

جن حضرات کے نزدیک نابالغ بیٹے کا نکاح کرانا باپ کے لئے جائز ہے

(۱۶۲۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهِ لَلنِّسَاءِ يَنْكَاحُ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ .

(۱۶۲۶۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کر لیا اور وہ اس پر راضی نہیں تھا تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کر لیا تو جائز ہے۔

(۱۶۲۶۲) حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّآ .

(۱۶۲۶۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر لیا تو نابالغ ہونے کے بعد انہیں اختیار ہوگا۔

(۱۶۲۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ .

(۱۶۲۶۳) حضرت زہری، حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادا نابالغ بچوں کا نکاح کر دیں تو نکاح جائز ہے۔

(۱۶۲۶۴) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْإِبْنِ .

(۱۶۲۶۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے البتہ مہر بیٹے پر واجب ہوگا۔

(۱۶۲۶۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ .

(۱۶۲۶۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نکاح پر باپ کے سوا کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔

(۱۶۲۶۶) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَيُكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقٌ لَهُ .

(۱۶۲۶۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے اور اس بچے کے پاس طلاق کا حق نہیں ہوگا۔

(۱۳) فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَيَّ مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ

اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو مہر کس پر واجب ہوگا؟

(۱۶۲۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَيَنْصَفُ الْمَهْرَ عَلَى الْوَدَى كَقَوْلِهِ .

(۱۶۲۶۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو یہ جائز ہے۔ البتہ جب وہ بالغ ہو اور طلاق دے تو نصف مہر اس پر واجب ہوگا جو بچے کا کفیل ہے۔

(۱۶۲۶۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الْإِبْنِ .

(۱۶۲۶۸) حضرت حسن فرماتے ہیں مہر بچے پر واجب ہوگا۔

(۱۶۲۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَزُوجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : هُوَ عَلَى الْإِبْنِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْآبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الْوَدَى أَنْ كَحْتُمُوهُ ، يَعْنِي : الصَّدَاقُ عَلَى الْإِبْنِ .

(۱۶۲۶۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنے نابالغ بچے کی شادی کر دے تو مہر کس پر واجب ہوگا؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ مہر لڑکے پر واجب ہے۔ حضرت حماد نے فرمایا کہ باپ پر لازم ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مہر اس پر واجب ہے جس کا تم نے نکاح کر لیا یعنی لڑکے پر۔

(۱۶۲۷۰) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ عَلَى الْآبِ .

(۱۶۲۷۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مہر باپ پر لازم ہے۔

(۱۴) فِي الرَّجُلِ يَزْوُجُ، أَيَشْتَرِطُ إِسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ

کیا کوئی آدمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا

تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟

(۱۶۳۷۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ، أَوْ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِرِزْوَجِهَا : أَرِزْوَجُكَ تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ .

(۱۶۳۷۱) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہما اپنی کسی بیٹی یا اپنے عزیزوں میں سے کسی بچی کی شادی کراتے تو اس کے خاوند سے کہتے کہ میں اس کی شادی اس بات پر کرتا ہوں کہ تم اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کرو گے۔

(۱۶۳۷۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : ﴿إِسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ .

(۱۶۳۷۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب کسی بچی کی شادی کراتے تو خاوند سے اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگاتے۔

(۱۶۳۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أَنْكُحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : ﴿إِسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ .

(۱۶۳۷۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کا نکاح کراتے تو فرماتے کہ میں تم سے اس بات پر نکاح کراتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ﴿إِسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ یعنی یا اچھے طریقے سے نبھاؤ یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔

(۱۶۳۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عَمَرَ مَوْلَاةَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَمِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۶۳۷۴) حضرت سلیمان نے حضرت ابن عمر کی ایک مولاہ خاتون کے لئے نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے یہی فرمایا۔

(۱۶۳۷۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : ﴿إِسْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ ؟ قَالَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابَنَا يَشْتَرِطُونَ .

(۱۶۲۷۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا اسلاف نکاح کرتے وقت اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تشریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ شرط تو نہ لگاتے تھے بلکہ شرط لگائے بغیر اس بات کا لحاظ ہوتا تھا۔

(۱۶۲۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ .

(۱۶۲۷۶) حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تشریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

(۱۶۲۷۷) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ .

(۱۶۲۷۷) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تشریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

(۱۶۲۷۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : قَدْ نَكَحْتَ .

(۱۶۲۷۸) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقد نکاح ہے۔

(۱۶۲۷۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ .

(۱۶۲۷۹) حضرت عکرمہ اور حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے ان سے اللہ کی امانت کو لیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو اپنے لئے اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔

(۱۶۲۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ .

(۱۶۲۸۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسماک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تشریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

(۱۵) فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيْنَةٍ

کیا کوئی آدمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کے کر سکتا ہے؟

(۱۶۲۸۱) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيْنَةٍ.

(۱۶۲۸۱) حضرت حسن اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ کوئی آدمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کے کر دے۔

(۱۶۲۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ: يُشْهَدُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۶۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر گواہوں کے کر سکتا ہے البتہ اگر کسی کو گواہ بنا لے تو بہتر ہے۔

(۱۶۲۸۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُكْرَهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُعْلَقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.

(۱۶۲۸۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف غلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرتے تھے اور ان کے لئے دروازہ بند کرتے تھے۔

(۱۶۲۸۴) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.

(۱۶۲۸۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر کے کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۸۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَلَانَةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرَدَّ عَلَيَّ نَمْنَهَا، قَالَ: ائْتِهَا تَوْبًا.

(۱۶۲۸۵) حضرت ابوفاطمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی اپنے غلام سے یہ کہے کہ میری فلاں باندی لے لو، اگر چاہو تو اس سے نکاح کر لو اور اگر چاہو اسے بیچ کر اس کی قیمت مجھے دے دو۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جوڑا پہنا دے۔

(۱۶) فِي الْمَمْلُوكِ كَمَا يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ

غلام کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟

(۱۶۲۸۶) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(۱۶۲۸۶) حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ غلام صرف دو شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ .

(۱۶۲۸۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غلام چار شادیاں کر سکتا ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام صرف دو شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۸۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا أَمْرَاتَيْنِ .

(۱۶۲۸۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ غلام صرف دو شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۸۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ .

(۱۶۲۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام صرف دو شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۹۰) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذَكِّرُ إِمَاءَ كُنَّ ، أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ .

(۱۶۲۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے دو سے زیادہ شادیاں کرنا مکروہ ہے، خواہ آزاد عورتیں ہوں یا باندیاں۔ غلام کا مال

آقا کا مال ہے۔

(۱۶۲۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ .

(۱۶۲۹۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام صرف دو شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۶۲۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي

الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَّأَهَا فَهِيَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَّأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ .

..... (۱۶۲۹۲)

(۱۶۲۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ

النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَمْرَاتَيْنِ ، فَسَكَتَ .

(۱۶۲۹۳) حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کون جانتا ہے کہ غلام کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا

ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ اس نے کہا دو۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ اس کی تصدیق کرتے ہوئے

خاموش ہو گئے۔

(۱۶۲۹۴) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، عَنِ

الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا .

(۱۶۲۹۴) حضرت خالد بن ابی عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے پوچھا کہ غلام کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا چار۔

(۱۶۲۹۵) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ .

(۱۶۲۹۵) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع تھا کہ غلام دو سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔

(۱۶۲۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ .

(۱۶۲۹۶) حضرت براہیم فرماتے ہیں کہ غلام دو سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔

(۱۷) العبد يتزوج بغير إذن سيده

اگر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۲۹۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُؤَيَّرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أُذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۶۲۹۷) حضرت حسن اور حضرت براہیم فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی، پھر آقا نے اسے اجازت دے دی تو جائز ہے۔

(۱۶۲۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أُجِزَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۶۲۹۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی، پھر آقا نے اسے اجازت دے دی تو جائز ہے۔

(۱۶۲۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .

(۱۶۲۹۹) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آقا اگر چاہے تو اجازت دے دے اور چاہے تو منع کر دے۔

(۱۶۳۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ : إِنْ أُجِزَ الْمَوْلَى جَازَ ، وَقَالَ حَمَادُ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ .

(۱۶۳۰۰) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے غلام کے نکاح کو باقی رکھا تو باقی رہے گا۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اجازت ملنے پر دوبارہ نکاح کرے گا۔

(۱۸) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبدٌ بغيرِ إذنِ مولاهُ

اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گی؟

(۱۶۳.۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ .

حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر لے اور شرعی ملاقات بھی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گی؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ اس کا خاوند نہیں ہے۔ یعنی وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

(۱۶۳.۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يَرَا جَعَهَا .

حضرت شعبی سے بھی یہی منقول ہے۔ البتہ حضرت حکم فرماتے ہیں کہ یہ غلام اس کا خاوند بن گیا۔ اب وہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔

(۱۶۳.۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطَلَّقَ ثَلَاثًا فِتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ .

حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ نکاح درست نہیں، لہذا وہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی۔

(۱۶۳.۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ بِرِشْدَةٍ .

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح درست نہیں۔

(۱۶۳.۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ .

حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک مسلمانوں والا جائز نکاح نہ

کر لے۔

(۱۶۲.۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُنْتُ نِكَاحَ كَانَتْ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ .

(۱۶۳.۶) حضرت طاہر فرماتے ہیں کہ غیر شرعی نکاح سے عورت پہلے خاندان کے لئے حلال نہیں ہوتی۔

(۱۶۳.۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْعَبِيدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ .

(۱۶۳.۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام اور خصی بہر حال زوج ہیں۔

(۱۹) الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مِنْ كَرِهَةٍ

جن حضرات کے نزدیک آزاد آدمی کا باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے

(۱۶۳.۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : مَا أَرْكَحَفَ ، عَنِ الزُّنَا إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ : ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قَالَ : يَقُولُ ، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ .

(۱۶۳.۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کسی آزاد شخص نے باندی سے نکاح کیا تو وہ زنا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم باندی کے نکاح سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

(۱۶۳.۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَرَحَّفَ ، عَنِ الزُّنَا إِلَّا قَلِيلًا .

(۱۶۳.۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی آزاد شخص نے باندی سے نکاح کیا تو وہ زنا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔

(۱۶۳.۱۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَّرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعُنْتَ .

(۱۶۳.۱۰) حضرت حسن اس شخص کے لئے باندی سے نکاح کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے جو آزاد سے نکاح پر قادر ہو۔ البتہ اگر زنا کا خوف ہو تو جائز ہے۔

(۱۶۳.۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : سَأَلَ عَطَاءُ جَابِرًا ، عَنِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ .

(۱۶۳.۱۱) حضرت عطاء نے حضرت جابر سے باندی سے نکاح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ جائز نہیں۔

(۱۶۳.۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا .

(۱۶۳.۱۲) مکحول فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی باندی سے اسی صورت میں شادی کر سکتا ہے جب کہ وہ آزاد عورت کا خرچہ نہ برداشت کر سکے۔

(۱۶۳۱۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أُمَّتِي ، قَالَ : لَا تَزُوجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَيَّ نَفْسِيهِ ، قَالَ : لَا تَزُوجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا ، قَالَ : فَزُوجِيهِ .

(۱۶۳۱۳) حضرت عمارہ بن حیان کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت جابر بن زید کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے میرے پاس میری باندی کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کرو۔ اس عورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کو گناہ کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کرو۔ اس عورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کو اندیشہ ہے کہ وہ اس باندی سے زنا کر بیٹھے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر وہاں اس کی شادی کرو۔

(۱۶۳۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ سَيْلَانَ ، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ : ﴿لَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ .

(۱۶۳۱۴) حضرت حکم اور حضرت حماد سے باندی سے نکاح کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ﴿لَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ یہ اس کے لئے جائز ہے جسے زنا کا خوف ہو۔

(۱۶۳۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنَّهُ وَمَا وَسَّعَ بِهِ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَمَةُ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ .

(۱۶۳۱۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس امت کو باندی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔

(۱۶۳۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُغْتِقَ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أُمَّةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ .

(۱۶۳۱۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا اس غلام کا آدھا حصہ آزاد ہو گیا اور جس آزاد نے باندی سے نکاح کیا اس کا آدھا حصہ غلام ہو گیا۔

(۱۶۳۱۷) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَالْحَمِ الْخِنْزِيرِ ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَّرِّ .

(۱۶۳۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کا نکاح مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہے جو صرف سخت مجبور کیلئے جائز ہے۔

(۱۹) مِنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ، كَمْ يَجْمَعُ مِنْهُنَّ

ایک آزاد آدمی کتنی باندیوں سے شادی کر سکتا ہے؟

(۱۶۳۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۱۶۳۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی صرف ایک باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۱۹) حَدَّثَنَا عُذْرَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ : زَيْنَتِينَ .

(۱۶۳۱۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی چار باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ صرف دو باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۰) حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَّادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ .

(۱۶۳۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی چار باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، چار عیسائی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ غلام کا بھی یہی حکم ہے۔

(۱۶۳۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا .

(۱۶۳۲۱) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باندی کو اس شخص کے لئے حلال کیا ہے جسے گناہ کا خوف ہو اور وہ آزاد کا خرچہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔

(۲۰) من كره أن يتزوج الأمة على الحرّة

جن حضرات کے نزدیک آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے

(۱۶۳۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّلِبِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . (عبدالرزاق ۱۳۰۹۹ - طبرانی ۱۷)

(۱۶۳۲۲) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۶۳۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ .

(۱۶۳۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسا کیا گیا تو اسے اسی حال پر نہیں چھوڑا جائے گا۔

(۱۶۳۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ

عَلَى الْأُمَّةِ.

(۱۶۳۲۳) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ آدمی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کر سکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ زُرَّادٍ أَوْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأُمَّةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأُمَّةِ.

(۱۶۳۲۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کر سکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا يَنْكَحُ الْأُمَّةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ.

(۱۶۳۲۶) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح صرف غلام ہی کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِلَّا الْمَمْلُوكُ.

(۱۶۳۲۷) حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح صرف غلام ہی کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : يَنْزَوِّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأُمَّةِ ، وَلَا يَنْزَوِّجُ الْأُمَّةَ عَلَى الْحُرَّةِ.

(۱۶۳۲۸) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آدمی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کر سکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكَحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأُمَّةِ قَالَ : حَسَنٌ.

(۱۶۳۲۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرے تو یہ اچھا ہے۔

(۱۶۳۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : رَجُلٌ نَكَحَ أُمَّةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يَزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرَمْتُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا.

(۱۶۳۳۰) حضرت ابن طاوس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آدمی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے؟ حضرت طاوس نے فرمایا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۱۶۳۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَنْزَوِّجُ الْأُمَّةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يَفْرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمَّةِ.

(۱۶۳۳۱) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۳۳۲) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيُّ ، عَنْ مِثْقَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتَنْزَعُ مِنْهُ .

(۱۶۳۳۲) حضرت زہری سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی کمر کو تکلیف دی جائے گی اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۲۲) إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرلی

تو اس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی

(۱۶۳۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ .

(۱۶۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرلی تو اس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ البتہ اگر اس کا کوئی بچہ ہو تو ایسا نہ کریں گے۔

(۱۶۳۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ .

(۱۶۳۳۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کو طلاق ہے۔

(۱۶۳۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : هِيَ كَالْمَيْتَةِ يُصْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أُغْنَاكَ اللَّهُ فَاسْتَعْنِ .

(۱۶۳۳۵) حضرت مسروق بھی یہی فرماتے ہیں البتہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اس مردار کی طرح ہے جس کی طرف انسان مجبور ہو جائے۔ جب اللہ نے اسے باندی سے بے نیاز کر دیا ہے تو اسے بھی بے نیاز ہو جانا چاہئے۔

(۱۶۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ .

(۱۶۳۳۶) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کو طلاق ہے۔

(۱۶۳۳۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ .

(۱۶۳۳۷) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کو طلاق دینے کے مترادف ہے۔

(۲۳) الْأُمَّةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

باندی کے ہوتے ہوئے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کا حکم

(۱۶۳۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَا : يَفْرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ .

(۱۶۳۳۸) حضرت ابن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باندی کے ہوتے ہوئے کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تو اس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۳۳۹) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ .

(۱۶۳۳۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی عورت کسی آدمی کے نکاح میں ہو تو وہ کسی مسلمان باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔

(۲۴) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

جن حضرات کے نزدیک مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتا

(۱۶۳۴۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ .

(۱۶۳۴۰) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔

(۲۵) فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قَسَمْتَهُمَا

جب ایک آدمی کے نکاح میں آزاد اور باندی ہوں تو ان کے درمیان کیسے تقسیم کرے گا؟

(۱۶۳۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ زُرَّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِدِهِ يَوْمًا وَلِدِهِ يَوْمَيْنِ .

(۱۶۳۴۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرے تو باندی کو ایک دن اور آزاد کو دو دن دے گا۔

(۱۶۳۴۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ زُرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ .

(۱۶۳۴۲) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرے تو باندی کو ایک دن اور آزاد کو دو دن دے گا۔

(۱۶۳۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۳۴۳) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۳۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِكِلْتَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَكِلَيْلَةٌ .

(۱۶۳۴۴) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آزاد کو دو دن اور دو راتیں جبکہ باندی کو ایک دن اور ایک رات دے گا۔

(۱۶۳۴۵) حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعْنَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ .

(۱۶۳۴۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب آزاد اور باندی جمع ہو جائیں تو آزاد کو اپنے نفس اور مال کے دو ٹکٹ دے گا۔

(۱۶۳۴۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَائِمِرٍ قَالَا : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقَسِّمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ .

(۱۶۳۴۶) حضرت ابو جعفر اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے اور باندی کو ایک جبکہ آزاد کو دو دن دے گا۔

(۱۶۳۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا نِكَحَتِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَضَلَّتِ الْحُرَّةَ ، فِي الْقِسْمِ ، لِلْحُرَّةِ كِلْتَانِ وَالْأَمَةِ كِلَيْلَةٌ .

(۱۶۳۴۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کیا گیا تو تقسیم میں آزاد کو برتری حاصل ہوگی۔ آزاد کے لئے دو راتیں اور باندی کے لئے ایک رات ہوگی۔

(۱۶۳۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيُقَسِّمُ كِلَيْتَيْنِ وَكِلَيْلَةً .

(۱۶۳۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باندی سے نکاح کیا پھر اس نے آزاد عورت سے بھی نکاح کر لیا۔ وہ اگر چاہے تو باندی کو روکے رکھے۔ لیکن باندی کو ایک رات اور آزاد کو دو راتیں دے گا۔

(۱۶۳۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُقَسِّمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَالْأَمَةِ يَوْمًا .

(۱۶۳۴۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آزاد کو دو دن اور باندی کو ایک دن دے گا۔

(۱۶۳۵۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّمِيمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَالْأَمَةِ يَوْمٌ .

(۱۶۳۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آزاد کو دو دن اور باندی کو ایک دن دے گا۔

(۱۶۳۵۱) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَالْأَمَةِ يَوْمٌ .

(۱۶۳۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آزاد کو دو دن اور باندی کو ایک دن دے گا۔

(۲۶) المسلمة والنصرانية يجتمعان ، مَنْ قَالَ قِسْمَتَهُمَا سَوَاءً

جن حضرات کے نزدیک مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا

(۱۶۳۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً .

(۱۶۳۵۲) حضرت ابن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا۔

(۱۶۳۵۳) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً .

(۱۶۳۵۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا۔

(۱۶۳۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ .

(۱۶۳۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا جیسے آزاد عورتوں کے درمیان برابری کی جاتی ہے۔

(۱۶۳۵۵) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ .

(۱۶۳۵۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مسلمان اور یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان مال و جان کی تقسیم میں برابری کرے گا۔

(۱۶۳۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنْهُ فَقَالَا : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءً .

(۱۶۳۵۶) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تقسیم میں وہ دونوں برابر ہیں۔

(۲۷) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا وَفِي السِّرِّ أَقْلٌ

اگر کوئی آدمی کسی عورت کا مہر مقرر کرتے ہوئے علانیہ کچھ اور کہے اور خفیہ طور پر کچھ اور

تو خفیہ کا اعتبار ہوگا

(۱۶۳۵۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: فِي صَدَاقِ السَّرِّ: إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسَّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۶۳۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت کا مہر مقرر کرتے ہوئے خفیہ طور پر کچھ کہا اور علانیہ طور پر کچھ اور کہا تو خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہو جائے گا۔

(۱۶۳۵۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالسَّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۶۳۵۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہو جائے گا۔

(۱۶۳۵۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْأَمْرُ عَلَى السَّرِّ.

(۱۶۳۵۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا۔

(۱۶۳۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُبَيْبَةَ، عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ الْفَافِي السَّرِّ وَأَعْلَنَ الْفَيْنِ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالسَّرِّ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۶۳۶۰) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم بن عتبیبہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی خفیہ طور پر ایک ہزار اور علانیہ طور پر دو ہزار مہر مقرر کرے تو کس کا اعتبار ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہی حق ہے اور علانیہ باطل ہو جائے گا۔

(۱۶۳۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَاجِجٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

(۱۶۳۶۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پہلے کا اعتبار ہوگا۔

(۲۸) مَنْ قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

جن حضرات کے نزدیک علانیہ کا اعتبار ہوگا

(۱۶۳۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(۱۶۳۶۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ علانیہ کا اعتبار ہوگا۔

(۱۶۳۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(۱۶۳۶۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ علانیہ کا اعتبار ہوگا۔

(۱۶۳۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَالَ : شُرَيْحٌ ، هَدَمَ الْعُلَانِيَةَ السَّرَّاءَ .

(۱۶۳۶۳) حضرت منصور بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعبی سے ملا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ علانیہ خفیہ کو باطل کر دے گا۔

(۱۶۳۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعُلَانِيَةِ . (۱۶۳۶۵) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ علانیہ کا اعتبار ہوگا۔

(۲۹) الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اگر کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرے پھر اسے خرید لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۳۶۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ قَالَا : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالَا : النِّكَاحُ مِنْهَدِمٌ ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطْوُهَا إِنْ شَاءَ .

(۱۶۳۶۶) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں باندی تھی، پھر اس نے باندی کو خرید لیا تو نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ اس کی باندی ہوگی اگر چاہے تو اس سے وطی کر لے۔

(۱۶۳۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرَّقْءُ عَقْدَتِهَا .

(۱۶۳۶۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کو خرید لیا تو رقیقت نکاح کو ختم کر دے گی۔

(۱۶۳۶۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطْوُهَا بِالْمَلِكِ .

(۱۶۳۶۸) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باندی سے شادی کی پھر اسے خرید لیا تو چاہے تو ملک کی وجہ سے اس سے وطی کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۶۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : يَطْوُهَا بِالْمَلِكِ .

(۱۶۳۶۹) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ ملک کی وجہ سے اس سے وطی کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۷۰) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أُمَّتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الرَّهْرِيَّ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۶۳۷۰) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں باندی ہو اور وہ اسے خرید لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کی باندی ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ میں نے یہی سوال حضرت زہری سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

(۱۶۳۷۱) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حِيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : هَدَمَ الشَّرَاءُ النِّكَاحَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قَبْلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قَبْلِ التَّرْوِيجِ وَمِنْ قَبْلِ الشَّرَاءِ .

(۱۶۳۷۱) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں باندی تھی پھر اس نے اسے خرید لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خریدنا نکاح کو ختم کر دے گا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ميمون بن مهران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے دونوں دروازوں سے جائز ہے، نکاح کے دروازے سے بھی اور ملکیت کے دروازے سے بھی۔

(۱۶۳۷۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنَزَلْتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ .

(۱۶۳۷۲) حضرت عمرو سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو، وہ اس کو ایک طلاق دے دے۔ پھر غلام کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا تو اس کی بیوی کا کیا درجہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب اس کو خرید لیا تو وہ باندی کے مرتبے میں ہوگی۔ حضرت عکرمہ اور حضرت حسن بن ابی الحسن نے بھی یہی فتویٰ دیا۔

(۳۰) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

اگر ایک آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اسے دو طلاقیں دیدے پھر خرید لے تو کیا حکم ہے؟
(۱۶۳۷۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۷۳) حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاندان سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۷۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : فُرِّقَتْ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۷۳) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے خط میں لکھا ہوا پڑھا کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۷۵) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۷۶) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَطْوُهَا .

(۱۶۳۷۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے وطی نہیں کرے گا۔

(۱۶۳۷۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۷۹) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزُوجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .

(۱۶۳۷۹) حضرت ابوالفضلی اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا خاوند اس سے وطی نہ کر لے۔

(۱۶۳۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۳۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۸۱) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ لَابِتٍ عَنْ

مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا نَمَّ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۳۸۳) حضرت ابو عبدالرحمن نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اگر کوئی باندی کسی شخص کے نکاح میں تھی، اس نے

اسے ایک طلاق دی، پھر وہ باندہ ہوئی اور آدمی نے اسے خرید لیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ

اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔
 (۱۶۳۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .
 (۱۶۳۸۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔
 (۱۶۳۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
 (۱۶۳۸۵) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۳۸۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ عَيْدَةَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ .
 (۱۶۳۸۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عیدہ سے سوال کیا تو انہوں نے اس سے منع فرمایا۔

(۳۱) فِيهِ أَلَّهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ ؟

کیا ایسی باندی کا سابقہ خاوند اب ملکیت کی بنا پر اس سے مباشرت کر سکتا ہے؟

(۱۶۳۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هِيَ مَا مَلَكَتْ بَيْمِنَهُ .
 (۱۶۳۸۷) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کی باندی ہے۔

(۱۶۳۸۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَطْوُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
 (۱۶۳۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اب ملکیت کی بنا پر اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا أَمْرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ .

(۱۶۳۸۹) حضرت حمید بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ پہلی آیت ﴿وَاحِلْ لَكُمْ مَاوراء ذالکم﴾ نے اسے حلال کیا۔ دوسری آیت ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ نے اسے حرام کر دیا۔ میں نہ تو تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔

(۱۶۳۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ .

(۱۶۳۹۰) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ملکیت کی وجہ سے وہ اس سے مباشرت نہیں کر سکتا، اگر چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ پھر اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق رہ جائے گا۔ حضرت قتادہ کا بھی یہی قول تھا۔

(۱۶۳۹۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ .

(۱۶۳۹۱) حضرت جابر اور حضرت ابوسلمہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۲) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلَّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

اگر غلام اپنی باندی بیوی کو دو طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأُعْتِقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۹۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنی باندی بیوی کو دو طلاقیں دے دے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جائیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۲۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتِ الْعَبْدِ فَيُطَلَّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا فَلَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باندی اگر کسی غلام کے نکاح میں ہو، پھر وہ اسے طلاق دے، پھر دونوں اکٹھے آزاد ہو جائیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۲۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۶۳۹۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی اگر کسی غلام کے نکاح میں ہو، پھر وہ اسے طلاق دے، پھر دونوں اکٹھے آزاد ہو جائیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۶۲۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى لَيْسَىِ نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتَهَا فَبِئْسَ مَا عِنْدَكَ عَلَيَّ وَاحِدَةً وَمَضَى اثْنَانِ ، فَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۶۳۹۵) حضرت ابوالحسن (مولیٰ بنی نوفل) فرماتے ہیں کہ میں اور میری بیوی دونوں مملوک تھے۔ میں نے اسے دو طلاقیں دے دیں۔ پھر ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ میں اس سے رجوع کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس سے رجوع کرو تو ایک طلاق کا حق لے کر رجوع کرو گے۔ دو طلاقیں گذر گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(۱۶۲۹۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعْتَبٍ ، عَنْ أَبِي

الْحَسَنِ مَوْلَى لَيْسَى نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

(ابوداؤد ۲۱۸۱۔ احمد ۱/۲۲۹)

(۱۶۳۹۶) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۶۳۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُعْتِقْتُ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ .

(۱۶۳۹۷) حضرت ابوسلمہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے عدت میں آزاد کر دیا گیا تو اب خاوند اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے اور اس کے پاس ایک طلاق کا حق رہ جائے گا۔

(۳۳) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطُوهَا أَمْ لَا

ایک آدمی کے نکاح میں باندی تھی، اس نے اس کا کچھ حصہ خرید لیا اب وہ اس سے وطی کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱۶۳۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكْفُفُ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ .

(۱۶۳۹۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسی باندی سے نکاح کیا جو دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھی، پھر اس نے ان میں سے ایک کا حصہ خرید لیا تو وہ اس وقت تک اس سے رکا رہے جب تک دوسرا حصہ بھی نہ خرید لے۔

(۱۶۳۹۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۳۹۹) حضرت ابراہیم بھی یہی فرماتے ہیں۔

(۱۶۴۰۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا .

(۱۶۴۰۰) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ملکیت کی وجہ سے تعلق میں اضافہ ہی ہوگا۔

(۱۶۴۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَفْرُبُهَا حَتَّى يَسْتَحْلِصَهَا .

(۱۶۴۰۱) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کا کچھ حصہ خرید لیا تو اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے چھڑا نہ لے۔

(۳۴) فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أُمَّتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ

جن حضرات کے نزدیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آزادی کو مہر بنانا جائز ہے

(۱۶۴.۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا . (بخاری ۳۷۱ - ابوداؤد ۲۹۹۱)

(۱۶۴.۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت صفیہ کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا۔

(۱۶۴.۳) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أُعْتِقَ أُمَّهُ وَوَلَدَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا .

(۱۶۴.۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ام و ولد کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو اس کا مہر بنا سکتا ہے۔

(۱۶۴.۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أُعْتِقَ وَوَلَدَهُ ، أَوْ أُمَّهُ وَوَلَدَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ .

(۱۶۴.۴) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی یا ام و ولد کو آزاد کیا اور اس کی آزادی کو اس کا مہر بنا دیا تو میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔

(۱۶۴.۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ .

(۱۶۴.۵) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور اس کی آزادی کو اس کا مہر بنایا تو یہ جائز ہے۔

(۳۵) مَنْ قَالَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّائِبِ بَدَنَتَهُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کو مہر بنانے والا قربانی کے جانور پر سواری

کرنے والے کی طرح ہے

(۱۶۴.۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُبِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّائِبِ بَدَنَتَهُ .

(۱۶۴.۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کو مہر بنانے والا قربانی کے جانور پر سواری کرنے والے کی طرح ہے۔

(۱۶۴.۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكُنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أُمَّتَهُ

وَيَتَزَوَّجُهَا مِثْلَ الرَّجُلِ بِرُكْبٍ بَدَنَتْهُ.

(۱۶۳۰۷) حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کو مہربانے والا قربانی کے جانور پر سواری کرنے والے کی طرح ہے۔

(۱۶۷۰۸) حَدَّثَنَا سُئِمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أُمِّيهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ .

(۱۶۳۰۸) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ باندی کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو نکاح کا مہربانے والے کو چاہئے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مقرر کرے۔

(۱۶۷۰۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لَا مِيَّةَ : فَقَدْ أَعْتَقْتِكَ وَتَزَوَّجْتُكَ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْتَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ .

(۱۶۳۰۹) حضرت عطاء فرماتے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اور تجھ سے شادی کی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ البتہ عورت اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے اور اگر چاہے تو نہ کرے۔

(۳۶) فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أُمَّتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

اگر ایک شخص نے اپنی باندی کو اللہ کے لئے آزاد کیا تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱۶۷۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرِيَانُ بَأْسًا أَنْ يَعْتَقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا .

(۱۶۳۱۰) حضرت انس بن مالک اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کو اللہ کے لئے آزاد کیا تو وہ اس میں اب رجوع نہ کرے۔ البتہ اگر شادی کرنے کے لئے آزاد کیا تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۷۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ .

(۱۶۳۱۱) حضرت نخعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے لئے آزاد کیا تو نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۱۶۷۱۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا .

(۱۶۳۱۲) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ آدمی آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔

(۱۶۷۱۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَقَهَا لِيُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا .

(۱۶۳۱۳) حضرت سعید بن مسیب اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ آدمی اللہ کے لئے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔

(۱۶۴۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَامْسُوا فِي مَنَاكِهَاهَا﴾ ، فَقَالَ لِحَارِثِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: إِنَّ كَرِيْمًا مَّا مَنَاكِهَاهَا فَانْتِ حُرَّةٌ لَوْ جِئَهُ اللَّهُ ، قَالَتْ: فَإِنَّ مَنَاكِهَاهَا جِبَالُهَا ، فَكَأَنَّمَا سَفَعٌ وَجْهَهُ ، وَرَغَبٌ فِي جَارِيَّتِهِ فَجَعَلَ يُسْأَلُ ، عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: دَعُ مَا يَرِيكُ إِلَى مَا لَا يَرِيكُ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيْبَةٍ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ .

(۱۶۴۱۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بشیر بن کعب نے یہ آیت پڑھی ﴿فَامْسُوا فِي مَنَاكِهَاهَا﴾ پھر اپنی باندی سے کہا کہ اگر تم ”مناکھا“ کا معنی بتا دو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اس سے مراد ”پھاڑ“ ہیں۔ یہ سنتے ہی بشیر بن کعب کا رنگ بدل گیا! وہ اپنی اس باندی سے محبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اسے آزاد کروں یا نہیں۔ بعض نے آزاد کرنے کو کہا اور بعض نے اس سے منع کیا۔ انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ خیر طمانیت کا نام ہے اور شک میں شر ہے۔ لہذا بشیر بن کعب نے اس باندی کو چھوڑ دیا۔

(۲۷) لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے

(۱۶۴۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، كَانَا لَا يَرِيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا - لِلَّهِ وَيَقُولَانِ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ .

(۱۶۴۱۵) حضرت حسن اور حضرت عطاء اللہ کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔

(۱۶۴۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ .

(۱۶۴۱۶) حضرت حسن سے جب اللہ کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔

(۲۸) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو کمرہ قرار دیا ہے

(۱۶۴۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَقِيبِ قَالَ: تَزَوَّجَ حُدَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ

عُمَرُ أَنْ خَلَّ سَبِيلَهَا ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ : إِنِّي لَا أَرُومُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاوَلَا الْمُؤَمِّسَاتِ مِنْهُنَّ .

(۱۶۳۱۷) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ سے شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا جس میں حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ اگر یہ حرام ہے تو میں اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حرام تو نہیں کہتا البتہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے لوگ فاحشہ اور شریر یہودی عورتوں کی طرف جانے لگیں گے۔

(۱۶۶۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتِ قَلِيلًا .

(۱۶۳۱۸) حضرت عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں کم تھیں۔

(۱۶۶۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا يَرَى بَطْعَامَهُنَّ بَأْسًا .

(۱۶۳۱۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیتے تھے، وہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۱۶۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ﴾ .

(۱۶۳۲۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ﴾ .

(۲۹) فِيمَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے

(۱۶۶۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً .

(۱۶۳۲۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کی تھی۔

(۱۶۶۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً .

(۱۶۳۲۲) حضرت ہبیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی تھی۔

(۱۶۳۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَحْدُ سَبِيلاً إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجَنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أُمْسَكَ .

(۱۶۳۲۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان دنوں مسلمان خواتین سے نکاح تک ہمیں رسائی نہیں تھی، لہذا ہم نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی۔ پھر بعض لوگوں نے انہیں طلاق دے دی اور بعض نے انہیں روکے رکھا۔

(۱۶۳۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَابِرٍ لِحَدِيثِنَا ، عَنْ حَدِيثِنَا أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ .

(۱۶۳۲۳) حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک پڑوسی فرماتے ہیں کہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ سے شادی کی حالانکہ ان کے نکاح میں دو عربی عورتیں تھیں۔

(۱۶۳۲۵) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ .

(۱۶۳۲۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۳۲۶) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مَطْرِوفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ .

(۱۶۳۲۶) حضرت شعبی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۶۳۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ .

(۱۶۳۲۷) حضرت ابو عیاض فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اہل حرب عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۷۰) الْمُسْلِمُ كَمَا يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ایک مسلمان کتنی اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟

(۱۶۳۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .

(۱۶۳۲۸) حضرت ابن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان چار اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۶۳۲۹) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .

(۱۶۴۲۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان چار اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۶۴۳۰) حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَّادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ .

(۱۶۴۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی یا چار باندیوں یا چار عیسائی عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے۔ غلام کا بھی یہی حکم ہے۔

(۴۱) فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟

(۱۶۴۳۱) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ .

(۱۶۴۳۱) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مصروف اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔

(۱۶۴۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ .

(۱۶۴۳۲) حضرت ابو عیاض فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لئے حلال ہے البتہ اگر وہ جنگ کر رہے ہوں تو ان کی عورتیں اور ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔

(۱۶۴۳۳) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُثَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مَنَّا كَحَتِّهِ وَلَا ذَبِيحَتِهِ ، أَهْلُ الْحَرْبِ .

(۱۶۴۳۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جن کی عورتیں اور ذبیحہ ہمارے لئے حلال نہیں۔ وہ اہل کتاب مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں۔

(۱۶۴۳۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَتَارِي ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا تَأْسَرُ

أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ تَطْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تَنْكِحْ.

(۱۶۳۳۳) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اسلاف نے اہل کتاب کی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ ارضِ حرب سے نکلے تو ارضِ عرب میں امان کے ساتھ داخل ہوگی۔ اگر وہ ارضِ عرب میں سکون ظاہر کرے تو مسلمان کے لئے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ صرف پیغامِ نکاح کی صورت میں سکون ظاہر کرے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

(۴۲) فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

اہل کتاب کی باندیوں سے نکاح کا بیان

(۱۶۴۳۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.

(۱۶۴۳۵) حضرت ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی باندیاں ان کی آزاد عورتوں کی طرح ہیں۔

(۱۶۴۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ.

(۱۶۴۳۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس امت کے لئے اہل کتاب کی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔

(۱۶۴۳۷) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ نَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۶۴۳۷) حضرت مکحول نے اہل کتاب کی باندیوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۴۳۸) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۶۴۳۸) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آزاد مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی اہل کتاب باندی سے نکاح کرے۔

(۴۳) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ

مہجیل اور مہوہ جل مہر کا بیان

(۱۶۴۳۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَسُورٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ

وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ.

(۱۶۴۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ماتحتوں کے نام خط لکھا کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو مہجیل

اور مؤجل مہر واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر مؤجل کی شرط لگائی ہو تو پھر واجب نہیں ہوتا۔

(۱۶۴۱۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنِّي مَوْتٌ ، أَوْ فِرَاقٌ .

(۱۶۴۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے آسانی سے مہر ادا کرنے کی شرط لگائی تو مہر کی ادائیگی موت یا جدائی پر فرض ہوگی۔

(۱۶۴۱۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَجْلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مَدَّةٌ مَعْلُومَةٌ .

(۱۶۴۳۱) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر مہر مؤجل کی مدت معلومہ مقرر نہ ہو تو وہ فوری طور پر واجب ہو جاتا ہے۔

(۱۶۴۴۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِأَجَلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ ، دَلَّيْنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهَا لَكَ .

(۱۶۴۳۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی عورت سے آسانی سے ادائیگی کی شرط پر مہر معجل اور مؤجل کے ساتھ نکاح کیا۔ عورت یہ مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں آئی تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا کہ تم ہمیں آسانی کی تفصیل بتا دو، ہم تمہیں مہر دلوا دیتے ہیں۔

(۱۶۴۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرَةَ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْأَجْلِ .

(۱۶۴۳۳) حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے عورت سے ازدواجی ملاقات کر لی تو اب عورت کے لئے مؤجل کا دعویٰ نہیں ہوگا۔

(۱۶۴۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعَاجِلُ أَجَلٌ إِلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِرَاقَةٍ .

(۱۶۴۳۴) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مہر عاجل بھی آجل ہے اور اجل موت یا فرقت تک ہے۔

(۱۶۴۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : هُوَ حَالٌ نَأْخُذُهَا إِذَا شِئْتَ .

(۱۶۴۳۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسی وقت وصول کر سکتی ہے۔

(۱۶۴۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جَدَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَقْلًا إِنَّهَا تَرُدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الْيَدِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرَجَهَا الْعَاجِلُ وَالْأَجَلُ وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ عَرَّهَ .

(۱۶۴۳۶) حضرت مکحول اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر اس عورت میں جنون، کوڑھ، برس یا شرم گاہ میں بال اگنے کی بیماری دیکھی تو ان بیماریوں کی وجہ سے اسے واپس بھیج سکتا ہے۔ البتہ عورت کو مہر ملے گا خواہ

موجل ہو یا مغل۔ یہ میرا شخص پر واجب ہوگا جس نے آدمی کو اس عورت سے نکاح کرنے پر ابھارا ہوگا۔

(۴۴) فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

بنو تغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان

(۱۶۴۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذُبَانِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَائِهِمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ .

(۱۶۴۳۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو تغلب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عرب لوگ ہیں۔

(۱۶۴۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ .

(۱۶۴۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بنو تغلب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے ایک دین اختیار کیا، اب یہی ان کا دین ہے۔

(۱۶۴۴۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ .

(۱۶۴۳۹) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے عرب عیسائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب نہیں، ان کی عورتیں اور ان کا کھانا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں ہے۔

(۱۶۴۵۰) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ قَالَ : نَصَارَى الْعَرَبِ فِي ذُبَانِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ .

(۱۶۴۵۰) حضرت عمر قرآن مجید کی آیت ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرب عیسائیوں کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۶۴۵۱) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَلُّوا ذُبَانِحَ بَنِي نَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَائِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فَلَئِمَ لَكُمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوَلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ﴾ .

(۱۶۴۵۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنو تغلب کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے شادی کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

(۱۶۴۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ ذُبَانِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاتِهِمْ.

(۱۶۴۵۲) حضرت علیؑ نے عیسائی عربوں کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۴۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ.

(۱۶۴۵۳) حضرت ابراہیم نے عیسائی عربوں کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۴۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۶۴۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۴۵) فِي الْوَصِيِّ أَلِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟

کیا وصی نکاح کر سکتا ہے؟

(۱۶۴۵۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ سَمَاحِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أجازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ.

(۱۶۴۵۵) حضرت سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے وصی کے کرائے ہوئے نکاح کو درست قرار دیا۔

(۱۶۴۵۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : يُشَاوِرُ الْوَالِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ وَيَلِيُّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَالِيُّ.

(۱۶۴۵۶) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ولی نکاح کرانے کے لئے وصی سے مشورہ کرے گا اور عقدہ نکاح کا نگران ولی ہی ہوگا۔

(۱۶۴۵۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَصِيِّ زَوْجِ بَيْتَمَةَ صَغِيرَةَ فِي حَجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ.

(۱۶۴۵۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کسی وصی نے اپنی پرورش میں موجود کسی یتیم بچی کا نکاح کرادیا تو یہ جائز ہے۔

(۱۶۴۵۸) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ لِي الْوَصِيِّ يَزُوجُ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.

(۱۶۴۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وصی نکاح کرادے تو جائز ہے۔

(۱۶۴۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ

فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ .

(۱۶۴۵۹) حضرت شعبی اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ وصی کا ہر تصرف جائز ہے۔

(۱۶۴۶۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيٌّ لِي نِكَاحِ إِخْوَانِي وَبَنَاتِي فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَالِيِّ وَإِلَّا فَالْوَالِيُّ أَحَقُّ مِنَ

الْوَصِيِّ .

(۱۶۴۶۰) حضرت حسن وصی کو نکاح کی اجازت نہ دیتے تھے البتہ اگر اسے وصی بنانے والا یہ کہے کہ تو میری بہنوں اور میری

بیبیوں کے نکاح کا وصی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو وصی نکاح کے معاملے میں ولی سے زیادہ حق دار ہے۔ اگر یہ نہ کہا تو ولی وصی سے زیادہ حق دار ہوگا۔

(۶۶) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا

اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیا لیکن بعد میں وہ غلام نکلا تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۴۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا قَالَ : تَخِيرُ .
(۱۶۴۶۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیا لیکن بعد میں وہ غلام نکلا تو عورت کو اختیار ہوگا۔

(۱۶۴۶۲) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَسَ نَفْسَهُ لَأَمْرَأَةٍ فَرَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ قَالَ : تَخِيرُ .

(۱۶۴۶۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیا لیکن بعد میں وہ غلام نکلا تو عورت کو اختیار ہوگا۔

(۱۶۴۶۳) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ عُرِّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تَخِيرُ .

(۱۶۴۶۳) حضرت زہری سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو غلام کے بارے میں دھوکا دیا گیا وہ اسے آزاد سمجھتی رہی جبکہ وہ غلام تھا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو اختیار ہوگا۔

(۱۶۴۶۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ آتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحَهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ عُرِّتْ بِهِ قَالَ : إِذَا عَلِمْتُ بِهِ فَإِنْ شَأْنُ مَكْنَتِ بِهِ ، وَإِنْ شَأْنُ فَارَقْتَهُ وَلَا حَقَّ لَهَا عَلَيْهَا .

(۱۶۴۶۴) حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی غلام کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ لوگوں نے ایک آزاد عورت کی اس سے شادی کرادی۔ پھر بعد میں انہیں علم ہوا کہ یہ غلام تھا اور اس عورت کو دھوکا دیا گیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ جب اسے علم ہو تو اسے اختیار ہوگا کہ چاہے اس کے پاس رہے اور اگر چاہے تو اس سے جدائی اختیار کر لے۔ مرد کو عورت پر کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

(۱۶۴۶۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيَّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَأْنُ اسْتَقْرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَأْنُ فَارَقْتَهُ .

(۱۶۳۶۵) حضرت شعیبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیا لیکن بعد میں وہ غلام نکلا تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اس کے پاس رہے یا اس سے جدا ہو جائے۔

(۴۷) فی الرجل یملک عقیدة المرأة اتحل لابیہ إذا لم یدخل بہا
اگر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے لیکن اس سے ازدواجی ملاقات کی نوبت نہ

آئے تو کیا اس آدمی کے باپ کے لئے اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہوگا

(۱۶۶۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سَفِيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْاِبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْاَبُ لَمْ تَحِلَّ لِابْنَيْهِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
(۱۶۳۶۶) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت اس کے باپ کے لئے حلال نہیں خواہ اس نے ازدواجی ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور اسی طرح اس کے بیٹے کے لئے بھی حلال نہیں خواہ اس نے ازدواجی ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو۔

(۱۶۶۶۷) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ عَقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ وَابْنَيْهِمَا جَرَّةً فَتَنْظَرُ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ .

(۱۶۳۶۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت اس کے بیٹے اور باپ پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ان دونوں میں سے کسی نے کسی عورت کی شرم گاہ دیکھی تو وہ بھی دوسرے کے لئے حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۶۶۸) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : ابْنُهُمَا مَلَكَ عَقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الْاِخْوَانِ .
(۱۶۳۶۸) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں سے کسی نے بھی کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت دوسرے کے لئے حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۶۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ابْتِزَاؤًا جَهًا أَبُوهُ فَكْفَرَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ .

(۱۶۳۶۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے ازدواجی ملاقات سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا اس آدمی کا باپ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾

(۱۶۶۷۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ : ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ وَ﴿ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾ وَ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ قَالَ : أَشْعَثُ : وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ

﴿وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَىٰ آخِرِهَا .

(۱۶۴۷۰) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ تین آیات مبہم ہیں ① ﴿وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ ② ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ ③ ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ حضرت اشعث فرماتے ہیں اور یہ ④ چوتھی آیت مبہم نہیں ہے ﴿وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ راوی حضرت معاذ نے اس آیت کو آخر تک پڑھا۔
(۱۶۴۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ.
(۱۶۴۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے ازدواجی ملاقات نہ کی تو پھر بھی وہ اس کے باپ کے لئے حلال نہیں۔

(۴۸) فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لَا تَحِلُّ لِإِبْنِهِ وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ

اگر کسی شخص نے کسی عورت کو چھوا یا اس کے کپڑے اتارے تو وہ اس کے باپ اور بیٹوں

کے لئے حرام ہو جائے گی

(۱۶۴۷۲) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ نِسِيِّهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.

(۱۶۴۷۲) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک باندی کے کپڑے اتارے، بعد ازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

(۱۶۴۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةَ لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ نِسِيِّهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.

(۱۶۴۷۳) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک باندی کے کپڑے اتارے، بعد ازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

(۱۶۴۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةَ لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.

(۱۶۴۷۴) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک باندی کے کپڑے اتارے، بعد ازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

(۱۶۴۷۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، سُلَيْمَانَ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ

اللہ بنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرْتَهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ ، عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَطْلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرِ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعًا .

(۱۶۳۷۵) حضرت عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری فلاں باندی سے تم میں سے کوئی جماع نہ کرے۔ عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق میرے والد نے اس باندی سے جماع تو نہیں کیا تھا البتہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے برہنہ دیکھا ہو۔

(۱۶۷۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَدَ جَارِيَةَ لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهُ يَا هَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .

(۱۶۳۷۶) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنی ایک باندی کو برہنہ دیکھا، پھر ایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے اس باندی کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں۔

(۱۶۷۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا .

(۱۶۳۷۷) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

(۱۶۷۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرْتَهُ الْوَفَاةُ : إِنِّي لَمْ أَصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَيَّ وَوَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ .

(۱۶۳۷۸) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسروق کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس باندی سے صرف اتنا تعلق رکھا ہے جس سے یہ میرے بیٹوں پر حرام ہوگئی ہے یعنی چھونا اور دیکھنا۔

(۱۶۷۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمِيَّةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجَهُ فَرُجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَيَّ أَبِيهِ وَعَلَيَّ ابْنِهِ .

(۱۶۳۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کی شرمگاہ کو چھوا، یا اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ سے لگایا، یا اس سے جماع کیا تو یہ باندی اس کے باپ اور بیٹوں پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ ، أَوْ لِأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ جَرَدَهَا لِشَهْوَةٍ .

(۱۶۳۸۰) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو برہنہ دیکھ لے تو کیا وہ باندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی باندی کا بوسہ لیا یا شہوت کی وجہ سے اس کے کپڑے اتارے تو اس کا باپ اور اس کے بیٹے اس باندی کو استعمال نہیں کر سکتے۔

(۱۶۷۸۱) حَدَّثَنَا النَّعْفِيُّ ، عَنْ مِثْنَى ، عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَدَ جَارِيَةَ

فَنظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَبْنَيْهِ.

(۱۶۳۸۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کے کپڑے اتار کر اسے دیکھا تو یہ اس کے بیٹے کے لئے حلال نہیں۔

(۱۶۴۸۲) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُعْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَشِيَتْ امْرَأَتَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتْ ابْنًا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَيَّ زَوْجَهَا.

(۱۶۳۸۲) حضرت ابراہیم نے ایک مسئلہ کے بارے میں فرمایا کہ اہل علم کی رائے تھی کہ اگر کوئی آدمی کوئی باندی خریدے اور اس کی بیوی کو خوف ہو کہ یہ اس باندی سے جماع کرے گا، وہ عورت اپنے بیٹے سے کہے کہ وہ اس باندی کے ساتھ لیٹ جائے تو یہ باندی اس کے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۴۸۳) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَّأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَهَا أَبُوهُ، أَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا مَحَابِرَهَا.

(۱۶۳۸۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی باندی کا بوسہ لیا یا اس کی شرمگاہ کو دیکھا تو وہ باندی اس کے بیٹے کے لئے حرام ہے۔

(۱۶۴۸۴) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَدَ جَارِيَةً حَرَّمَتْ عَلَيَّ ابْنَيْهِ وَعَلَى أَبِيهِ.

(۱۶۳۸۴) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو برہنہ دیکھ لے تو وہ باندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال نہ ہوگی۔

(۱۶۴۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قَبْلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ أَيُّصَلِحُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا قَالَ: لَا.

(۱۶۳۸۵) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کی باندی ہے، اس نے اس کی شرمگاہ کو چھوا یا اس کی شرمگاہ کو دیکھا پھر اپنے بیٹے کو تحفہ میں دے دی تو کیا بیٹا اس سے وطی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۶۴۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: انظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَيَّ وَوَلَدِي اللَّئِمْسَ وَالنَّظَرَ.

(۱۶۳۸۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنے گھر والوں کو خط میں لکھا کہ میری باندی کو مت بیچنا، میں نے اس سے صرف اتنا تعلق رکھا ہے جو اسے میرے بیٹوں پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی چھوٹا اور دیکھنا۔

(۴۹) الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَىٰ أُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالَ امْرَأَتِهِ

اگر کسی آدمی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی سے صحبت کی تو بیوی کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۴۸۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَىٰ أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحْرِمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ .

(۱۶۴۸۷) حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی ساس سے صحبت کی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۴۸۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حُرْمَتَانِ أَنْ تَخْطَاهُمَا وَلَا يُحْرَمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۶۴۸۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیٹی سے جماعت کی وجہ سے ماں اور ماں سے جماعت کی وجہ سے بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔

(۱۶۴۸۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْتَهَأَ . (دارقطنی ۹۲)

(۱۶۴۸۹) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جس نے کسی عورت اور اس کی بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھا۔

(۱۶۴۹۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ حجاج ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتُهَا . (بیہقی ۱۷۰)

(۱۶۴۹۰) حضرت ابو ہانی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کے لئے اس کی ماں اور بیٹی حلال نہیں رہیں۔

(۱۶۴۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَامِرِ بْنِ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَىٰ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا : حُرْمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ جَمِيعًا .

(۱۶۴۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی بیٹی سے جماع کیا تو وہ دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ علماء کہا کرتے تھے کہ جب آدمی نے کسی عورت کے ایسے حصے کو دیکھا جسے دیکھنا حلال نہیں تھا یا اسے شہوت کے ساتھ چھوا تو وہ عورت اور اس کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہو جائیں گی۔

(۱۶۴۹۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا .

(۱۶۴۹۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اور ماں اس پر حرام ہو جائیں گی۔

(۱۶۴۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْحَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا .

(۱۶۴۹۳) حضرت عبداللہ بن مسج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس مرد کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے کسی عورت سے زنا کیا تو کیا وہ اس کی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۶۴۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأَمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَا : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا .

(۱۶۴۹۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کیا تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ان کا جدا ہو جانا بہتر ہے۔

(۱۶۴۹۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْحَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا .

(۱۶۴۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کو شہوت سے چھوا تو وہ اسکی ماں اور بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔

(۱۶۴۹۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا .

(۱۶۴۹۶) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت سے شادی کرنا تو اس کے لئے جائز ہے لیکن وہ اس کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔

(۱۶۴۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهُانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ .

(۱۶۴۹۷) حضرت جابر بن زید اور حضرت حسن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی اس عورت کو چھوئے جس کی ماں سے اس نے صحبت کی ہو۔

(۱۶۴۹۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرُّشِكِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ .

(۱۶۴۹۸) حضرت یزید رشک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی ساس سے زنا

کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ماں حرام ہو جائے گی اور بیٹی حلال رہے گی۔

(۵۰) الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأُمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا

اگر ایک آدمی کی ملکیت میں باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں اور وہ ایک سے جماع کرنا

چاہے تو شرعی حکم کیا ہے؟

(۱۶۷۹۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سِئِلَ عُمَرُ ، عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : لَا أَحِبُّ أَنْ يَخْبِرَهُمَا جَمِيعًا .

(۱۶۳۹۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ ان دونوں سے جماع کرے۔

(۱۶۵۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَقَالَ : حَرَمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لَأَفْعَلُهُ .

(۱۶۵۰۰) حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں موجود باندی اور اس کی بیٹی سے جماع کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایک آیت نے حرام اور دوسری نے حلال کیا ہے۔ البتہ میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔

(۱۶۵۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَارِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَنْطِنُهَا وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدْرَكْتُ ابْنَتَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَمْسِكَ عَنْهَا وَأَنْطِي ابْنَتَهَا فَقُلْتُ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِنَطْلَعِ مِنْهُمَا مَطْلَعًا وَاحِدًا .

(۱۶۵۰۱) حضرت عبداللہ بن زيار اسلمی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب اس کی بیٹی جوان ہوگئی تو میں نے سوچا کہ اس باندی کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے جماع کروں۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھے بغیر ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو دونوں کے ساتھ ہرگز صحبت کا معاملہ نہ کروں۔

(۱۶۵۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكْتُ فَاصِيبُ مِنْهَا ؟ فَهَتَهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَتَهَانِي عَنْهُ .

(۱۶۵۰۲) حضرت معاذ بن عبید اللہ بن معمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک باندی ہے میں نے اس سے صحبت کر رکھی ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو جوان ہو گئی ہے کیا میں اس سے بھی جماع کر سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ مجھ پر حرام ہے۔ اگر آپ حرام ہونے کا کہیں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے اہل اور میرے اطاعت کرنے والوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے بھی اس سے منع فرمایا۔

(۱۶۵۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَوَلِيدَةَ وَابْنَتَهَا ، فَكَانَ يَفْعُ عَلَيْهِمَا فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِذَا أَحَلَّتْ لَكَ آيَةٌ وَحَرَمْتَ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ .

(۱۶۵۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ہمدان کے ایک آدمی کے پاس ایک باندی اور اس کی بیٹی تھیں۔ وہ ان دونوں سے جماع کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے اس آدمی سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے ایسا کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ایک آیت نے تجھ پر حلال کیا ہے تو دوسری نے حرام کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ غالب حرام کرنے والی آیت ہے۔

(۱۶۵۰۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي التَّوْرَةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لَا يَكْتَسِفُ رَجُلٌ فَرَجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا إِلَّا مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً .

(۱۶۵۰۴) حضرت ابن مندہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ تورات میں تھا: ”کسی عورت اور اس کی بیٹی کی شرمگاہ کو ظاہر کرنے والا ملعون ہے“۔ اس میں یہ تفصیل تھی کہ آزاد عورت ہو یا باندی۔

(۱۶۵۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَوَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَوَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطُوهُمَا؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَمَتْ ، أَمَا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا .

(۱۶۵۰۵) حضرت ابونضرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک باندی اور اس کی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں سے جماع کروں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آیت نے اسے حلال کیا اور ایک نے حرام۔ البتہ میں تو اس عمل کے قریب بھی نہ جاتا۔

(۱۶۵۰۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا .

(۱۶۵۰۶) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لئے عورت اور اس کی بیٹی یا اس کی بہن کو جمع کرنا جائز نہیں۔

(۵۱) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَّاهُمَا جَمِيعًا

اگر کسی آدمی کے پاس دو مملوک بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کر سکتا ہے؟

(۱۶۵۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتَهُ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمْتَانِ أُخْتَانِ وَطَيَّءَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَّأَ الْأُخْرَى قَالَ : لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ .

(۱۶۵۰۷) حضرت موسیٰ بن ایوب کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس دو مملوک بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا کرنا درست نہیں۔ البتہ ایک کو اپنی ملکیت سے نکال کر ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر ان میں سے ایک کی اپنے غلام سے شادی کرادے تو پھر کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں جب تک ایک کو اپنی ملکیت سے نکال نہ دے۔

(۱۶۵۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكُوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا ، عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ، فَقَالَ : حَرَمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي .

(۱۶۵۰۸) حضرت ابن کواء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آدمی دو بہنوں کو جمع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت نے اسے حلال اور دوسری نے حرام کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے اہل ایسا نہ کریں گے۔

(۱۶۵۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلٌ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ .

(۱۶۵۰۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا کہ کوئی شخص دو بہنوں کو جمع کرے۔ آپ فرماتے کہ تم لوگوں کو اپنے مملوکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے۔

(۱۶۵۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمْتَانِ الْأَخْتَانِ فَيَطَّأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ : لَا يَطَّأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ .

(۱۶۵۱۰) حضرت مکحول سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہو تو کیا دوسری سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں جب تک صحبت شدہ کو اپنی ملکیت سے نہ نکال دے اس وقت تک جائز نہیں۔

(۱۶۵۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مَطْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ .

(۱۶۵۱۱) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آزاد عورتوں میں حرام کیا ہے وہ باندیوں میں بھی حرام کیا ہے۔ البتہ آدمی

باندیوں کو جتنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ (ان کی تعداد مقرر نہیں)

(۱۶۵۱۲) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِنْ مَلَكَ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَحَرَمَتْهَا آيَةٌ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أَحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ .

(۱۶۵۱۲) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا دو مملوک بہنوں سے جماع کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی ایک آیت نے اسے حلال اور دوسری نے حرام کیا ہے۔ البتہ میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔

(۱۶۵۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَيَّ إِحْدَاهُمَا أَبْعُقُ عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَبْعُقُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الْبَنَى وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ .

(۱۶۵۱۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا دو مملوک بہنوں سے جماع کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک جماع شدہ باندی اس کی ملک میں ہے اس کی بہن سے جماع نہیں کر سکتا۔

(۱۶۵۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ أُبْطِؤُهُمَا؟ فَقَالَ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَمَتْهُمَا آيَةٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مَنِبِّهٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ .

(۱۶۵۱۴) حضرت عبدالعزیز بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ سے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا تو انہوں نے بھی محمد بن حنفیہ والی بات کہی۔ پھر میں نے حضرت ابن منبہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ شریعت کے مطابق دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ملعون ہے۔ اس میں تفصیل نہیں تھی کہ دونوں آزاد ہوں یا باندیاں۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے جا کر ابن منبہ کی بات سعید بن مسیب کو بتائی تو انہوں نے اللہ کی تکبیر بیان کی۔

(۱۶۵۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ مَبْرُوكٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ .

(۱۶۵۱۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۵۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشِيَ الْأُخْرَى ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الْبَنَى غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ .

(۱۶۵۱۶) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہو تو کیا دوسری سے جماع

کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں جب تک صحبت شدہ کو اپنی ملکیت سے نہ نکال دے اس وقت تک جائز نہیں۔

(۱۶۵۱۷) حَدَّثَنَا عُندَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَحْرُمُ بَيْنَهُمَا وَاحِدَةً مِنْهُمَا.

(۱۶۵۱۷) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں تو دونوں میں سے ایک کے قریب نہ جائے۔

(۱۶۵۱۸) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدُ.

(۱۶۵۱۸) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ سوائے تعداد کے باندیوں اور آزاد عورتوں سے صحبت کے احکامات ایک جیسے ہیں۔

(۱۶۵۱۹) حَدَّثَنَا عُندَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَا أَمْرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ فَلَقِيَهُ عَالِيًا بِالْبَابِ، فَقَالَ: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لِكُنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لِأَوْجَعْتُكَ.

(۱۶۵۱۹) حضرت عثمان غنی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہو تو کیا دوسری سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ پھر وہ سوال کرنے والا دروازہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے اسی بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور اگر مجھے تم پر قدرت ہوئی اور تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔

(۱۶۵۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطْوُهُمَا قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، فَقَالَ أَفْتَيْتَ بَغْدًا وَكَدًّا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةً كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدْتَنِي أَدْرِكَ فَقُلْ لَهُمْ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا.

(۱۶۵۲۰) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آدمی دو ملوک بہنوں سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ یہ بات حضرت نعمان بن بشیر کو پہنچی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس فتویٰ کا اقرار کیا۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ باندی کسی ایسے شخص کے پاس ہوتی جس کی بہن باندی ہو تو کیا اس کے لئے اس سے وطی کرنا جائز ہے؟ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے

ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ آزادی وغیرہ کا رسمی رشتہ ہے۔

(۵۲) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

اگر آدمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیا اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟

(۱۶۵۲۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيْتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ .

(۱۶۵۲۱) حضرت قتادہ سے سوال کیا گیا کہ اگر آدمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیا اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ ریبہ کے درجہ میں ہے۔

(۱۶۵۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جِلَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .

(۱۶۵۲۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۶۵۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ .

(۱۶۵۲۳) حضرت زید بن ثابت عورت کو قبل از دخول طلاق دینے کی صورت میں عورت کی ماں سے نکاح کو بالکل جائز سمجھتے تھے۔ اور قبل از دخول عورت کے انتقال کی صورت میں اسے مکروہ بتاتے تھے۔

(۱۶۵۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرَ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمَّ أَجَامِعُهَا حَتَّى تَوَلَّى عَيْمَى ، عَنْ أُمَّهَا ، وَأُمَّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي أَبِي هَلْ لَكَ فِي أُمَّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَوَدِدْتُ وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحْتَ ابْنَتَهَا ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ أَنْكَحَهَا ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تَنْكِحُهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرَ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةَ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا أُحْرَمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَنْتَ وَذَلِكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَيْنِي وَلَمْ يَأْذُنْ وَأَنْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نَنْكِحْهَا .

(۱۶۵۲۳) ابو بکر بن کنانہ کے حضرت مسلم بن عویمیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے طائف میں ایک عورت سے میری شادی کی۔ ابھی میں نے اس سے جماع نہ کیا تھا کہ اس کی ماں کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں ایک مالدار عورت تھیں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اس کی ماں سے شادی کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ پھر اس بارے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ پھر حضرت ابن

عمر بن الخطاب سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح نہ کرو۔ پھر ابو عمرو نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی رائے درج کی اور اس بارے میں حضرت معاویہ کی رائے معلوم کی۔ حضرت معاویہ نے انہیں خط میں لکھا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اسے حرام نہیں کرتا اور جو حرام کی ہے میں اسے حلال نہیں کرتا۔ آپ کے پاس اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ پھر انہوں نے نہ مجھے اس سے منع کیا اور نہ اجازت دی۔ پھر میرے والد نے اس خیال کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس سے نکاح نہ کیا۔

(۱۶۵۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجِرَاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَقْبَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امَّهَا ثُمَّ آتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمُ فَتَهَاؤُهُمْ وَقَدْ وُلِدَتْ أَوْلَادًا .

(۱۶۵۲۵) حضرت ابو عمرو و شیبانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی آدمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی یا مر گیا تو وہ اس عورت کی ماں سے شادی کر سکتا ہے۔ پھر جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا اور لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ حالانکہ عورتوں کی شادی کے بعد بچے بھی ہو چکے تھے۔

(۱۶۵۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي «أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ» قَالَ : مَا أُرْسَلَ اللَّهُ فَأُرْسَلُوا ، وَمَا بَيْنَ فَاتَبَعُوا .

(۱۶۵۲۶) حضرت مسروق قرآن مجید کی آیت «أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ» کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم رہنے دو اور جسے وضاحت سے بیان کیا ہے اس کی اتباع کرو۔

(۱۶۵۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي «وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» : أُرِيدُ بِهِمَا جَمْعَهُمَا .

(۱۶۵۲۷) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت «وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں دخول مراد ہے۔

(۱۶۵۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يَطْلُقَهَا ابْتِزَاجُ امَّهَا ؟ قَالَ : لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ .

(۱۶۵۲۸) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے شادی کی، پھر اسے دیکھے اور جماع کئے بغیر اسے طلاق دے دی تو کیا وہ اس کی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۶۵۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بَرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . (۱۶۵۲۹) حضرت مکحول اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کی ماں سے

شادی کرے۔

(۱۶۵۲۰) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدِ الْهَدَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ لَابِتٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند خیال فرماتے تھے کہ آدمی کسی ایسی عورت کی ماں سے شادی کرے جس کا دخول سے پہلے انتقال ہو جائے۔

(۱۶۵۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءٌ .
حضرت ابن علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابویحییٰ سے سوال کیا کہ اگر آدمی کسی عورت سے دخول کے بغیر اے طلاق دے دے تو کیا اس کی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت عطاء کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔

(۱۶۵۲۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ؟ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ .

(۱۶۵۲۳) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مبہم ہے۔
(۱۶۵۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ .
حضرت طاووس نے بھی اس آیت کو مبہم قرار دیا ہے۔

(۱۶۵۲۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ .
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس آیت کو مبہم قرار دیا ہے۔

(۵۳) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے

(۱۶۵۲۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ بَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعْيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۶۵۲۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے غلام کو اس کے مال میں تصرف کرنے دیتے تھے اور اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۶۵۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَى نَافِعٍ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ .
حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے لیکن اپنے مالک کے مال میں نہیں۔

- (۱۶۵۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِأَذْنِ سَيِّدِهِ .
 (۱۶۵۳۷) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ غلام اپنے مال میں اپنے آقا کی اجازت سے تصرف کرے۔
- (۱۶۵۳۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ .
 (۱۶۵۳۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔
- (۱۶۵۳۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
 (۱۶۵۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔
- (۱۶۵۴۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
 (۱۶۵۴۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔
- (۱۶۵۴۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أُذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرَّى ، فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ .
 (۱۶۵۴۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب آقا نے غلام کو تصرف کی اجازت دے دی تو وہ کر سکتا ہے۔
- (۱۶۵۴۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَمْ نَكُنْ نَرَى بَسْرَى الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا .
 (۱۶۵۴۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مالک کے مال میں تصرف کرے۔
- (۱۶۵۴۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
 (۱۶۵۴۳) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔
- (۱۶۵۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ ، وَكَانَ يَأْذُنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السُّتَّ وَالسَّبْعَ .
 (۱۶۵۴۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک غلام تھا جو تجارت کرتا تھا، حضرت ابن عباس نے اسے اجازت دے رکھی تھی اور وہ مال میں تصرف کرتا تھا۔

(۵۴) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

جن حضرات کے نزدیک غلام کا مال میں تصرف کرنا مکروہ ہے

- (۱۶۵۴۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى .
 (۱۶۵۴۵) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ غلام شادی کر سکتا ہے مالی تصرفات نہیں کر سکتا۔
- (۱۶۵۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَزَوَّجَهُ .
 (۱۶۵۴۶) حضرت ابن سیرین اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ غلام کی شادی کرائی جائے۔

(۱۶۵۱۷) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ .

(۱۶۵۳۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

(۱۶۵۱۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّيَا ، وَإِنْ أُذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ .
(۱۶۵۳۸) حضرت حکم اور حضرت ابن سیرین نے اس بات کو ناپسند قرار دیا کہ غلام مالی معاملات کرے خواہ آقا نے اجازت دے دی ہو پھر بھی نہیں۔

(۱۶۵۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ .
(۱۶۵۳۹) حضرت ابراہیم اس بات کو ناپسند خیال فرماتے تھے کہ غلام مالی تصرفات کرے۔

(۵۵) الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا

اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اسے کوڑھ یا پھلیمیری ہونے کا پتہ چلے، اور

وہ اس سے دخول کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۵۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غَرْمٌ عَلَىٰ وَلِيِّهَا .
(۱۶۵۵۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے، پھر اسے پتہ چلے کہ عورت کو کوڑھ، پھلیمیری یا جنون ہے، لیکن وہ اس عورت سے دخول کرے تو فرج کے استحلال کی وجہ سے مرد پر مہر واجب ہوگا۔ جس کا تاوان عورت کے ولی سے لیا جائے گا۔

(۱۶۵۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبُرْصَاءِ : إِنْ دَخَلَ فِيهَا امْرَأَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۵۵۱) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پاگل یا پھلیمیری کی شکار عورت سے شادی کی پھر اس سے دخول کیا تو وہ اس کی بیوی ہے اور اگر دخول نہ کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

(۱۶۵۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَنُوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَّ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْبُرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقُرْنِ .

(۱۶۵۵۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ چار عورتوں سے نہ نکاح جائز ہے نہ باندی ہونے کی صورت میں انہیں خریدنا درست

ہے۔ پھلہمیری کا شکار، پاگل، کوڑھی، رحم یا شرمگاہ کی بیماری کا شکار عورت۔

(۱۶۵۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُمْ عَلَيَّ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَّازَهَا عَلَيْهِ .

(۱۶۵۵۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر اس میں کوئی عیب معلوم ہوا۔ تو اس بارے میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس عورت کو اپنے پاس ہی رکھو۔

(۱۶۵۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُبُلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُظْهِرُ عَلَيْهَا دَاءً أَنَّهُ كَانَ يُوجِّهَهَا عَلَيْهِ .

(۱۶۵۵۳) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے دخول بھی کر لے، پھر بعد میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری مرد پر ہوگی۔

(۱۶۵۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبُوتٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةٌ أَصْهَارِهِ .

(۱۶۵۵۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے صرف رشتے داری کی امانت ہے۔

(۱۶۵۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُرَّةُ لَا تَرُدُّ مِنْ عَيْبٍ .

(۱۶۵۵۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی عیب کی وجہ سے آزاد عورت کو واپس نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۶۵۵۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبُرُصَاءَ .

(۱۶۵۵۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت شریحؓ پھلہمیری کا شکار عورت کا عوض مرد کو دیا کرتے تھے۔

(۱۶۵۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ قَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُدَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَقْلًا : إِنَّمَا تَرُدُّ مِنْ هَذَا وَلِهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرَجَهَا الْعَاجِلُ وَالْأَجِلُ وَصَدَاقُهُ عَلَيَّ مِنْ غَرَّةٍ .

(۱۶۵۵۸) حضرت مکحول اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر اس میں پاگل پن، کوڑھ، پھلہمیری یا رحم کی بیماری ظاہر ہوئی تو اس عورت کو واپس کیا جائے گا اور اسے عاجل یا آجمل مہر ملے گا جس سے آدمی نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا۔ اس مہر کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس نے مرد کو رشتہ کرنے پر ابھارا۔

(۱۶۵۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَّارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَبْصَرَ بِكُشْحِهَا بَرَصًا فَقَامَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَوَى عَلَيْكَ تَيْبَاكَ وَأَرْجِعِي إِلَيَّ بَيْتًا .

(۱۶۵۵۹) حضرت کعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک غفار سے عورت سے شادی کی، جب آپ ان سے ہم

بستری فرمانے لگے تو اس کے جسم پر بھلہیری کے نشان دیکھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے کپڑے سیدھے کر لو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔

(۱۶۵۶۰) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ.

(۱۶۵۶۰) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کو عیب کی وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا۔

(۵۶) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ

شادی کے بعد اگر مرد میں کوڑھ، بھلہیری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہو تو عورت کے لئے

کیا حکم ہے؟

(۱۶۵۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خَيْرٌ.

(۱۶۵۶۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد اگر مرد میں کوڑھ، بھلہیری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہو تو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے۔

(۱۶۵۶۲) حَدَّثَنَا عُقْدَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقْرَبَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْتَفَتْهُ.

(۱۶۵۶۲) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد مرد میں بھلہیری کا مرض معلوم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر کوڑھ نکلے تو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے۔

(۱۶۵۶۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ: هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

(۱۶۵۶۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد مرد میں جنون یا کوئی اور بیماری ظاہر ہو تو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اس مرد کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے۔ حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس مرد کی بیوی ہے وہ چاہے تو اسے رکھے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

(۵۷) فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ تَكُونُ، مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات کے نزدیک مجوسیہ باندی سے نکاح کرنا ممنوع ہے

(۱۶۵۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مَرَّةً ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ، أَوْ يَبِيئُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَبْعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ ، فَقَالَ : مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ .

(۱۶۵۶۳) حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مجوسیہ باندی کو خریدے یا قیدی بنا کر لائے تو اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے وطی کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس مجوسیہ سے بہتر نہیں ہے۔

(۱۶۵۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً مَجُوسِيَّةً ، فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسَلِّمَ . (۱۶۵۶۵) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ مجوسیہ لڑکی کے مسلمان ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

(۱۶۵۶۶) حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ .

(۱۶۵۶۶) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تک مجوسیہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے مسلمان مرد اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب وہ اقرار کر لے تو مسلمان ہے۔

(۱۶۵۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ سَمَّاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبُهَا مَتَى تُسَلِّمَ .

(۱۶۵۶۷) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ مجوسیہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان اس کے قریب نہیں جا سکتا۔

(۱۶۵۶۸) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لَا يَطْوُهَا .

(۱۶۵۶۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجوسیہ سے وطی کرنا درست نہیں۔

(۱۶۵۶۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَبَّتِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عَرَضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامَ وَجِبْنَ فَإِنْ أَسْلَمْنَ وَوَطَّنْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَمِينْنَ أَنْ يُسَلِّمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوَطَّنْنَ .

(۱۶۵۶۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجوسی اور بت پرست عورتیں قیدی بنائی جائیں تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام قبول کرنے پر اصرار کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے وطی کرنا بھی درست اور خدمت لینا بھی درست۔ اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے وطی تو نہیں کی جائے گی البتہ خدمت لی جا سکتی ہے۔

(۱۶۵۷۰) حَدَّثَنَا النَّقْفِيُّ ، عَنْ مِثْنَى ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا .

(۱۶۵۷۰) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجوسہ باندی خرید کر اس میں تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۵۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مِثْنَى قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَرُونَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّيَ الرَّجُلُ الْمُجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ .

(۱۶۵۷۱) حضرت مثنیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء، حضرت طاووس اور حضرت عمرو بن دینار کے نزدیک مجوسہ باندی میں تصرف کرنا جائز ہے جبکہ حضرت سعید بن مسیب اسے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔

(۱۶۵۷۲) حَدَّثَنَا شاذَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إِذَا أَصَبَتِ الْأُمَّةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسَلِّمَ وَتَغْتَسِلَ .

(۱۶۵۷۲) حضرت ربیع بن خثیم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشرک باندی ملے تو اس سے تبت تک جماع نہ کرو جب تک وہ اسلام قبول کر کے غسل نہ کر لے۔

(۵۸) فی الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أمر لا؟

نصرانیہ اور یہودیہ باندی سے جماع کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۶۵۷۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ لَحْمِيدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَبَّتِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ عَرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجَبَّيْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسَلِّمْنَ وَطَنَ وَاسْتُخِدِمْنَ .

(۱۶۵۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب یہودی یا نصرانی عورتوں کو قیدی بنایا جائے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام قبول کرنے پر اصرار کیا جائے گا۔ پھر وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان سے جماع کیا جاسکتا ہے اور ان سے خدمت بھی لی جاسکتی ہے۔

(۱۶۵۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، فَإِنَّهُ يَتَّطَّرُهَا .

(۱۶۵۷۴) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ آدمی یہودی یا عیسائی باندی سے وطی کر سکتا ہے۔

(۱۶۵۷۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطَّرُهُمَا .

(۱۶۵۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی یہودی یا عیسائی باندی سے وطی کر سکتا ہے۔

(۱۶۵۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا

بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۱۶۵۷۶) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو کوئی مشرک باندی حاصل ہو تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دے۔ اگر وہ انکار بھی کر دے تب بھی وہ اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۶۵۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْرَهُ أُمَّتَهُ مُشْرِكَةً. (۱۶۵۷۷) حضرت عبد اللہ مشرک باندی سے صحبت کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۱۶۵۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرَهُهَا عَلَى الْغُسْلِ.

(۱۶۵۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس مشرک باندی ہو تو آدمی اس سے جماع کر سکتا ہے۔ اور اسے غسل پر مجبور کر سکتا ہے۔

(۱۶۵۷۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسِيَّةِ: لَا يَطُوهَا حَتَّى تَهْلَلَ وَتُسَلِّمَ.

(۱۶۵۷۹) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیدی عورت سے آدمی اس وقت تک جماع نہ کرے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اسلام قبول نہ کر لے۔

(۱۶۵۸۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سَأَلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: لَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.

(۱۶۵۸۰) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی قیدی باندی کو خرید لے تو کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جماع نہیں کر سکتا جب تک اسے نماز، غسل جنابت اور زیر ناف بال صاف کرنا نہ سکھا دے۔

(۱۶۵۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْزُضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ صَرَبَ عَلَيْهِ الْجَزِيَّةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَانِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ. (عبد الرزاق ۱۰۰۲۸۔ بیہقی ۲۸۵)

(۱۶۵۸۱) حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں کے بارے میں حکم دیتے ہوئے خط لکھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جو اسلام لے آئے اس کا اسلام قبول کر لیا جائے اور جو اسلام قبول نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔ البتہ ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔

(۵۹) فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزَّوْنِ وَيَطْوُهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

حرامیہ باندی سے جماع کرنے اور اس سے طلبِ اولاد کا حکم

(۱۶۵۸۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَامِ قَالَ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيْبِ يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَكَدَ الزَّوْنِ .

(۱۶۵۸۲) حضرت سعید بن مسیب نے حرامیہ باندی سے طلبِ اولاد کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۵۸۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : يَتَسَرَّى وَكَدَ الزَّوْنِ وَلَا يَطْلُبُ وَكَدَهَا .

(۱۶۵۸۳) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ آدمی حرامیہ باندی سے جماع تو کر سکتا ہے لیکن اولاد حاصل کرنا درست نہیں۔

(۱۶۵۸۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الرَّوَّاحِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ وَكَدِ الزَّوْنِ ، فَقَالَ : النَّسَاءُ كَثِيرٌ .

(۱۶۵۸۴) حضرت ابو رواح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حرامیہ باندی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں۔

(۱۶۵۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا .

(۱۶۵۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حرامیہ باندی میں تصرف کرنا جائز ہے۔

(۱۶۵۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزَيْنَةٍ قَالَ : هِيَ كَعَرَضٍ مَالِهِ يَنْطَلِقُهَا .

(۱۶۵۸۶) حضرت حسن حرامیہ باندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کا مال ہے اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۶۵۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَكَدَ الزَّوْنِ يَتَسَرَّاهَا .

(۱۶۵۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حرامیہ باندی کو خریدنے اور اس سے جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۵۸۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَيَّارِ مَوْلَى لِمَعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتِ زَيْنَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا ، إِذَا اتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اتَزَوَّجَهَا .

(۱۶۵۸۸) حضرت سیار مولیٰ معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی حرامیہ عورت سے شادی کا ارادہ کیا اور اس بارے

میں ایک صحابی سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کی ماں سے شادی کر لو۔

(۱۶۵۸۹) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَكَدَ الزَّوْنِ قَالَ : وَمَا

ذَنبُهُ فِيمَا عَمِلَ آبَاؤُهُ.

(۱۶۵۸۹) حضرت محمد بن سیرین حرامیہ عورت سے شادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کے گناہ کا وبال اس پر کیوں ہو۔

(۱۶۵۹۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَكَلِدَ الزَّانَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَاهَا .

(۱۶۵۹۰) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی حرامیہ باندی ہو تو مجھے اس سے جماع کرنے میں کوئی عار نہیں۔

(۶۰) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ ، أَيَطُوهَا أَمْ لَا ؟

زانیہ باندی سے جماع کرنے کا بیان

(۱۶۵۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِىءَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا .

(۱۶۵۹۱) حضرت ابومعبد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک ایسی باندی سے جماع کیا جس کے بچے کا انکار کیا تھا۔

(۱۶۵۹۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ إِذَا فَجَرَتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا .

(۱۶۵۹۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما زانیہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے اور فرماتے کہ یہ اس کے لئے پاکیزگی کا سبب ہوگا۔

(۱۶۵۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِىءَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ .

(۱۶۵۹۳) حضرت سعید بن مسیب نے ایک زانیہ باندی سے جماع کیا۔

(۱۶۵۹۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أُمَّتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِنَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .

(۱۶۵۹۴) حضرت شعبی سے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی زانیہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے اختیار ہے اگر چاہے تو اس سے جماع کر لے اور اگر چاہے تو اسے روک رکھے۔

(۱۶۵۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ أُمَّتَهُ قَدْ زَنَتْ .

(۱۶۵۹۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایسی باندی سے جماع کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے جس نے زنا کیا ہو۔

(۱۶۵۹۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أُمَّتَهُ تَفْجُرُ أَيَطُوهَا ؟

قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةً.

(۱۶۵۹۶) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی اپنی زانیہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۶۱) فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ، أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ، أَيَطَّأُهَا أَمْ لَا؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے یا سنے تو کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟

(۱۶۵۹۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحْرَمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۶۵۹۷) حضرت حماد اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے تو اس سے بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔

(۱۶۵۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي الرَّجُلِ يَرَى تَزْوِجَ امْرَأَتَهُ قَالَ: لَا يُحْرَمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۶۵۹۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے تو اس سے بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔

(۱۶۵۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، قَالَ: تَطِيبُ نَفْسُكَ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تَمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ وَلَمْ تَحْرَمْ عَلَيْكَ.

(۱۶۵۹۹) حضرت سالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کے بعد اب اس کے ساتھ تمہارا معاملہ درست کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت سالم نے اس عورت کو مرد پر حرام قرار نہیں دیا۔

(۱۶۶۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْفُرُ أَنْ يُمْسِكَهَا.

(۱۶۶۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو اس سے جماع کرنا مکروہ ہے۔

(۱۶۶۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا أَطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ.

(۱۶۶۰۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اسے اپنے پاس رکھنا حلال نہیں اور جب کوئی عورت اپنے خاوند کو زنا میں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اس کے پاس رہنا حلال نہیں۔

(۱۶۶۰۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْرَمَ

فَاتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ تَسَقَطَ امْرَأَتُهُ فَرَعَمَتْ أُنْهَى فَبَجَرَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبَيْسَ مَا صَنَعْتَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَمْسِكَ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلَّ سَبِيلَهَا . (۱۶۶۰۲)

حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بئر زحزم کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو بچھڑانے پر مجبور کیا کیونکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے بدکاری کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ کیونکہ اگر تم نے بھی اس جیسا کام کیا ہے جس کا وہ اپنے لئے اقرار کر رہی ہے تو اسے اپنی بیوی بنا کر رکھو اور اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔

(۱۶۶۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَوَلَدِهِ عَلَى فَاِحِشَةٍ فَلَا يَقْرُبُهَا . (۱۶۶۰۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا ام ولد باندی کو بیٹھائے زنا دیکھے تو اس کے قریب نہ جائے۔

(۱۶۶۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ابْنِي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَانْتَ أَعْلَمُ . (۱۶۶۰۴)

حضرت سلمہ بن وھرام کہتے ہیں کہ میں حضرت طاووس کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنی بیوی سے زنا کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل مانے تو اس عورت کو اپنے پاس رکھ لو حالانکہ تم سب دیکھ چکے ہیں اور تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔

(۱۶۶۰۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلَّقْهَا قَالَ : لَا أُصِرُّ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا . (ابوداؤد ۲۰۴۲۔ بیہقی ۱۵۵)

(۱۶۶۰۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، وہ درست کردار کی حامل نہیں۔ اس کے بارے میں میرے لئے کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔

(۶۲) فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالَ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کرے تو اس کی بیوی کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۶.۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.

(۱۶۶.۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سالی سے زنا کرنے والا بڑے گناہ کا مرتکب ہے لیکن اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔

(۱۶۶.۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلَا يُحْرَمُ حَرَامَ حَلَالٍ.

(۱۶۶.۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کرے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی کیونکہ حرام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔

(۱۶۶.۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي السُّعَيْبِ، عَنِ ابْنِ أَسْوَعٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.

(۱۶۶.۸) حضرت ابن اسوع سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ میں نے تو یہ بات کہنے کی ہمت کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی یہ کہنے سے ڈرتے تھے۔

(۱۶۶.۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(۱۶۶.۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۶.۱۰) وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُحْرَمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْبَنِيِّ بِنَيْبِهَا.

(۱۶۶.۱۰) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں بیوی حرام تو نہیں ہوگی البتہ وہ اپنی بیوی سے اس وقت جماع نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت عدت نہ گزار لے جس سے اس نے جماع کیا ہے۔

(۱۶۶.۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(۱۶۶.۱۱) حضرت جابر بن زید اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سالی سے زنا کرنے کی صورت میں بیوی حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۶.۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ النَّخَعِيِّ: مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۶۶.۱۲) حضرت نخعی بھی حضرت قتادہ کی طرح اس بات کے قائل ہے کہ مزید سالی عدت گزارے گی اور وہ عدت وضع حمل تک

ہو سکتی ہے۔

(۱۶۶۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبِ لَه ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحْرَمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۶۶۱۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

(۱۶۶۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُحْرَمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۶۶۱۴) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

(۱۶۶۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

(۱۶۶۱۵) حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۶۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ

تَحْرُمَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ .

(۱۶۶۱۶) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

(۶۳) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزَوَّجَتْ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى

ایک آدمی نے کسی شخص کی بیٹی سے نکاح کیا لیکن شب زفاف میں دوسری بیٹی اسے پیش

کی گئی تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

(۱۶۶۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِّيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعَقْلِيِّ ، عَنِ أَبِي الْوَضِيِّ أَنَّ رَجُلًا

تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتَ لَهُ ابْنَةً مَهِيرَةَ فَزَوَّجَهُ وَزَوَّجَتْ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بِنْتُ قَتَاةَ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ

بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : ابْنَةُ الْفَتَاةِ تَعْنِي فَلَانَةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا تَزَوَّجْتَ إِلَى أَبِيكَ ابْنَتَهُ ابْنَةَ

الْمَهِيرَةِ فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ :

امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لِمُعَاوِيَةَ ، ارْفَعْنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَيْهِ فَاتُوا عَلِيًّا فَرَفَعَ

عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا ، فَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَيْدِهِ مَا سُقَّتْ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ

فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يَجْهَزَ الْأُخْرَى بِمَا سُقَّتْ إِلَى هَيْدِهِ وَلَا تَقْرُبَهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهُ هَذِهِ الْأُخْرَى ،

قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ .

(۱۶۶۱۷) حضرت ابوالوضین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شام کے ایک شخص کی بیٹی جس کی کنیت ”ابنہ مہیرہ“ (مہیرہ

کہنے کی وجہ اس کے مہر کا زیادہ ہونا تھا) تھی، نکاح کیا۔ لیکن شب زفاف میں اسے ایک دوسری بیٹی پیش کر دی گئی جس کی کنیت ”ابنہ

فتاہ“ (اس کا مہر کم تھا) تھی۔ جب اس رات آدمی نے اس لڑکی سے جماع کر لیا تو پوچھا ”تو کون ہے؟“ اس نے کہا کہ میں ”ابنہ

فتاۃ‘ ہوں۔ اس آدمی نے کہا تمہارے باپ نے تو میری شادی ’ابو مہیرہ‘ سے کی تھی۔ پس یہ لوگ اپنا مقدمہ لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے بدلے عورت ہوگی لہذا کوئی جھگڑا نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس موجود شامی علماء سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں یہ قضیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی۔ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے زمین سے کوئی معمولی سی چیز اٹھائی اور فرمایا کہ میرے لئے اس کا فیصلہ کرنا اس چیز سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ اس عورت کو تو اتنا مہر ملے گا جو تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے لئے اسے ادا کیا ہے۔ اور اس کے باپ پر لازم ہے کہ دوسری بیٹی کو وہ مال دے جو تو نے اسے ادا کیا ہے اور تو اس کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تک پہلی لڑکی عدت نہ گزار لے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکی کے والد کو کوڑے لگوائے یا کوڑے لگوانے کا ارادہ فرمایا۔

(۶۴) مَا قَالُوا فِي مَهْوَرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ

مہر کے بارے میں علماء کی آراء اور اختلاف

(۱۶۶۱۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ فَمَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْعَلَاتِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاصَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ .

(بیہقی ۲۳۹۔ ابن عدی ۲۱۸۸)

(۱۶۶۱۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کنوارے لوگوں کی شادیاں کراؤ۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! ان کے مہر کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں۔

(۱۶۶۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهِمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَّ قَالَ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُقْتَبَى بِهِ يَقُولُ : يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهِمٍ . (ابو یعلیٰ ۹۳۹)

(۱۶۶۱۹) حضرت ابن ابی لیبہ کے دادا فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک درہم کے ذریعہ بھی عورت کو حلال کیا اس کے لئے حلال ہوگی۔ حضرت وکیع کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ مہر میں ایک درہم دینا بھی جائز ہے۔

(۱۶۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نِكَاحُهُ. (ترمذی ۱۱۱۳۔ احمد ۳ / ۳۴۵)

(۱۶۶۲۰) حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عہد نبوی ﷺ میں دو جوئے مہر کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا اور آپ ﷺ نے اس کے نکاح کو جائز قرار دیا۔

(۱۶۶۲۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَعْلَمَهَا سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . (بخاری ۲۳۱۰۔ مسلم ۷۷)

(۱۶۶۲۱) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کی ایک عورت سے اس مہر پر شادی کرائی کہ وہ عورت کو قرآن مجید کی ایک سورت سکھائے گا۔

(۱۶۶۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرُهَا .

(۱۶۶۲۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک درہ (کوڑا) مہر لینے پر راضی ہو جائے تو وہی اس کا مہر بن جائے گا۔

(۱۶۶۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلِيَّ وَزَيْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوْمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثَلَاثًا .

(۱۶۶۲۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی ایک گٹھلی کے عوض نکاح کیا، وہ گٹھلی تین درہم اور ایک تہائی درہم کے برابر تھی۔

(۱۶۶۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا تَرَأَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ .

(۱۶۶۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنے مہر پر میاں بیوی راضی ہو جائیں وہی مہر کافی ہے۔

(۱۶۶۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ : قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ .

(۱۶۶۲۵) حضرت عطاء اس شخص کے بارے میں جو دس درہم کے عوض نکاح کرے فرماتے تھے کہ مسلمان اس سے کم اور اس سے زیادہ پر بھی نکاح کیا کرتے تھے۔

(۱۶۶۲۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِتَوْبٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ .

(۱۶۶۲۶) حضرت صالح بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک درہم کے عوض کسی عورت سے نکاح کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کپڑا یا اس جیسی کوئی چیز بہتر ہے۔

(۱۶۶۲۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :

نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَزْنُ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

(۱۶۶۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے مہر کی کم از کم مقدار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سونے کی ایک گٹھلی یا اس کے برابر کوئی چیز۔

(۱۶۶۲۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُشْعَثَ وَهَشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَغَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَاكُمْ ، مَا زَوْجٌ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزْوِجُ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى انْتِئِ عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً . (ابوداؤد ۲۰۹۹ - احمد ۱ / ۳۰)

(۱۶۶۲۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بہت زیادہ مہر نہ دو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں کوئی عزت کی چیز ہوتی یا تقویٰ کا سبب ہوتی تو محمد ﷺ اور آپ کی اولاد اس کے زیادہ حقدار ہوتے۔ حالانکہ آپ نے اپنی تمام صاحبزادیوں کا نکاح اور اپنی تمام ازواج سے نکاح بارہ اوقیہ چاندی پر کیا ہے۔

(۱۶۶۲۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ : لَا تَغَالُوا صَدَقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصِ . (ابن ماجہ ۱۸۸۷)

(۱۶۶۲۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۶۶۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ . (ابوداؤد ۲۰۹۸ - عبدالرزاق ۱۰۳۰۷)

(۱۶۶۳۰) حضرت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی صاحبزادیوں اور آپ کی ازواج کا مہر پانچ سو درہم تھا۔

(۱۶۶۳۱) حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ الزَّعْفَرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا مَهْرَ بَاقِلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ . (۱۶۶۳۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔

(۱۶۶۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ . (۱۶۶۳۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کا مہر چار سو سے زائد کرنے سے منع کیا ہے۔

(۱۶۶۳۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

(۱۶۶۳۳) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ چالیس درہم سے کم مہر کے عوض نکاح کیا جائے اور حضرت حکم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۶۶۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى

أَرْبَع مِئَةِ دِرْهَمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِنَّ هَذَا لَا يَكْفِينَا فَرَادَهَا مِئَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ .

(۱۶۶۳۳) حضرت تابع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے چار سو درہم کے عوض صفیہ سے نکاح فرمایا، صفیہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اتنا مہر کافی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپ کر دو سو درہم کا اضافہ کیا۔

(۱۶۶۳۵) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أَوْ قِيَّةً وَنِصْفَ ذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ .

(۱۶۶۳۵) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نکاح میں سنت بارہ اوقیہ پورے اور نصف اوقیہ چاندی ہے اور یہ پانچ سو درہم بنتے ہیں۔

(۱۶۶۳۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضَا وَأَشْهَدُوا .

(۱۶۶۳۶) حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے کسی قلیل و کثیر مال پر نکاح کرنا لازم نہیں، بس باہمی رضامندی کافی ہے۔

(۱۶۶۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَوْ أَصَدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ .

(۱۶۶۳۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر آدمی عورت کو ایک درہ مہر میں دے تو کافی ہے۔

(۱۶۶۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَةٌ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ . (۱۶۶۳۸) حضرت اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے ایک کمرے کے عوض نکاح کیا جو آپ کو ایک المیہ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔

(۱۶۶۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدَّرْهَمِ وَالذَّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبُعْثِيِّ .

(۱۶۶۳۹) حضرت ابراہیم اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے کہ عورتوں کا مہر فاحشہ کی اجرت کی طرح ایک یا دو درہم رکھا جائے۔

(۱۶۶۴۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ أَوْاقٍ .

(۱۶۶۴۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اسلاف علماء اس بات کو ناپسند قرار دیتے تھے کہ عورت کا مہر تین اوقیہ سے کم ہو۔

(۱۶۶۴۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَوْنَةً . (احمد ۶ / ۱۳۵ - حاکم ۱۷۸)

(۱۶۶۴۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے۔

(۱۶۶۴۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرٍ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ أَصْدَقْتُمَهَا ؟ فَقَالَ : مِنْتِي دِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ . (احمد ۳ / ۳۳۸ - طبرانی ۸۸۳)

(۱۶۶۴۲) حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ ابو حدرد اسلمی نے اپنی بیوی کے مہر میں حضور ﷺ سے مدد چاہی آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کتنا مہر طے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دو سو درہم، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم درہم کو بطحان نامی وادی سے ہاتھوں میں بھر کر لاتے تو اتنا زیادہ مہر نہ رکھتے۔

(۶۵) مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوْجَ بِهِ

جن حضرات نے زیادہ مہر پر نکاح کیا اور کرایا ہے

(۱۶۶۴۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ . (ابوداؤد ۲۱۰۰ - ابن سعد ۹۸)

(۱۶۶۴۳) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے حضور ﷺ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح چار سو دینار کے عوض کرایا۔

(۱۶۶۴۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ أَنَّ عَمْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كَلْثُومَ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

(۱۶۶۴۴) حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے چالیس ہزار درہم کے عوض نکاح فرمایا۔

(۱۶۶۴۵) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا .

(۱۶۶۴۵) حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ایک عورت سے تیس ہزار درہم کے عوض نکاح فرمایا۔

(۱۶۶۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَمَّيسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۱۶۶۳۶) حضرت مغیرہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چار سو دینار مہر دینے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔
 (۱۶۶۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ شَمِيلَةَ السُّلَمِيَّةِ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ .

(۱۶۶۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شمیلہ سلمیہ سے دس ہزار درہم کے عوض نکاح فرمایا۔
 (۱۶۶۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزُوجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ .

(ابو یوسف ۱۰۲۱)

(۱۶۶۳۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی ہر بیٹی کا نکاح دس ہزار درہم کے عوض کرایا۔

(۱۶۶۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، عَنْ غِيْلَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عَشْرِينَ آلَافًا .

(۱۶۶۳۹) حضرت مطرف نے بنو عقیل کی ایک خاتون سے بیس ہزار درہم کے عوض نکاح فرمایا۔

(۱۶۶۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَرْأَةُ الْفَتِيَّةُ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ .

(۱۶۶۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو ہزار اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار ہزار مہر دینے کی اجازت دی ہے۔

(۱۶۶۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ .

(۱۶۶۵۱) حضرت کریم بن ہشام جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک عورت سے چار ہزار درہم کے عوض نکاح فرمایا۔

(۱۶۶۵۲) حَدَّثَنَا وَرِكَعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : حَظَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَدِيُّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعًا مِئَةً فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرُو بِعَشْرَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ : جَهَّزْهَا .

(۱۶۶۵۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عمرو بن حرث نے حضرت عدی بن حاتم کی بیٹی کے لئے پیام نکاح بھیجا۔ عدی نے مہر کے لئے حضور ﷺ کی سنت کا مطالبہ کیا جو کہ چار سو اسی بنتے تھے۔ عمرو بن حرث نے اس مالیت کے عوض حضرت عدی کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔

(۱۶۶۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مِئَةَ جَارِيَةٍ

مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفٌ دِرْهَمٍ.

(۱۶۶۵۳) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک عورت سے نکاح فرمایا، اور اس کے پاس سو باندیاں بھیجیں ہر باندی کے پاس ایک ہزار درہم تھے!

(۶۶) مَا قَالُوا فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

نکاح کے اعلانیہ ہونے کا بیان

(۱۶۶۵۴) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْرَ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا فَرَأَتْ جَارَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقَدَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ جَارِيَةً وَلَا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً عَلَيَّ شَيْءٍ دُونَ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَمَنْ شَهِدَكُمْ ؟ قَالَ : أَشْهَدْتُ بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَذَرَأُ أَحَدًا ، عَنْ قَائِدِيهِ وَقَالَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ .

(۱۶۶۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی عورت سے خفیہ طور پر شادی کی، وہ اس کے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عورت کے ایک پڑوسی نے آدمی کو اس کے گھر آتے دیکھ لیا تو اس پر تہمت لگا دی۔ یہ جھگڑالے کر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تہمت لگانے والے پڑوسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ شخص میری پڑوسن کے پاس آتا ہے اور مجھے ان کے نکاح کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا بیان معلوم کیا تو اس نے کہا میں نے اس عورت سے خفیہ طور پر شادی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہوں کی بابت سوال کیا تو اس نے کہا عورت کے کچھ رشتہ دار اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تہمت لگانے والے پر حد تو جاری نہ کی البتہ ان سے فرمایا کہ نکاح کو اعلانیہ کیا کر اور شرمگاہوں کو پاکدامن رکھو۔

(۱۶۶۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ السَّرِّ .

(۱۶۶۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ خفیہ نکاح اچھا نہیں ہے۔

(۱۶۶۵۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السَّرِّ .

(۱۶۶۵۶) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اسلام میں خفیہ نکاح نہیں ہے۔

(۱۶۶۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قِيَّاصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ، أَسْرُ النِّكَاحِ نِكَاحُ السَّرِّ .

(۱۶۶۵۷) حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بدترین نکاح خفیہ نکاح ہے۔

(۶۷) مَا قَالُوا فِي اللَّهِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ

شادی کے موقع پر ڈھول بجانے اور گانے کی اجازت

(۱۶۶۵۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرُوسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهَوٌ . (بخاری ۵۱۶۲ - حاکم ۱۸۳)

(۱۶۶۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کا گزر ایک شادی کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں کچھ لہو (گانا وغیرہ) ہوتا تو اچھا تھا۔

(۱۶۶۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : بُنْتُ أَنْ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ ، أَوْ حِتَانٌ أَقْرَهُ .

(۱۶۶۵۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی گانے بجانے کی آواز سنتے تو اسے برا قرار دیتے اور اس کے بارے میں سوال کرتے، اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ شادی یا بچے کے خندنے کی تقریب ہے تو آپ کچھ نہ کہتے۔

(۱۶۶۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْحِرَاحِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِبَجَارِيَةَ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالذُّفِّ : ارْغَفِي ارْغَفِي .

(۱۶۶۶۰) بخاری کے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقتادہ نے شادی کے موقع پر دف بجانے والی ایک لڑکی سے کہا کہ آگے بڑھ کر بجاؤ، آگے بڑھ کر بجاؤ۔

(۱۶۶۶۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقَدْ ضَرَبَ لَيْلَةَ الْمَلِكِ بِالذُّفِّ وَغَنَّى عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

(۱۶۶۶۱) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ شادی کی رات میں ڈھول بجا یا گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گانا گایا گیا۔

(۱۶۶۶۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ وَقَرَطَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارِيٌّ يُغَنِّيْنَ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :

فَقَالَ : إِنَّهُ رُحِصٌ لَنَا فِي اللَّهِ عِنْدَ الْعُرْسِ . (بیہقی ۲۸۹ - طبرانی ۲۹۰)

(۱۶۶۶۲) حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابومسعود اور حضرت قرظہ بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس کچھ لڑکیاں بیٹھی گانا گارہی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہو کر ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ شادی کے موقع پر گانے وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔

(۱۶۶۶۳) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلَجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يُعْنَى الضَّرْبُ بِالذَّفِّ . (ترمذی ۱۰۸۸ - احمد ۳ / ۳۱۸)

(۱۶۶۶۳) حضرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان آواز یعنی دف بجانے کا فرق ہے۔

(۱۶۶۶۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرِظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ فَسَمِعْتُ صَوْتِ غِنَاءٍ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْمَعَانِ ؟ فَقَالَا : إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَّاحَةٍ . (حاكم ۱۸۳ - طيالسی ۱۳۲۱)

(۱۶۶۶۳) حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت ثابت بن ودیعہ اور حضرت قرظہ بن کعب کے ساتھ ایک شادی میں شریک تھا۔ میں نے گانے کی آواز سنی تو کہا کہ کیا آپ دونوں یہ آواز نہیں سن رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شادی میں گانے کی اور میت پر بغیر آواز کے رونے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۱۶۶۶۵) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلاَکٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَعُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ : فَأَيْنَ صَفَافَتِكُنَّ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : يُعْنَى الذَّفُّ .

(۱۶۶۶۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ محمد ﷺ کے ایک گھر میں شادی تھی۔ جب لوگ شادی کی تقریب سے فارغ ہوئے اور محمد ﷺ اپنے گھر واپس آئے تو عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے دف کہاں ہیں۔

(۱۶۶۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فَبَدَأَ مَزَامِيرًا وَهُوَ فَقَعَدَ وَكَمْ بَيْنَهُ عَنُ .

(۱۶۶۶۶) ایک صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ایک شادی میں شریک ہوئے جس میں بانسریاں اور گانے کے آلات تھے، آپ بیٹھ گئے اور اس سے منع نہیں فرمایا۔

(۱۶۶۶۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ حِينَ خَتَنَ بَنِيهِ قَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةَ .

(۱۶۶۶۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے جب اپنے بیٹے کے ختنے کئے تو کھیل تماشا کرنے والوں کو بلایا اور انہیں تین یا چار درہم عطا کئے۔

(۶۸) من کره الذَّفُّ

جن حضرات کے نزدیک دف بجانا ناجائز ہے

(۱۶۶۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَعْرَاءِ الْعَمِيِّ ، عَنْ شَرِيحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتِ دُفٍّ ،

فَقَالَ: الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.

(۱۲۶۲۸) حضرت مغراء می فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک مرتبہ دف کی آواز سنی تو فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

(۱۶۶۶۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ لِي خَيْمَةُ: أَمَا سَمِعْتَ سُؤْيِدًا يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.

(۱۲۶۲۹) حضرت سوید فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

(۱۶۶۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِي فِي الْأَزْفَةِ مَعَهُنَّ الدَّفُّ فَيَشْقُونَهَا.

(۱۲۶۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ﷺ لڑکیوں سے دف لے کر پھاڑ دیا کرتے تھے۔

(۶۹) من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

جن حضرات کے نزدیک کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی جو اس کے علاوہ کسی

اور بیوی سے ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ، قَالَ : حدثنا أبو بكر قَالَ :

(۱۶۶۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُهَيَّبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَأَمْرَأَةٍ يُعْنَى مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۶۷۱) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کی سابقہ بیوی اور ان کی اس بیٹی سے نکاح کیا جو اس بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھی۔

(۱۶۶۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يُعْنَى مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۶۷۲) حضرت عکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان نے ثقیف کے ایک آدمی کی سابقہ بیوی اور اس کی اس بیٹی سے نکاح کیا جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھی۔

(۱۶۶۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ : سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَّ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : بُنِنْتُ أَنْ جَبَلَةَ رَجُلٍ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَوَلَدَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يُعْنَى مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۶۷۳) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت محمد بن سیرین سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی

حرج نہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصر میں جبل نامی ایک آدمی تھا۔ اس نے ایک آدمی کی ام ولد باندی اور اس کی ایسی بیٹی سے نکاح کیا جو اس کے علاوہ کسی اور عورت سے تھی۔

(۱۶۶۷۴) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِتَتْ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ قُرْحَاءَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا .

(۱۶۶۷۳) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سعد بن قرحاء نے ایک آدمی کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی سے نکاح کیا جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھی۔

(۱۶۶۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا .

(۱۶۶۷۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آدمی کسی عورت کی ام ولد باندی اور اس کی ایسی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے جو کسی اور بیوی سے ہو۔

(۱۶۶۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا .

(۱۶۶۷۶) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی سے نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔

(۱۶۶۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ .

(۱۶۶۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی سے نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔ جبکہ حضرت حسن کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے۔

(۱۶۶۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فَنَظَرَ ، فَقَالَ : لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

(۱۶۶۷۸) حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے غور و فکر کیا پھر فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے درمیان کچھ نظر نہیں آتا۔

(۱۶۶۷۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ كَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا .

(۱۶۶۷۹) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی سے

نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔

(۱۶۶۸۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .
(۱۶۶۸۰) حضرت ابن عون نے اس بارے میں حضرت محمد سے سوال کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار فرمایا۔

(۷۰) مَنْ نَكَحَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے نزدیک کسی آدمی کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی جو کسی اور بیوی سے

ہے دونوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے

(۱۶۶۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سِئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكِرَهُ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا .

(۱۶۶۸۱) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ آدمی اگر کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی جو کسی اور بیوی سے ہو دونوں کو نکاح میں جمع کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔

(۱۶۶۸۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَضِيلٍ ، عَنِ أَبِي حَرِيْزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا .

(۱۶۶۸۲) حضرت عکرمہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی آدمی کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی سے نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔

(۷۱) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا

شادی کے بعد اگر کوئی عورت آکر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا

ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۶۸۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُنَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سِئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرِّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ .

(احمد ۱۰۹/۲ - بیہقی ۳۶۳)

(۱۶۶۸۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے رضاعت کے گواہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اور ایک عورت کافی ہیں۔

(۱۶۶۸۴) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِيَّابِ التَّمِيمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مَلَكَهَا جَاءَتْ مَوْلَاةً لِأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمْمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلَتْ أَهْلَ الْحَارِثِيَّةِ فَاثْبَرُوا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ .

(بخاری ۸۸۔ ابوداؤد ۳۵۹۸)

(۱۶۶۸۳) حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے ابواہاب تمیمی کی بیٹی سے شادی کی، شادی کی صبح مکہ کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ سوار ہو کر مدینہ منورہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا، ساتھ یہ بتایا کہ میں نے لڑکی کے گھر والوں سے سوال کیا لیکن انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب تو کہا جا چکا ہے! پس عقبہ بن حارث نے اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔

(۱۶۶۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرِّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِبَيْمِنِهَا .

(۱۶۶۸۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب دودھ پلانے کا اقرار کرنے والی عورت راضی لوگوں میں سے ہو تو رضاعت میں اس کی گواہی جائز ہے اور اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔

(۱۶۶۸۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَسَّانٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعِ .

(۱۶۶۸۶) حضرت عمر مہاجر بن خالد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رضاعت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی کو رد کر دیا تھا۔

(۱۶۶۸۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَسَّانٍ ، عَنْ حَلَامِ بْنِ سَالِحٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتَهُمَا ، فَاتَى عَلَيْهَا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَإِنْ تَزَوَّجْتَ فَهِيَ أَحْفَظُ ، وَسَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۶۶۸۷) حضرت بکیر بن فائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شادی کی تو ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ وہ آدمی مسئلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تیری بیوی ہے اسے کوئی تجھ پر حرام نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر تو اس سے علیحدہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

(۱۶۶۸۸) عَنْ مَعْنِ بْنِ عَيْسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بُنْتُ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۶۸۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت ایک میاں بیوی کے پاس آئی اور دعویٰ کیا

کہ اس نے ان دونوں کو دو دھ پلایا ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔
(۱۶۶۸۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ الْقَضَاءُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرِّضَاعِ .

(۱۶۶۸۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات رضاعت میں ایک عورت کی گواہی پر میاں بیوی کے درمیان تفریق کرادیا کرتے تھے۔

(۱۶۶۹۰) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرِّضَاعَةِ .
(۱۶۶۹۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک عاقلہ عورت کی گواہی رضاعت کے معاملے میں کافی ہے۔

(۷۲) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

نکاح کے بعد عورت کو کچھ دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات کرنا کیسا ہے؟

(۱۶۶۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ . (ابو داؤد ۲۱۲۱۔ ابن ماجہ ۱۹۹۲)

(۱۶۶۹۱) حضرت خیرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مسلمان مرد کی شادی کرائی جس کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی سے شرعی ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ آدمی بعد میں مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں میں سے ہوا۔

(۱۶۶۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الرَّكَّابِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ فُلَانٌ بِنْتُ هَرِيمٍ لَيْلَى بِنْتُ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

(۱۶۶۹۲) حضرت رکیبن کے والد فرماتے ہیں کہ ہرم کے ایک بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیلی بنت عجماء سے شادی کی اور مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات کی۔

(۱۶۶۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

(۱۶۶۹۳) حضرت کریب بن ہشام جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک عورت سے چار ہزار درہم کے عوض نکاح کیا اور اسے مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات فرمائی۔

(۱۶۶۹۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ .

(۱۶۶۹۳) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مدینہ کے علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک ایسا کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ البتہ آدمی جو بھی کر لے اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۶۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِوَرِاضِيَةٍ لَمْ تَرِ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۶۶۹۵) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب عورت اس پر راضی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۶۹۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۶۶۹۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۷۳) مَنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

جن حضرات کے نزدیک مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر شرعی ملاقات نہیں کر سکتا

(۱۶۶۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُنِيئَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ مُمْ شَيْئًا.

(۱۶۶۹۷) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ سے شرعی ملاقات کا ارادہ کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ انہیں مہر کا کچھ حصہ ادا کر دو۔

(۱۶۶۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَمِرَ، عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا.

(۱۶۶۹۸) حضرت ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس موجود تھا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے لیکن وہ اس کا مہر ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہے۔ اس کے لئے کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو اسے اپنی جوتی ہی دے دو پھر اس کے ساتھ شرعی ملاقات کرو۔

(۱۶۶۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا.

(۱۶۶۹۹) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسے شرعی ملاقات سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور دے خواہ ایک دوپٹہ ہی دے دے۔

(۱۶۷۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: يُلْقَى عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا.

(۱۶۷۰۰) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ اسے خواہ ایک کپڑا ہی دے پھر اس کے ساتھ شرعی ملاقات کرے۔

(۱۶۷۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا.

(۱۶۷۰۱) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی بیوی کو مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات کرے۔

(۱۶۷۰۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُمَانَ قَالَ : سِئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيٌّ بِصَدَاقِهَا أَيْدُخُلُ بِهَا وَكَمْ يُعْطِيهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَّتِ السَّنَةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا وَلَوْ شَيْئًا .

(۱۶۷۰۲) حضرت صحاح بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت زہری سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو شادی کے بعد عورت کا مہر دینے پر قدرت نہ رکھتا، ہو کیا وہ بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت یہی رہی ہے کہ جب تک کوئی نہ کوئی چیز ادا نہ کر دے شرعی ملاقات نہ کرے۔

(۱۶۷۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُهْدَى شَيْئًا .

(۱۶۷۰۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ شرعی ملاقات سے پہلے کوئی چیز اسے ہدیہ میں دے دے۔

(۱۶۷۰۴) حَدَّثَنَا شِبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْعَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْدُمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ .

(۱۶۷۰۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی تھوڑی یا زیادہ چیز دیئے بغیر اس سے شرعی ملاقات کرے۔

(۱۶۷۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعْطِيهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ . (عبدالرزاق ۱۰۳۲۹ - احمد ۸۰/۱)

(۱۶۷۰۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی زوجہ کو اپنی حطمی چادر ہی دے دو۔

(۷۷) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرط

لگائی تو جن حضرات کے نزدیک اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے

(۱۶۷۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : إِذَا بَطَلْنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ .

(۱۶۷۰۶) حضرت عبدالرحمن بن غنم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شرط اب عورت کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پھر تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقوق کا معاملہ شرط لگانے کے وقت ہوتا ہے۔

(۱۶۷.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَنَمٍ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا .

(۱۶۷.۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرط کا پورا ہونا عورت کا حق ہے۔

(۱۶۷.۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

(بخاری ۵۱۵۱۔ ابو داؤد ۲۱۳۲)

(۱۶۷.۸) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شرط جس کے ذریعہ شرم گاہ کو حلال کیا جائے اس کا حق یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔

(۱۶۷.۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا .

(۱۶۷.۹) حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اس بارے میں حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شرط کا پورا کرنا عورت کا حق ہے۔

(۱۶۷.۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهِيَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فُرْجِهَا .

(۱۶۷.۱۰) حضرت ابو شعثاء فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے عورت کے لئے اس کے گھر کی شرط لگائی تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس کے ذریعے اس کی شرم گاہ کو حلال کیا ہے۔

(۱۶۷.۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ اسْتَحْلَلْتُ فُرْجَهَا بِزَيْنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْتُ مَا بِهِ لَهَا .

(۱۶۷.۱۱) حضرت ابو الزناد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئی کہ اس کے خاوند نے نکاح کے وقت اس کو اسی کے گھر میں ٹھہرانے کی شرط لگائی تھی۔ اب وہ اس کو اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے خاوند اسے اس سے نکال نہیں سکتا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرم گاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں تجھ سے لے کر اسے دیتا۔

(۱۶۷.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : يُخْرِجُهَا ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفُرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا ؟

(۱۶۷۱۲) حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر نے پہلے فتویٰ دیا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ بن جزار نے فرمایا کہ پھر اس نے کس چیز کے عوض عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے؟ اس پر دونوں حضرات نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔

(۷۵) مَنْ قَالَ لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَكَهْ أَنْ يُخْرِجَهَا
جن حضرات کے نزدیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں

(۱۶۷۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي
الَّتِي شَرِطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : شَرِطَ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِهَا .

(۱۶۷۱۳) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی ”اللہ کی شرط اس عورت کی شرط سے پہلے ہے۔“

(۱۶۷۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَّارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَسَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيْبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ .

(۱۶۷۱۳) حضرت سعید بن مسیب اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی ”اگر چاہے تو اسے نکال سکتا ہے“

(۱۶۷۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ ، فَقَالَتْ :
شَرِطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ : شَرِطَ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِهَا .

(۱۶۷۱۵) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت شریح کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے خاوند نے میرے لئے میرے گھر میں رہنے کی شرط لگائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی شرط اس کی شرط سے پہلے ہے۔

(۱۶۷۱۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ .
(۱۶۷۱۶) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔

(۱۶۷۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
(۱۶۷۱۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے اور شرط باطل ہے۔

(۱۶۷۱۸) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرِطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا .

(۱۶۷۱۸) حضرت محمد اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی کہ اس کے لئے کوئی شرط نہیں۔

(۱۶۷۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ

فَتَشْرَطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ .

(۱۶۷۱۹) حضرت طاوس سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت کو پیام نکاح بھجوایا اور اس کے لئے بہت شرطیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کے لئے کیا حکم ہے؟ حضرت طاوس نے فرمایا کہ شرط کوئی چیز نہیں ہے۔

(۷۶) فِي الرَّجُلِ يَزُوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا

ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرائے اور اپنے لئے کسی چیز کی شرط لگائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۷۲۰) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى الْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْفِ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِالْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ .

(۱۶۷۲۰) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرائی کہ ایک ہزار دینار بیٹی کو اور ایک ہزار دینار باپ کو ملیں گے۔ ان کا مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کو دو ہزار دینار ملیں گے اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۶۷۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ .

(۱۶۷۲۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکاح کرنے والا ہے تو اسے اس کی لگائی گئی شرط ملے گی۔

(۱۶۷۲۲) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مثنى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا : أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عَدَّةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ .

(۱۶۷۲۲) حضرت عروہ اور حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق مہر یا نکاح کے عقد سے ہو وہ تو عورت کو ملے گی اور اگر کوئی ہبہ یا تحفہ وغیرہ ہو تو وہ اس کے گھر والوں کو مل سکتا ہے۔

(۱۶۷۲۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشْرَةَ آلَافٍ يَسْوَى الْمَهْرِ .

(۱۶۷۲۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرائی کہ اس کا خاندان مہر کے علاوہ دس ہزار دینار دے گا۔

(۱۶۷۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتَحْلَلَتْ بِهِ فَرَجَهَا .

(۱۶۷۲۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ سب کچھ ملے گا جس کے عوض وہ خاندان کے لئے حلال ہوئی ہے۔

(۱۶۷۲۵) عَنْ الصَّحَّاحِ بْنِ الْمَخْلَدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتَرَطَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَحِبِّهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ .

(۱۶۷۲۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت کے بھائی یا باپ کے لئے اگر کسی ہبہ وغیرہ کی شرط لگائی گئی ہے تو اگر عورت دعویٰ

کرے تو اس کی زیادہ مستحق ہے۔

(۷۷) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ اَقْسِمُ لِي

اگر کوئی عورت مرد سے کہے کہ مجھے طلاق نہ دے بلکہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو

اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۶۷۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَّرَتْ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبْرًا، أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَقْسِمُ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَّتِ السَّنَةَ بِذَلِكَ فَتَزَلَّتْ: **هُوَ** وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. (طبرانی ۳۰۹ - حاکم ۳۰۸)

(۱۶۷۳۶) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ کی بیٹی حضرت رافع بن خدیج کے نکاح میں تھیں۔ رافع بن خدیج کو ان کا ادھیڑ پن یا کوئی اور چیز بری لگی تو انہوں نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن خاتون نے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں بلکہ میرے لئے جو چاہیں حق میں سے تقسیم کر لیں۔ اس کے بعد سے یہ دستور بن گیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی (ترجمہ) اگر عورت کو اپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔ (الخ)

(۱۶۷۳۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هُوَ وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ قَالَتْ: تَزَلَّتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مَنِي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا. (بخاری ۲۳۵۰ - مسلم ۲۳۱۶)

(۱۶۷۳۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت: (ترجمہ) اگر عورت کو اپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔ (الخ) اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک طویل عرصے سے ایک آدمی کی بیوی تھی۔ وہ آدمی اس عورت کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ مجھے طلاق نہ دو اپنے پاس رکھو۔ اور میں تم سے کسی حق کا مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔

(۱۶۷۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: إِنْ شِئْتَ أَنْ أَمْسِكَ وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ طَلَّقْتُكَ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا.

(۱۶۷۳۸) حضرت ابونجاشی فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک عورت سے شادی کی اور اپنی پہلی بیوی سے کہا کہ اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق نہیں دیتا البتہ تمہیں تمہاری تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔ اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اس عورت نے

اس بات کو اختیار کیا وہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھیں طلاق نہ دیں۔

(۱۶۷۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيْرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمِسَّهَا وَلَا يُفَسِّمَ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمِسَّهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا .

(۱۶۷۲۹) حضرت ابراہیم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی صاحبزادی ایک قریشی شخص کے نکاح میں تھیں۔ اس آدمی نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ اس کے نکاح میں رہنا چاہیں تو رہیں البتہ انہیں ان کی تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ طلاق لے لیں۔ انہوں نے نکاح کے باقی رکھنے کا اختیار کیا اور طلاق لینے سے انکار کیا۔

(۱۶۷۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتَهُ ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا فَيَصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يُعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيَهَا مِنْ حَقِّهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا .

(۱۶۷۳۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا (ترجمہ) اگر عورت کو اپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔ (الخ) انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی کوئی بیوی ہو اور وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہو، لیکن وہ اس سے اس بات پر صلح کر لے کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے گی۔ اور اگر عورت اپنا حق چھوڑنے پر راضی نہ ہو تو چاہے تو اپنا حق پورا پورا لے یا اس سے طلاق لے لے۔

(۱۶۷۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَّاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : آتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي «أَمْرَةِ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا» ، فَقَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنَبَّوْا عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتِهَا ، أَوْ فَقْرِيهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ آيَاتِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ .

(۱۶۷۳۱) حضرت خالد بن عرعرا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر عورت کو اپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند اس کی بد اخلاقی، جھگڑتی اور نامناسب رویہ سے تنگ ہو اور وہ اسے چھوڑنا چاہے لیکن بیوی اس سے الگ ہونے پر راضی نہ ہو۔ اگر عورت اپنے مہر میں سے کوئی مقدار اس کے لئے چھوڑ دے تو مرد کے لئے حلال ہے اور اگر عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۷۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسْنَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ . (۱۶۷۳۲) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بہت عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنے حصے کا دن ہمیشہ کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہبہ کر دیا۔

(۱۶۷۳۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .
(۱۶۷۳۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۶۷۳۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَوَرَّى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةَ ، فَكَانَ قَسْمَتَهُنَّ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيهِنَّ سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ وَصَفِيَةَ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يَفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : ااقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا . (ابن جریر ۳۵)

(۱۶۷۳۳) حضرت ابو رزین قرآن مجید کی آیت (ترجمہ) ”ان میں سے آپ جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہے ساتھ رکھ لیں“ (الاحزاب: ۵۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو رکھنا چاہتے۔ ان کا حصہ آپ ﷺ کی ذات اور آپ کے جسم میں برابر ہوتا۔ جنہیں آپ چھوڑنا چاہتے تھے وہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت مایمونہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ ان کے لیے جو چاہتے تقسیم فرماتے۔ جب آپ نے انہیں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضور ﷺ سے فرمایا کہ آپ ہمارے لئے جو چاہیں حصہ مقرر فرمادیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔

(۷۸) الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا

اگر عورت اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۷۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَةِ دَرَاهِمٍ فَسِيلَ مَيْسِرَةً ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرَمْتُ عَلَيْهِ وَلَا أُدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الْقَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى فَسَأَلَهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَاتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعُهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَاتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : ااذْهَبِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ فَاتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : حَرَمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ : نَهَبٌ ، أَوْ تَعْتِقُ ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : اارجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ ااتَعْتَدُ مِنْهُ ؟ فَاتَيْتُهُ ، فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَأْوُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيَّ فَأَخْبَرْتَهُ ، فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتَوَى فَاتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رَزِيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلَانِ لِلنِّكَاحِ .

(۱۶۷۳۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے خاوند کی سات درہم کے بقدر مالک بن گئی۔ اس بارے میں حضرت میسرہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوگئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ

اس کے لئے کیسے حلال ہوگی؟ میں حضرت شعبی سے ملا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر بن ابی موسیٰ سے ملو اور ان سے سوال کرو۔ وہ ان دنوں وہاں قاضی تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کام کر لو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ میں حضرت شعبی کے پاس آیا اور ان سے سنا اور اذکر کیا تو وہ مسکرا دیئے۔ اور فرمایا کہ تم عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوگئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے حلال ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسے بہہ کر دے، یا آزاد کر دے یا بیچ دے۔ میں واپس حضرت شعبی کے پاس گیا میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ وہ عدت گزارے گی یا نہیں؟ میں ان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ عدت نہیں گزارے گی۔ میں حضرت شعبی کے پاس واپس آیا اور انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا کہ فتویٰ کو محفوظ کر لو۔ میں ابن معقل کے پاس آیا۔ راوی عبد السلام فرماتے ہیں کہ ان کا قول مجھے یاد نہیں رہا البتہ عمار بن رزیق نے عطاء بن سائب کی روایت سے ابن معقل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ دونوں نکاح کا اعادہ کریں گے۔

(۱۶۷۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ مَيْسِرَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ وَرَثْتُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۷۳۶) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ميسره سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو اپنے غلام مالک کی وارث بن جائے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۳۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا فَقَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْتَقَهُ سَاعَةً تَمْلِكُهُ .

(۱۶۷۳۷) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جو اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت نے مالک بنتے ہی فوراً اپنے خاوند کو آزاد کیا تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۳۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْتَةَ قَالَ .

(۱۶۷۳۸) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۷۳۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءِ اَنَّهُ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۷۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۴۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ اِنْفِ نِكَاحَهَا اِنْ اَرَادَهَا .

(۱۶۷۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ عورت پر حرام ہو جائے گی اور اگر چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

(۱۶۷۴۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ .

(۱۶۷۴۱) حضرت شعی بھی یونہی فرماتے ہیں۔

(۱۶۷۴۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتُهُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ قَدْرُ ذُبَابٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۷۴۳) حضرت طاووس سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جسے اس کے غلام خاوند کی ملکیت میں حاصل جائے اور وہ اسی وقت اسے آزاد کر دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک مکھی کے برابر بھی تاخیر ہوئی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۷۴۳) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۷۴۳) حضرت زہری فرماتے ہیں وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۴۴) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ .

(۱۶۷۴۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو اپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے۔ ان دونوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس سے شادی کرے تو مرد کے پاس تین طلاقوں کا اختیار ہوگا۔

(۱۶۷۴۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فَرَقْتَهُمَا طَلَاقًا .

(۱۶۷۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزادی کے بعد شادی کرے تو اس کے پاس تین طلاقوں کا حق ہوگا۔ اور ان کے درمیان کی فرقت طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔

(۱۶۷۴۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسِرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۷۴۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۶۷۴۷) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمَلِكُ زَوْجِهَا قَالَ : إِنْ أُعْتِقَتْهُ مَكَانَهَا فَهِيَ عَلَى نِكَاحِهَا .

(۱۶۷۴۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی مالک بنے تو اگر وہ اسے اسی وقت آزاد کر دے تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔

(۱۶۷۴۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتْ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أُعْتِقَتْهُ مَكَانَهَا فَهِيَ عَلَى نِكَاحِهَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتِقْهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

(۱۶۷۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام کی کوئی آزاد بیوی ہو اور غلام کا مالک مر جائے اور وہ بیوی اپنے خاوند کے کسی حصے کی مالک بن جائے تو اگر اس نے اپنے خاوند کو آزاد کر دیا تو ان کا پہلا نکاح باقی رہے گا اور اگر اس نے آزاد نہ کیا تو وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔

(۷۹) كَمْ يُؤَجَّلُ الْعَيْنِ؟

نامرد کو علاج کے لئے کتنی مہلت دی جائے گی؟

(۱۶۷۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتِمَسَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَعْنِي الْعَيْنِ .

(۱۶۷۴۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ پھر وہ دونوں اللہ کا فضل تلاش کریں۔

(۱۶۷۵۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّكَّيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعَيْنِ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۷۵۰) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۷۵۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّكَّيْنِ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعَيْنِ سَنَةً .

(۱۶۷۵۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دلوائی۔

(۱۶۷۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعَيْنِ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۷۵۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۷۵۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ يُؤَجَّلَ الْعَيْنِ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ .

(۱۶۷۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح کو خط میں لکھا کہ نامرد کو اس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی جب سے اس کا مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔

(۱۶۷۵۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَلَ رَجُلًا عَشْرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۶۷۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ نے اس شخص کو دس مہینے کی مہلت دی جو اپنی بیوی سے جماع کرنے کے قابل نہ تھا۔

(۱۶۷۵۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَجَلَ سَنَةٍ أَوْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۶۷۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کرنے کے قابل نہ ہو اسے علاج کے لیے ایک سال یا دس مہینے کی مہلت دی جائے گی۔

(۱۶۷۵۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ مِنْ يَوْمٍ يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ: يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةُ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ: لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمٍ يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ.

(۱۶۷۵۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامرد کو اس دن سے مہلت دی جائے گی جب سے اس کا فیصلہ سلطان کی مجلس میں پیش ہوا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے وقت تو یاد نہیں البتہ اسے اس دن سے مہلت دی جائے گی جس دن اس کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔

(۱۶۷۵۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ سَنَةً.

(۱۶۷۵۷) حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

(۱۶۷۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرُقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۶۷۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۷۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: يَسْتَقْبَلُ بِهَا مِنْ يَوْمٍ تَخَاصَمَهُ سَنَةً.

(۱۶۷۵۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس دن مقدمہ عدالت میں پیش ہوا اس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

(۱۶۷۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ هِشَامٍ ، عَنِ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ وَالْأَيْدَى يُؤَخَذُ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً.

(۱۶۷۶۰) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

(۱۶۷۶۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
(۱۶۷۶۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۶۷۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاحِهِمْ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَأَجَلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، قَالَ يَحْيَى : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَيَّ حَارِثَةَ ابْنَتِهِ .

(۱۶۷۶۲) حضرت یحییٰ بن سعید اپنے ایک شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حلیمہ معاذ القاری نے حارثہ بن نعمان انصاری کی بیٹی سے شادی کی۔ لیکن وہ ان سے جماع کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک سال کی مہلت دی۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن انصاری نے بتایا کہ جب ایک سال گزر گیا تو دونوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جدائی کرادی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حارثہ کی بیٹی کا مسئلہ حل کرادیا۔

(۱۶۷۶۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَلَ الْعَيْنِ سَنَةً .
(۱۶۷۶۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دی۔

(۱۶۷۶۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : يُؤَجَّلُ سَنَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ يَوْمٍ يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ .

(۱۶۷۶۴) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اور میرے خیال میں یہ مہلت اس وقت سے ہوگی جب اس کا مقدمہ قاضی کے پاس آیا۔

(۱۶۷۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَاتَى بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ صَبْرِيًّا فَأَجَلَهُ سَنَةً .

(۱۶۷۶۵) حضرت نسیر فرماتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک نابینا نامرد لایا گیا انہوں نے اسے علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دی۔

(۱۶۷۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ سَنَةً .

(۱۶۷۶۶) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

(۸۰) فِيهِ إِذَا خَيْرَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْهُ

اگر عورت کو نامرد سے چھٹکارے کے لئے اختیار دیا جائے تو اسے نکاح کی بقاء اور اختتام

کے بارے میں اختیار ہے

(۱۶۷۶۷) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَبِيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَخَيَّرَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْهُ .

(۱۶۷۶۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر عورت کو اختیار دیا جائے گا چاہے تو نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر دے۔

(۱۶۷۶۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ أَجَلُهُ سَنَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَهَا ، وَإِلَّا خَيْرَهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْهُ .

(۱۶۷۶۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے خط لکھا کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دو، اگر وہ جماع پر قادر ہو جائے تو ٹھیک ورنہ عورت کو اختیار دے دو، چاہے تو نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر دے۔

(۸۱) مِنْ قَالَ إِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے باقی رکھنے کو اختیار لے لیا تو اس کا خیار

ختم ہو جائے گا

(۱۶۷۶۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْتَلُ الْعَيْنُ أَجَلًا فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا خَيْرَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ .

(۱۶۷۶۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ جماع پر قادر ہو جائے تو ٹھیک ورنہ عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ اگر وہ نکاح کے باقی رکھنے کو اختیار کر لے تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۸۲) فِي امْرَأَةِ الْعَيْنِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

نامرد کی بیوی کے مہر کی کیا صورت ہوگی؟

(۱۶۷۷۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَلَ

الْعَيْنِ سَنَةً فَإِنْ آتَاهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۶۷۷۰) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دی۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ایک سال میں جماع کے قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۶۷۷۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ .

(۱۶۷۷۱) حضرت شریح اس نامرد کے بارے میں جو اپنی بیوی سے جماع پر قادر نہ ہو سکا فرماتے تھے کہ اسے آدھا مہر دینا ہوگا۔

(۱۶۷۷۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ .

(۱۶۷۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامرد پر پورا مہر لازم ہوگا۔

(۱۶۷۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ .

(۱۶۷۷۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نامرد پر پورا مہر لازم ہوگا۔

(۱۶۷۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : أَجَلُهُ عُمُرُ سَنَةٍ فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۶۷۷۴) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دینے کو کہا اور

پھر اگر وہ جماع پر قادر ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ اور عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۶۷۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۶۷۷۵) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نامرد کی عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۶۷۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۶۷۷۶) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۶۷۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ .

(۱۶۷۷۷) حضرت طاووس فرماتے ہیں نامرد کی بیوی کو آدھا مہر ملے گا۔

(۸۲) فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

اگر نامرد ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد اس پر قادر نہ رہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۷۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يَفْرُقْ بَيْنَهُمَا .

(۱۶۷۷۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے ایک مرتبہ جماع کر لیا تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔

(۱۶۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَدَّرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فِيهَا أَمْرٌ أَتَاهُ أَبَدًا .

(۱۶۷۷۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایک مرتبہ جماع پر قدرت پالے تو وہ ہمیشہ کے لئے اس کی بیوی ہے۔

(۱۶۷۸۰) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ .

(۱۶۷۸۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے تو عورت کو کلام اور خصومت کا حق نہیں۔

(۱۶۷۸۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ .

(۱۶۷۸۱) حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے تو عورت کو کلام اور خصومت کا حق نہیں۔

(۱۶۷۸۲) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ .

(۱۶۷۸۲) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے تو عورت کو کلام اور خصومت کا حق نہیں۔

(۱۶۷۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا : إِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ وَطِنَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ .

(۱۶۷۸۳) حضرت قتادہ اور حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد خاوند ایک مرتبہ وطی کر لے اور دوبارہ اس پر قدرت نہ رکھے تو اس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

(۱۶۷۸۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَطِنَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ .

(۱۶۷۸۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد خاوند ایک مرتبہ وطی کر لے اور دوبارہ اس پر قدرت نہ رکھے تو اس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

(۸۴) فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ

فاسق سے شادی کرانے کا بیان

(۱۶۷۸۵) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيُّ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَّازَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحْمَةً .

(۱۶۷۸۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی لڑکی کی شادی فاسق سے کرائی اس نے قطع رحمی کی۔

(۸۵) فِي الْأُمَّةِ تَعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ

وہ باندی جسے آزاد کر دیا جائے اور اس کا خاوند کوئی آزاد ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۷۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكرِمَةَ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ .

(۱۶۷۸۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے۔

(۱۶۷۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا .

(۱۶۷۸۷) حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۶۷۸۸) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ .

(۱۶۷۸۸) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے البتہ خاوند کے غلام ہونے کی صورت میں اختیار ہے۔

(۱۶۷۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجَهَا حُرًّا .

(۱۶۷۸۹) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے۔

(۱۶۷۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ لَهَا عَبْدٌ فَرَّ وَجَنَّهُ جَارِيَةً لَهَا بَكْرًا فَكَانَتْ تَكْرَهُهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَتْ أَنْ تَعْتِقَ الْوَالِدَةَ فَتَفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِذَا أُثْبِتَ الْعَبْدُ أَعْتَقَتِ الْوَالِدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ .

(۱۶۷۹۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ صفیہ بنت ابی عبید کا ایک غلام تھا۔ انہوں نے اس کی شادی اپنی ایک باکرہ باندی سے کرادی۔ وہ باندی اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی اور آزاد ہونا چاہتی تھی۔ صفیہ بنت ابی عبید کو اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے باندی کو آزاد کیا تو وہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہو جائے گی۔ پس انہوں نے پہلے غلام کو آزاد کر دیا اور پھر بعد میں باندی کو آزاد کیا۔

(۸۶) مِنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

جن حضرات کے نزدیک خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا

(۱۶۷۹۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرًّا . (بخاری ۶۷۵۱۔ ابوداؤد ۲۲۲۸)

(۱۶۷۹۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید لیا اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ حضور ﷺ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کے باقی رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار دیا حالانکہ ان کے خاوند آزاد تھے۔

(۱۶۷۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَخْيِيرٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ .

(۱۶۷۹۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔ خواہ اس کا خاوند قریشی ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۶۷۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا ، أَوْ عَبْدًا .

(۱۶۷۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔

(۱۶۷۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَخَيَّرَ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا ، أَوْ عَبْدًا .

(۱۶۷۹۴) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔

(۱۶۷۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .

(۱۶۷۹۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔ خواہ اس کا خاوند امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۶۷۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

(۱۶۷۹۶) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔

(۱۶۷۹۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَعَتَقَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا .

(۱۶۷۹۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی باندی کسی غلام کی بیوی ہو اور وہ باندی آزاد ہو جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک خاوند نے بیوی کو چھوا نہ ہو اس وقت تک اسے خیار ہے۔

(۱۶۷۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَيْلَ عَنِ الْأَمَةِ تَعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تَخَيَّرَ ؟ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي ، وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خَيْرَتْ .

(۱۶۷۹۸) حضرت طاؤس سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کا خاوند آزاد ہو تو کیا اسے خیار دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں البتہ اگر وہ کسی غلام کی بیوی ہو تو اسے اختیار دیا جائے گا۔

(۱۶۷۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَخَيَّرَ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا ، أَوْ عَبْدًا .

(۱۶۷۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔

(۸۷) من قَالَ إِذَا وَطِنَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا

تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا

(۱۶۸۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَّأَهَا زَوْجُهَا. (۱۶۸۰۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۶۸۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَرَّبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ. (۱۶۸۰۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۶۸۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْتِقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ وَطِنَكَ زَوْجُكَ فَلَا خِيَارَ لَكَ. (۱۶۸۰۲) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت حفصہ نے ایک باندی کو آزاد کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے خاوند نے تم سے جماع کر لیا تو تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۶۸۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ: إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا. (۱۶۸۰۳) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۶۸۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، وَنَافِعٍ قَالَا: لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَاهَا. (۱۶۸۰۴) حضرت ابولقباہ اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۶۸۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَّأَهَا زَوْجُهَا. (۱۶۸۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کر لیا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۸۸) فِيهِ إِذَا وَطِنَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

اگر عورت کو اختیار کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۸۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِنَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ

لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ: وَبَلَّغْنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۶۸۰۶) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہ تھی تو اس کا خیار باقی رہے گا۔ حضرت حسن بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۶۸۰۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَّغْنِي، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ مُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ.

(۱۶۸۰۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہ تھی تو اس کا خیار باقی رہے گا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسا کرنے والے مرد کو مارتا۔

(۱۶۸۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍ: إِنَّ أَصَابَهَا وَلَا تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

(۱۶۸۰۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہ تھی تو اس کا خیار باقی رہے گا۔ خواہ سو مرتبہ جماع کر لے۔

(۱۶۸۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ: بِنَسِّ مَا صَنَعَ، قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ: لَا.

(۱۶۸۰۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے خاوند نے اس سے فوراً جماع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بہت برا کیا۔ میں نے کہا کہ کیا اس کو آزاد خاوند کی صورت میں اختیار ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۶۸۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا وَطِنَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ.

(۱۶۸۱۰) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہ تھی تو جب اسے معلوم ہو اس کا خیار باقی رہے گا۔

(۱۶۸۱۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنِ حَمَّادٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ.

(۱۶۸۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہ تھی تو جب اسے معلوم ہو اس کا خیار باقی رہے گا۔

(۸۹) فِيهَا إِذَا وَطَّئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے

متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی نہیں رہے گا

(۱۶۸۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إِذَا وَطَّئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا .
(۱۶۸۱۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے
متعلق جانتی تھی تو یہ اس کی رضا کے قائم مقام ہے۔

(۱۶۸۱۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
(۱۶۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے
متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی نہیں رہے گا۔

(۹۰) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ الْخِيَارَ أُسْتَحْلَفُ لَهُ

اگر کوئی شخص بیوی کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ اسے خیار کا علم تھا تو کیا بیوی سے قسم لی جائے گی؟

(۱۶۸۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ أُسْتَحْلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ خَيْرَتْ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ .

(۱۶۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کے خیار استعمال کرنے سے قبل خاوند نے اس سے جماع کیا تو بیوی سے قسم لی
جائے گی کہ وہ خیار کے متعلق نہ جانتی تھی۔ پھر اگر وہ غلام کے نکاح میں تھی تو اسے اختیار دیا جائے گا۔

(۱۶۸۱۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَأَعْتَقَتْ فَعَشِيَهَا بَعْدَ
الْوَعْتِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تَخَيَّرَ وَسَأَلَتْ
حَمَادًا ، فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ .

(۱۶۸۱۵) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی آزادی کے بعد اس کے
خاوند نے اس سے جماع کیا، لیکن عورت کا کہنا یہ ہے کہ مجھے خیار کا علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت سے خیار کا علم نہ
ہونے پر قسم لی جائے گی پھر اسے اختیار دیا جائے گا۔ میں نے یہی سوال حضرت حماد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی بیوی ہے
اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

(۱۶۸۱۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، عَنْ حَمَادٍ أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ .

(۱۶۸۱۶) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس سے اس بات پر قسم لی جائے گی کہ اسے خیار کا علم نہیں تھا۔

(۹۱) فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

کیا مکاتبہ باندی ❶ کو آزادی کے بعد اختیار ہوگا؟

(۱۶۸۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو مَبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تَخَيَّرَ

(۱۶۸۱۷) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مکاتبہ باندی کو آزادی کے بعد اختیار ہوگا۔

(۱۶۸۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو مَبَارَكٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَخَيَّرَ الْمُكَاتَبَةُ

(۱۶۸۱۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ باندی کو آزادی کے بعد اختیار ہوگا۔

(۱۶۸۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَهَا رَوْجُهَا

عَلَى مُكَاتَبَتِهَا نَمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا .

(۱۶۸۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبہ باندی کی آزادی کے لئے اس کے خاندان نے اس کی مدد کی تو آزادی کے بعد

اسے اختیار نہیں ہوگا۔

(۱۶۸۲۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ : تَسْعَى وَمَعَهَا رَوْجُهَا قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا .

(۱۶۸۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ باندی کو آزادی کے بعد اختیار ہوگا خواہ اس کے خاندان نے اس کے ساتھ مکاتبہ کی

رقم ادا کرنے میں کوشش کی ہو۔

(۹۲) فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

نہاریات ❷ سے نکاح کرنے کا بیان

(۱۶۸۲۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا

بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ .

(۱۶۸۲۱) حضرت حسن اور حضرت عطاء کے نزدیک نہاریات سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۸۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى

بِهِ بَأْسًا .

❶ مکاتبہ باندی سے مراد ایسی باندی جس کا مالک اس سے ایک مخصوص رقم کی وصولی کے بعد اسے آزاد کرنے کا معاہدہ کر لے۔

❷ ”نہاریات“ سے مراد ایسی عورتیں ہیں جن کے بارے میں خاندان یہ شرط لگائے کہ وہ صرف دن کے وقت ان سے ملے گا اور ان کی تقسیم کا حصہ

سرف دن میں ہوگا۔

(۱۶۸۲۲) حضرت حسن کے نزدیک نہاریات سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۸۲۳) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۱۶۸۲۳) حضرت حماد کے نزدیک نہاریات سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۹۲) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِيهَا مَا قَسَمْتَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ فِي لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ

ایک آدمی نکاح میں یہ شرط لگائے کہ عورت کو دن یا رات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا

(۱۶۸۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتَ لَكَ مِنْ

لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ رَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرُطٌ فَاسِدٌ .

(۱۶۸۲۴) حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نکاح میں یہ شرط لگائے کہ عورت کو دن یا رات میں کوئی حصہ نہیں

ملے گا۔ اور عورت اس پر راضی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ شرط فاسد ہے۔

(۱۶۸۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِيهَا

عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إِنَّمَا الصَّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ

الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ .

(۱۶۸۲۵) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں جو نکاح میں یہ شرط لگائے کہ وہ اس کے پاس نہیں آئے گا اور اس پر صرف

معلوم مقدار ہی خرچ کرے گا، فرماتے ہیں کہ وہ صلح جس کا قرآن میں حکم ہے وہ تو ایک مرتبہ کے جماع کے بعد ہے۔ گویا ایسا کرنا

مکروہ ہے۔

(۱۶۸۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ ، عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا

كَانَتْ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ ابْتِدَاءً وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ .

(۱۶۸۲۶) حضرت یونس سے نکاح میں لگائی جانے والی شرط کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن تو اس

میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اگر وہ علانیہ ہو، جبکہ حضرت ابن سیرین ابتداء میں مکروہ خیال کرتے تھے اور اگر بعد میں لگائی جائے تو وہ

بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۶۸۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ

الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِيهَا لَهْدِهِ يَوْمًا وَلَهْدِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۱۶۸۲۷) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیویوں میں سے ایک کے

ساتھ ایک دن اور دوسری کے ساتھ دو دن مقرر کر لے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

(۹۴) فی الرجل یتزوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ إِنْ جِئَتْ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا
وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا

اگر نکاح کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلاں دن تک خاوند نے مہر دے دیا
تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا

(۱۶۸۲۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَأَشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئَتْ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
(۱۶۸۲۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر نکاح کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلاں دن تک خاوند
نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۸۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُوكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلْفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :
فَدُ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ .

(۱۶۸۲۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ عمل خلع کے حکم میں ہوگا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ نکاح جائز
ہے اور شرط باطل ہے۔

(۱۶۸۳۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بِمَهْرِهِ إِلَّا الطَّلَاقَ .
(۱۶۸۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح میں طلاق کے علاوہ لگائی جانے والی ہر شرط کو نکاح ختم کر دیتا ہے۔

(۹۵) فی الرجل یتزوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَتَصِلُ إِلَيْهِ

کسی خاص چیز کے عوض نکاح کرنے کا بیان

(۱۶۸۳۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ
أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيَمَةِ الْخَادِمِ .

(۱۶۸۳۱) حضرت عمرو بن قیس کی دادی فرماتی ہیں کہ ان کے باپ نے ایک عورت سے میری خادمہ کے عوض شادی کی۔ میں یہ
مقدمہ لے کر قاضی شریح کی عدالت میں گئی تو انہوں نے میرے لئے خادمہ کا اور اس عورت کے لئے خادمہ کی قیمت کا فیصلہ کیا۔

(۱۶۸۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتَقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ،
قَالَ : عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْأَبِ .

(۱۶۸۳۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کہ وہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہو سکا تو اس پر اس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔

(۱۶۸۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحَجَّجَهَا قَالَ هُوَ جَانِزٌ .

(۱۶۸۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ وہ اسے حج کرائے گا تو یہ جائز ہے۔

(۱۶۸۳۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنْ صَدَّقَهَا عَتَقُ أَبِيهَا فَلَمْ يُبْعَهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ .

(۱۶۸۳۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کہ وہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہو سکا تو اس پر اس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔

(۱۶۸۳۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحَجَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ .

(۱۶۸۳۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ وہ اسے حج کرائے گا لیکن اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر حج کے خرچے کا نصف لازم ہوگا۔

(۹۶) فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ الرَّجُلَ فَيُنْكَرُ مَا حَالَ الصَّدَاقِ ؟

اگر ایک آدمی دوسرے کا نکاح کرادے اور دو لہا بعد میں انکار کرے تو مہر کی کیا صورت ہوگی؟

(۱۶۸۳۶) حَدَّثَنَا ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَرَزَّوَجَهُ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخِرُ فَحَقَّقَهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۶۸۳۶) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کی طرف سے نکاح کا پیغام بھجوایا اور نکاح کرادیا، جبکہ بعد میں دو لہے نے انکار کر دیا تو عورت کا حق نکاح کرانے والے پر ثابت ہوگا اور نصف مہر دینا پڑے گا۔

(۱۶۸۳۷) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَزُوجَهُ فَرَزَّوَجَهُ فَجَاءَ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَانِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِسَيِّءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا .

(۱۶۸۳۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے باپ یا مولیٰ کو خط لکھا کہ اس کی شادی کرادے۔ انہوں نے شادی کرادی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو اس بارے میں حضرت شعبی فرماتے تھے کہ اگر خاوند نکاح کو باقی رکھے تو ٹھیک ورنہ اس نکاح کی

کوئی حیثیت نہیں۔ اور شرعی ملاقات سے پہلے کسی پر مہر بھی واجب نہیں ہوگا۔

(۱۶۸۳۸) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الْابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الْابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الْابْنَ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ .

(۱۶۸۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے باپ کا نکاح کر دیا حالانکہ باپ موجود نہیں تھا، پھر اگر باپ راضی نہ ہو تو مہر بیٹے پر لازم ہوگا اور اگر باپ نے بیٹے کا نکاح کر لیا اور بیٹا راضی نہ ہو تو مہر باپ پر لازم ہوگا۔

(۹۷) فِي الْعِزْلِ وَالرَّخْصَةِ فِيهِ

عزل اور اس کی اجازت کا بیان

(۱۶۸۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعِزُّوهُمُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

(بخاری ۵۲۰۷ - مسلم ۱۳۷)

(۱۶۸۳۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی اس کی ممانعت نہیں آئی۔

(۱۶۸۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعِزُّ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ .

(۱۶۸۴۰) حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت زید اپنی ایک باندی سے عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعِزُّ لَانَ .

(۱۶۸۴۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت سعد عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأُخْبِرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعِزُّ ، أَوْ تَعِزُّ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَمَا لَا تَغْتَسِلُ .

(۱۶۸۴۲) حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل شیبانی کا نکاح حضرت رافع بن خدیج کی بیوی سے ہوا۔ انہوں نے اسماعیل شیبانی کو بتایا کہ رافع بن خدیج عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَةَ بِنِ عَمِيرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعِزُّ فَلْيَعِزُّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعِزُّ فَلَا يَعِزُّ .

(۱۶۸۴۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو عزل کرنا چاہے کر لے اور جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔

(۱۶۸۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعِزُّ ، عَنْ سَرَّارِ بِهِ .

① عزل سے مراد جماع کے دوران انزال کے وقت آلت ناسل کو شرمگاہ سے باہر نکال کر انزال کرنا۔

(۱۶۸۴۴) حضرت یحییٰ بن عباد فرماتے ہیں کہ حضرت خباب اپنی باندیوں سے عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ابْنِ سَعْدٍ - يَعْنِي عَامِرًا - أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ .

(۱۶۸۴۵) حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ لِي الْعَزْلِ : اِخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ .

(۱۶۸۴۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عزل کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت زید اور حضرت انس بن مالک عزل

کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ .

(۱۶۸۴۷) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت سعد عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ :

نَكَحْتُ أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْبَرْتَنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرْتَنِي أُمَّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ

عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ .

(۱۶۸۴۸) حضرت عبدالرحمن بن اہل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کی ام ولد باندی سے شادی کی۔ اس نے مجھے

بتایا کہ حضرت ابویوب عزل کیا کرتے تھے۔ اور مجھے حضرت زید بن ثابت کی ام ولد باندی نے بھی بتایا کہ وہ بھی عزل کیا کرتے

تھے۔ حضرت سالم عاتشہ بنت سعد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد اپنی ام ولد باندیوں سے عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : كَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ

بِأَسَا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبِي .

(۱۶۸۴۹) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ عزل کرنے میں کوئی برائی نہ سمجھتے تھے اور حضرت زید، حضرت ابویوب

اور حضرت ابی اس کے قائل تھے۔

(۱۶۸۵۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ .

(۱۶۸۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے شاگرد عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ

مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ .

(۱۶۸۵۱) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین عزل کرتے تھے اور اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش فرماتے ﴿وَإِذَا أَخَذَ

رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ .

(۱۶۸۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُعْزَلُ عَنِّي .

(۱۶۸۵۲) حضرت ابو عمران نے ایک خاتون سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنِ الْعَزَلِ فَلَمْ يَرَهُ بِأَسَا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَيْتَهُ .

(۱۶۸۵۳) حضرت سعید عزل میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے اور فرماتے کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے چاہو تو پیاسا رکھو اور چاہو تو سیراب کرو۔

(۱۶۸۵۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَيْرَةَ : أَعَزَلُ ، عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطَشْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرَوْهُ .

(۱۶۸۵۴) حضرت مسعود بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی باندی سے عزل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے چاہو تو پیاسا رکھو اور چاہو تو سیراب کرو۔

(۱۶۸۵۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ السَّرَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، عَنِ الْعَزَلِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ .

(۱۶۸۵۵) حضرت زبیر بن سراج فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل سے عزل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل تو مجھ سے اور تجھ سے بہتر یعنی حضرت سعد نے بھی کیا ہے۔

(۱۶۸۵۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى .

(۱۶۸۵۶) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہوتا تھا لیکن ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔

(۱۶۸۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ امِّهِ ، عَنْ سُرَيْةَ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْزَلُ .

(۱۶۸۵۷) حضرت عمر کی ایک باندی روایت کرتی ہیں کہ وہ عزل کیا کرتے تھے۔

(۱۶۸۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ قَزَاعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنْ ابْتَنَى هَذِهِ الْيَتَى فِي الْخُدْرِ مِنَ الْعَزَلِ .

(۱۶۸۵۸) حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی جو جوان ہو کر پردے میں بیٹھی ہے، عزل کرنے کے باوجود پیدا ہوئی ہے۔

(۱۶۸۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ،

فَقَالَ: إِنَّ لِي خَادِمًا تَسْفِي عَلَيَّ نَاصِحًا لِي وَأَنَا أُعْزِلُ عَنْهَا ، فَبَعَاءَتْ بِي وَلَدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَانَتْ. (مسلم ۶۳ - ابن ماجه ۸۹)

(۱۶۸۵۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک خادمہ ہے، جو میرے لئے پانی بھرتی ہے۔ میں اس سے عزل کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس نے بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس جان کے دنیا میں آنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا وہ آکر رہتی ہے۔

(۱۶۸۶۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةَ لَهُ ، فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكَ أُمِّس .

(۱۶۸۶۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا کل میں نے تجھ سے عزل کیا تھا؟

(۱۶۸۶۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنِ الْأَمَةِ إِذَا حَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ .

(۱۶۸۶۱) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کو جب کبھی باندی کے حاملہ ہونے کی توقع ہوتی تو عزل کیا کرتے تھے۔

(۹۸) من كره العزل ولم يرخص فيه

جن حضرات کے نزدیک عزل کی اجازت نہیں

(۱۶۸۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا يَكْرَهُانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ .

(۱۶۸۶۲) حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما عزل کو مکروہ قرار دیتے تھے اور اس کے بعد غسل کے وجوب کے قائل تھے۔

(۱۶۸۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّةَ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ ، مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ .

(۱۶۸۶۳) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کچھ مہاجرین حضرات عزل کو مکروہ قرار دیتے تھے ان میں دوسروں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

(۱۶۸۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ .

(۱۶۸۶۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزل زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے۔

(۱۶۸۶۵) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ بَنِيهِ ، فَقَالَ : مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ ، لَعَلَّكَ تَعَزَّلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَكَ .

(۱۶۸۶۵) حضرت میمون بن مهران کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کے لئے ایک باندی خریدی۔ کچھ عرصہ بعد فرمایا کہ یہ حاملہ کیوں نہیں ہوئی! شاید تم اس سے عزل کرتے ہو؟ اگر مجھے پتہ چلا تو میں تمہیں ماروں گا۔

(۱۶۸۶۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى لَأَنَّ مُسْلِمًا يَصْنَعُهُ .

(۱۶۸۶۶) حضرت ابوامامہ عزل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں رکھتا۔

(۱۶۸۶۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ ، عَنْ سَالِمِ فِي الْعَزْلِ ، قَالَ : هِيَ الْمَوْوُودَةُ الْخَفِيَّةُ .

(۱۶۸۶۷) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عزل زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے۔

(۱۶۸۶۸) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مِغْيِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ .

(۱۶۸۶۸) حضرت اسود عزل کو کمرہ قرار دیتے تھے۔

(۱۶۸۶۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُغْيِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ ،

عَنْ جَرِيرِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِقَيْنَةٍ ، وَأَنَا أُعَزَّلُ عَنْهَا ، أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَهَا

مَا قُدِّرَ . (طبرانی ۲۳۷۰ - مسند ۱۶۱۱)

(۱۶۸۶۹) حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ

میں مشرکین سے صرف ایک باندی ہی بچا کے لاسکا ہوں اور میں اس سے عزل کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے تقدیر

یہاں لائی ہے۔

(۱۶۸۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَصَبْنَا سَيِّئَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

اسْتَمْتَعْنَا مِنَ النِّسَاءِ وَعَزَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ : ابْنِي وَقَفْتُ عَلَى جَارِيَةٍ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنَقَاقَ قَالَ : قَمَرٌ بِي

رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي أُبِيعُهَا ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ تَصِيَّبُهَا ؟

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَعَلَّكَ تَبِيعُهَا وَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كُنْتُ أُعَزَّلُ عَنْهَا ، قَالَ : تِلْكَ

الْمَوْوُودَةُ الصُّغْرَى ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ

يَهُودٌ كَذَبَتْ يَهُودٌ . (نسائی ۹۰۸۴ - طحاوی ۳۲)

(۱۶۸۷۰) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو مصطلق کی عورتیں قیدی بن کر ہمارے ہاتھ لگیں۔ ہم ان سے جماع کرتے تھے اور عزل کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں ایک باندی کے ساتھ بنوقینقاع کے بازار میں تھا کہ ایک یہودی میرے پاس سے گزرا اور بولا اے ابوسعید یہ باندی کیسی! میں نے کہا میری باندی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے جماع کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تم اسے بیچنا چاہتے ہو حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تمہارا نطفہ موجود ہو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے عزل کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے۔ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہود نے جھوٹ بولا یہود نے جھوٹ بولا۔

(۱۶۸۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَأَبُو صَرْمَةَ الْمَازِنِيُّ فَوَجَدْنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ ، وَأَبُو أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (بخاری ۴۱۳۸- مسلم ۱۲۷)

(۱۶۸۷۱) حضرت عبداللہ بن محیریز کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو صرمہ مازنی حاضر ہوئے تو ہم نے حضرت ابوسعید خدری کو وہی بات بیان کرتے سنا جو ابوسلمہ اور ابوامامہ بیان کر رہے تھے۔ کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ یہود نے جھوٹ بولا اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے۔

(۹۹) مَنْ قَالَ يُعْزَلُ عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ

جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزاد عورت سے

اجازت لی جائے گی

(۱۶۸۷۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَا : يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ . (۱۶۸۷۲) حضرت ابراہیم تمیمی اور حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزاد عورت سے اجازت لی جائے گی۔

(۱۶۸۷۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۸۷۳) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۸۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ .

(۱۶۸۷۴) حضرت محمد سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۸۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا يُعْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا .

- (۱۶۸۷۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کی اجازت کے بغیر اس سے عزل نہیں کیا جاسکتا۔
- (۱۶۸۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبُرَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ .
- (۱۶۸۷۷) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت سے اجازت لی جائے گی اور باندی سے بلا اجازت عزل کیا جائے گا۔
- (۱۶۸۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا يُعْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا .
- (۱۶۸۷۸) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کی اجازت کے بغیر اس سے عزل نہیں کیا جاسکتا۔
- (۱۶۸۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَعَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ .
- (۱۶۸۷۹) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آزاد عورت سے اجازت لی جائے گی جبکہ باندی سے اجازت نہیں لی جائے گی۔
- (۱۶۸۷۹) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يُعْزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمَرُهَا .
- (۱۶۸۷۹) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا باندی سے عزل کیا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ ہاں، البتہ آزاد عورت سے اجازت طلب کی جائے گی۔
- (۱۶۸۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا .
- (۱۶۸۸۰) حضرت طاووس باندی سے عزل کی اجازت دیتے تھے جبکہ آزاد کے بارے میں کچھ نہیں فرماتے تھے۔
- (۱۰۰) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْعُذْرَاءَ أَيَسْتَبْرِئُهَا
- باندی کو خریدنے کے بعد حمل سے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے
- (۱۶۸۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الْعُذْرَاءَ قَالَ : لَا يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا .
- (۱۶۸۸۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی خریدے تو اس کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کر لینے تک اس کے قریب نہ جائے۔
- (۱۶۸۸۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عُذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا .
- (۱۶۸۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باندی خریدے تو اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے۔

(۱۶۸۸۲) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًا .

(۱۶۸۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کر لے خواہ وہ باکرہ ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۶۸۸۴) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .

(۱۶۸۸۳) حضرت عکرمہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۶۸۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبِيهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ لَا تَحِيضُ فَبِحُمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا .

(۱۶۸۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو شخص باندی خریدے تو دو حیضوں تک اس کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کر لے اور اگر اسے حیض نہ آتے ہوں تو پینتالیس دن تک انتظار کرے۔

(۱۶۸۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ اشْتَرَى أُمَّةً عَذْرَاءَ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا .

(۱۶۸۸۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو پردہ نشین باندی خریدے اس کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں۔

(۱۰۱) مَنْ كَانَ يَقُولُ تَسْتَبْرَأُ الْأُمَّةَ بِحَيْضَةٍ

جن حضرات کے نزدیک ایک حیض سے باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین ہو جائے گا

(۱۶۸۸۷) حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ حَتَّى انْقِضَاءِ أَجَلِهِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حَتَّى انْقِضَاءِ أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الْأُمَّةَ بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةَ ، فَكَانَ يَقُولُ : حَيْضَتَانِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَنَا أَرِيدُكَ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ .

(۱۶۸۸۷) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اپنی وفات تک اس بات کے قائل تھے کہ ایک حیض سے باندی کے حاملہ نہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دو حیض تک انتظار کے قائل تھے۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور صاحب بتاتا ہوں اور وہ حضرت عبادہ بن صامت ہیں۔

(۱۶۸۸۸) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تَسْتَبْرَأُ الْأُمَّةَ بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۸۸) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل سے محفوظ ہونے کا ایک حیض سے پتہ چل جائے گا۔

(۱۶۸۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ وَقَتْمٍ وَنَاجِيَةَ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَحِيضَ .

(۱۶۸۸۹) حضرت صلہ، قہم اور ناجیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی باندی خریدی تو وہ اسے حیض آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

(۱۶۸۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوَطَّأُ قَالَ : إِذَا بِيَعَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جس سے اس کے مالک نے وطی کی ہو، کہ جب اسے بیچا جائے یا آزاد کیا جائے تو وہ ایک حیض کے ذریعے اپنے رحم کی پاکی کا یقین کرے گا۔

(۱۶۸۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتَهُ ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرَأُ رَحْمَهَا بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۱) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا اگر آدمی نے کسی ایسی باندی کو خریدا جس کا کوئی خاوند ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک حیض سے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کرے گا۔

(۱۶۸۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَفْرُقُهَا حَتَّى يَسْتَبْرَأَ نَهَا بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص باندی خریدے وہ اس وقت تک اس کے پاس نہ جائے جب تک ایک حیض کے ذریعے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کر لے۔

(۱۶۸۹۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۳) حضرت ابراہیم بھی ایک حیض کو کافی سمجھتے تھے۔

(۱۶۸۹۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حیض تک رحم کے خالی ہونے کا یقین کرے گا۔

(۱۶۸۹۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتِ الْأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرَأُ نَهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةً .

(۱۶۸۹۵) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب باندی خریدی گئی تو ایک حیض تک اس کے پاک ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

(۱۶۸۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا : تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۶) حضرت عطاء اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل سے خالی ہونے کا یقین ایک حیض تک کیا جائے گا۔

(۱۶۸۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبْرَأْ نَهَا بِحَيْضَةٍ .

(۱۶۸۹۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باندی خریدے وہ ایک حیض تک اس کے حمل سے خالی ہونے کا انتظار کرے۔

(۱۰۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَائِضٌ

اگر خریدی ہوئی باندی حائضہ ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۸۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَتْ بِهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.
(۱۶۸۹۸) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر حائضہ باندی کو خریدتا تو مزید ایک حیض تک اس کے حمل سے خالی ہونے کا انتظار کرے۔

(۱۶۸۹۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.
(۱۶۸۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو اسی حیض کو کافی سمجھ سکتا ہے۔

(۱۰۳) فِيهَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَيْسَبَرِئَهَا

اگر باندی کو کسی عورت سے خریدتا تو کیا حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟

(۱۶۹۰۰) حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ فَلَيْسَتْ بِهَا بِحَيْضَةٍ.
(۱۶۹۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو کسی عورت سے خریدتا تب بھی اس کے حیض کے ذریعے حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۱) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.
(۱۶۹۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو کسی عورت سے خریدتا تب بھی حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

(۱۰۴) اشترها ولم تحض

اگر باندی کو خریدتا اور وہ حائضہ نہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۹۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِءُ الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ: كَانَا لَا يَرِيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَّبِعُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۲) حضرت ابو قلابہ اور حضرت ابن سیرین اس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جو خریدی جانے کے بعد حائضہ نہ ہو کہ حمل سے خالی ہونے کے لئے کم از کم تین مہینے تک انتظار کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین مہینے تک اس کے حمل سے خالی ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا: تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَلثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۳) حضرت عطاء اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر ایک حیض سے اس کا حمل سے خالی ہونا معلوم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ تین حیض تک انتظار کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۶) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔

(۱۶۹۰۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
(۱۶۹۰۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔

(۱۰۵) فِي الْوَصِيْفَةِ مَنْ قَالَ تَسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ

وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو اس کا استبراء جن حضرات کے نزدیک ڈیڑھ مہینہ ہوگا

(۱۶۹۰۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِيضْ: خَمْسَةَ وَأَرْبَعُونَ.
(۱۶۹۰۸) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

(۱۶۹۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
(۱۶۹۰۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۱۶۹۰۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۱۶۹۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
(۱۶۹۱۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۱۶۹۱۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۱۶۹۱۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ النَّعْمَانِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ قَالَا: تَسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِيضْ بِخَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
(۱۶۹۱۱) حضرت قتادہ اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

(۱۶۹۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يَسْتَبْرَأُ بِخَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
(۱۶۹۱۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

(۱۶۹۱۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

(۱۶۹۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
(۱۶۹۱۳) حضرت ابن نمیر، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يومًا.

(۱۶۹۱۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء چالیس دن ہے۔

(۱۶۹۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : شَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۶۹۱۳) حضرت ابن مسیب اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس باندی کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۱۰۶) مَنْ قَالَ تَسْتَبِرُ الْأُمَّةَ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

جن حضرات کے نزدیک قابل حیض باندی کا استبراء دو حیض ہے

(۱۶۹۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَبِرُ الْأُمَّةَ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ .

(۱۶۹۱۵) حضرت ابن مسیب اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قابل حیض باندی کا استبراء دو حیض ہے۔

(۱۶۹۱۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَضَعَتْ عِنْدِي أُمَّةٌ تَسْتَبِرُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبِرُ نَهَا بِحَيْضَتَيْنِ .

(۱۶۹۱۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی باندی لائی گئی جس کے استبراء کو دیکھا جا رہا تھا کہ ایک حیض آنے کے بعد پھر اس کا حمل ظاہر ہو گیا، اس کے بعد وہ دو حیضوں کے ذریعہ استبراء کرنے لگی۔

(۱۰۷) فِي الرَّجُلِ يَسْتَبِرُ الْأُمَّةَ يُصِيبُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ لَا؟

استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے تلذذ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱۶۹۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ سَلَّ يُونُسُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُمَّةَ فَيَسْتَبِرُ نَهَا ، يُصِيبُ مِنْهَا الْقَبْلَةَ وَالْمُبَاشِرَةَ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبِرَ نَهَا ، وَيَذْكُرُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقَبْلَةِ بَأْسًا .

(۱۶۹۱۷) حضرت یونس سے سوال کیا گیا کہ استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے تلذذ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن سیرین استبراء کے دوران ہر طرح کے تلذذ کو مکروہ خیال فرماتے تھے جبکہ حضرت حسن بوسہ لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۱۶۹۱۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِرَ نَهَا .

(۱۶۹۱۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی بہت چھوٹی باندی خریدی تو استبراء سے پہلے اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۹۱۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلَهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئُهَا .

(۱۶۹۱۹) حضرت ایسا بن معاویہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بہت چھوٹی باندی خریدی جس عمر کی باندیوں سے جماع نہیں کیا جاتا تو مالک استبراء کے بغیر اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۶۹۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْبَلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا .

(۱۶۹۲۰) حضرت قتادہ نے بوسہ لینے تک استبراء کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۶۹۲۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ : وَقَعْتُ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةً يَوْمَ جُلُولَاءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيْقَ فِضَّةٍ قَالَ : فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يَقْبَلُهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .

(۱۶۹۲۱) حضرت ایوب نخعی فرماتے ہیں کہ جلولاء کی جنگ میں ایک باندی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حصہ میں آئی اس کی گردن چاندی کی صراحی جیسی تھی۔ انہوں نے اس کا بوسہ لیا۔

(۱۰۸) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا

آقا کو چاہئے کہ باندی کو بیچنے سے پہلے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے

(۱۶۹۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَأَنَّ يَفْعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتَ تَفْعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ .

(۱۶۹۲۲) حضرت عبید اللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک ایسی باندی کو بیچا جس سے وہ جماع کیا کرتے تھے۔ اور اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کیا۔ جس شخص نے اسے خرید اس کے پاس حمل ظاہر ہو گیا۔ تو وہ مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ کیا تم اس سے جماع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر اسے بیچ دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا اور انہوں نے بچے کو دیکھ کر

بچان کے حوالے کر دیا۔

(۱۶۹۲۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبِرُّ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۶۹۲۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب باندی کو خریدے اور جب باندی کو بیچے استبراء کے لئے ایک مہینہ انتظار کرے۔

(۱۶۹۲۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اشْتَرَاهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَسْتَبِرْ نَهَا أَيضًا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۶۹۲۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسی عورت خریدی جسے حیض نہیں آتا تو اس کا استبراء تین ماہ تک ہوگا پھر اس کے جماع کے بعد اگر اسے بیچنا چاہے تو پھر تین ماہ تک استبراء کا انتظار کرے۔

(۱۶۹۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَسْتَبِرْ نَهَا.

(۱۶۹۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو باندی کو بیچنا چاہے وہ استبراء کرے۔

(۱۶۹۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوَطَّأُ : إِذَا بَيْعَتْ ، أَوْ وَهَبَتْ ، أَوْ أَعْتَقَتْ فَلْيَسْتَبِرْ بِحَيْضَةٍ.

(۱۶۹۲۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس باندی سے وطی کی گئی پھر اسے بیچ دیا گیا، یا تحفہ میں دے دیا گیا یا آزاد کر دیا گیا تو ایک حیض تک حمل کے نہ ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

(۱۰۹) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾

قرآن مجید کی آیت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں“ کا بیان

(۱۶۹۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا آتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قَلْبِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلَّتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ . (بخاری ۴۵۲۸-۱۰۵۸)

(۱۶۹۲۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جب آدمی عورت کے پیچھے کھڑا ہو کر آگے جماع کرے تو بچہ بھیگا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں“ نازل ہوئی۔

(۱۶۹۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْرِزَ فَلْيَعْرِزْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْرِزَ فَلَا يَعْرِزْ.

(۱۶۹۲۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو عزل کرنا چاہے کر لے اور جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔

(۱۶۹۲۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا .

(۱۶۹۲۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح چاہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے البتہ لواطت نہیں کر سکتا۔

(۱۶۹۳۰) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَأْتِيهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً .

(۱۶۹۳۰) حضرت ابوصالح قرآن مجید کی آیت: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو لیٹ کر اگر چاہے تو پہلو کے بل اور اگر چاہے تو گھٹنوں کے بل اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۶۹۳۱) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزُّبُرْقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ وَلَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ .

(۱۶۹۳۱) حضرت ابورزین قرآن مجید کی آیت: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہر کی طرف سے آؤ اور حیض کی طرف سے نہ آؤ۔

(۱۶۹۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ لَبِيْطٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ فِي قَوْلِهِ : (نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَالَ : طَهْرًا غَيْرَ حَيْضٍ .

(۱۶۹۳۲) حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہر کی طرف سے آؤ اور حیض کی طرف سے نہ آؤ۔

(۱۶۹۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَالَ : طَهْرًا بِيْطْنٍ كَيْفَ شِئْتَ إِلَّا فِي دُبُرٍ ، أَوْ مَحِيضٍ .

(۱۶۹۳۳) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ برادر حیض کے علاوہ جس طرح چاہو آؤ۔

(۱۶۹۳۴) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجْبُونَهُنَّ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ

لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِرَوِّجِهَا : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحَيْتُ أَنْ
نَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا : ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صَمَامًا وَاحِدًا .

(ترمذی ۲۹۷۹۔ احمد ۶/۳۱۰)

(۱۶۹۳۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں سے شادیاں کیں۔ مہاجر
لوگ عورتوں کو گھنٹوں کے بل بٹھا کر ان کے سرزمین پر رکھ کر جماع کرتے تھے۔ جبکہ انصاریا نہیں کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت
نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس بارے میں حضور ﷺ سے سوال کیا جائے۔ وہ عورت تو سوال کرنے سے شرمائی میں نے سوال کیا تو
آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی: ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں
ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ پھر فرمایا کہ آمد کا سوراخ ایک ہی ہے۔

(۱۶۹۳۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَرْءَةٍ الْهَمْدَانِيَّةِ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لَقِيَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ :
تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَأَيْتُهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرَّةُ الْإِبْرَآكِ قَالَ : فَذَكَّرُوا ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فَرَخَّصَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وَأَنَّى
شَاؤُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهِنَّ .

(۱۶۹۳۵) حضرت مرہ ہمدانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان سے ملا اور اس سے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے پیچھے
سے ان سے جماع کرتے ہو؟ گویا اس نے اس انداز کو ناپسند کیا کہ آدمی پیچھے کھڑا ہو کر بیوی کی شرمگاہ میں دخول کرے۔ اس موقع پر
قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم
اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت دی کہ اپنی بیویوں کی شرمگاہ میں جیسے چاہیں
جماع کر سکتے ہیں خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے۔

(۱۶۹۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ حُصَيْنِ ، عَنْ مَرْءَةٍ : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ : كَأَنِّي الْيَهُودُ
يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِبَائِهِمُ النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِئْتُمْ .

(۱۶۹۳۶) حضرت مرہ قرآن مجید کی آیت ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری
کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں یہود مسلمانوں سے یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ وہ
پیچھے کھڑے ہو کر عورتوں سے جماع کرتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ یعنی شرمگاہوں میں جس طرح
چاہو جماع کرو۔

(۱۶۹۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ: يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَّبْرِ

(۱۶۹۳۷) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لواطت نہ کرے اس کے علاوہ جیسے چاہے بیوی سے مل سکتا ہے۔

(۱۶۹۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ عِمْسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ.

(۱۶۹۳۸) حضرت سعید بن مسیب قرآن مجید کی آیت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو عزل کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔

(۱۶۹۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَأْلُونَ مَا شَدَدُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ وَجْهِهِ وَاحِدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

(۱۶۹۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے لئے بہت سختیاں ہیں کہ تم اپنی بیوی سے صرف ایک رخ سے جماع کر سکتے ہو، اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“

(۱۶۹۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مِنْ قَبْلِ الْفُرَجِ.

(۱۶۹۴۰) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی شرمگاہ کی طرف سے۔

(۱۶۹۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ كَثِيرِ الرَّمَاحِ، عَنْ أَبِي ذَرَّاعٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ قَوْلِهِ: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَالَ: إِنْ شِئْتَ عَزَلْ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرُ عَزَلٍ.

(۱۶۹۴۱) حضرت ابو ذر زاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قرآن مجید کی آیت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو عزل کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔

(۱۶۹۴۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

قَالَ: أَتَوَّ النَّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ.

(۱۶۹۳۲) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿يَسْأَلُكُمْ حُرَّتُكُمْ لَكُمْ فَاَتُوا حُرَّتَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی شرمگاہ میں جس طرح چاہو جماع کرو۔

(۱۱۰) فی قوله ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے

یوں ملو جیسے ملنے کا حکم دیا ہے“

(۱۶۹۴۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَنْ تَعْتَزِلُوا .

(۱۶۹۴۳) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملو جیسے ملنے کا اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بیویوں سے دور رہنے کو کہیں تو دور رہو۔ یعنی حالت حیض میں۔

(۱۶۹۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالُوا: فِي الْفُرُوجِ .

(۱۶۹۴۴) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرمگاہوں میں جماع کرو۔

(۱۶۹۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ .

(۱۶۹۴۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیض میں ان سے دور رہو۔

(۱۶۹۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّرْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ .

(۱۶۹۴۶) حضرت ابن حنفیہ قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شادی کر کے اور حلال طریقے سے جماع کرو۔

(۱۶۹۴۷) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ : أَمْرُوا بِأَعْتِزَالِ النَّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ نَهَوْنَا عَنْهُنَّ فِي

مَحِيضَهُنَّ.

(۱۶۹۴۷) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ان سے دور رہو۔

(۱۶۹۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ : ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ : مِنْ قَبْلِ الطُّهْرِ .

(۱۶۹۴۸) حضرت ابوزین قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (ترجمہ) ”تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کو اللہ نے حکم دیا ہے“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہر کی حالت میں جماع کرو۔

(۱۱۱) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

قرآن مجید کی آیت: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

”اگر تم چاہو بھی تو بیویوں کے درمیان عدل کی طاقت نہ رکھو گے“

(۱۶۹۴۹) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فِي عَائِشَةَ .

(۱۶۹۴۹) حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ”اگر تم چاہو بھی تو بیویوں کے درمیان عدل کی طاقت نہ رکھو گے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۶۹۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ .

(۱۶۹۵۰) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ”اگر تم چاہو بھی تو بیویوں کے درمیان عدل کی طاقت نہ رکھو گے“ سے مراد محبت اور جماع ہے۔

(۱۶۹۵۱) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْحُبِّ ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ قَالَ : فِي الْغَشْيَانِ ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ : لَا أَيْمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ .

(۱۶۹۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ محبت کے بارے میں اور ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ جماع کے بارے میں نازل ہوئیں۔ کہ وہ عورت نہ تو کنواری ہو اور نہ شادی شدہ۔

(۱۶۹۵۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَرِيدُ السَّحَوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ : لَا مُطْلَقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلِ .

(۱۶۹۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت نہ تو طلاق یافتہ رہے اور نہ ہی خاوند والی رہے۔

(۱۱۲) مَنْ قَالَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السُّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا

(۱۶۹۵۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَغْلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا ، أَوْ كَشَفُوا حِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۵۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۵۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ : وَخَلَا بِهَا . (۱۶۹۵۳) ایک اور سند سے کچھ اضافے کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

(۱۶۹۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۵۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ حَيَّانِ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ . (۱۶۹۵۶) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۶۹۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۶۹۵۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔ اور عورت پر عدت بھی واجب ہوگی۔

(۱۶۹۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرْوَانَ إِلَى زَيْدٍ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَمَا مَلَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يَتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ ، أَوْ بَوْلَدٍ أَكُنْتُ تَقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ .

(۱۶۹۵۸) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ دو پہر کو کچھ وقت گزارا۔

مردان نے حضرت زید سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لئے پورا مہر ہوگا۔ مردان نے کہا کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں متہم کیا جائے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہو جائے یا بچے کو جنم دے تو کیا آپ اس پر

حقاً تم کریں گے؟

(۱۶۹۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْحَى السُّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۵۹) حضرت عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَضَى الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْحَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجِبَتِ الْعِدَّةُ .

(۱۶۹۶۰) حضرت زراره بن اوفی فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا فیصلہ تھا کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔ اور اس پر عدت واجب ہوگی۔

(۱۶۹۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَرْحِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۶۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پردے ڈال دیئے گئے تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرْحَى سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۶۲) حضرت نافع بن جبیر بن مطعم ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْحَى سِتْرًا أَوْ خَلَى فَلَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۶۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا اور خلوت ہوئی تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا : إِذَا أَرْحَى سِتْرًا ، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۶۹۶۳) حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے پردہ ڈال دیا یا خلوت اختیار کر لی تو مہر واجب ہو گیا اور عدت واجب ہوگی۔

(۱۶۹۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ حِيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا نَمَّ

طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۶۹۶۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آدمی نے جب عورت کی شرمگاہ کو دیکھا اور پھر اسے طلاق دے دی تو مرد پر مہر واجب اور عورت پر عدت واجب ہوگی۔

(۱۶۹۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْجِيَتِ الشُّرُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

(۱۶۹۶۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

(۱۶۹۶۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَطْلَعَتْ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۶۹۶۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب خاوند نے بیوی کی ان جگہوں کو دیکھ لیا جنہیں دیکھنا کسی اور کے لئے حلال نہیں تو مہر اور عدت واجب ہو گئے۔

(۱۶۹۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرَ الصَّدَاقَ كَامِلًا .

(۱۶۹۶۸) حضرت عبدالرحمن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے راستے میں اپنی بیوی کو برہنہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے پورے مہر کا فیصلہ فرمایا۔

(۱۱۳) مِنْ قَالَ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ

جن حضرات کے نزدیک خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا

(۱۶۹۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْهَا .

(۱۶۹۶۹) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا۔ خواہ خاوند اس کی دونوں گونوں کے درمیان بیٹھ جائے۔

(۱۶۹۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا .

(۱۶۹۷۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے دخول سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو اسے آدھا مہر ملے گا۔ خواہ اس سے خلوت اختیار کی ہو۔

(۱۶۹۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۶۹۷۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا۔

(۱۶۹۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثْتُ عِنْدِي ثَمَانَ بَيْنَيْنِ ثُمَّ طَلَقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۶۹۷۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت شریح سے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، وہ میرے پاس آٹھ سال تک رہی پھر میں نے اس سے شرعی ملاقات کے بغیر اسے طلاق دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو نصف مہر ملے گا۔

(۱۶۹۷۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۶۹۷۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا۔

(۱۱۴) فِي امْرَأَةِ الْمُقْقُودِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَزُوجَ

جس عورت کا خاوند گم ہو جائے، جن حضرات کے نزدیک وہ شادی نہیں کر سکتی

(۱۶۹۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ مَنصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَزُوجْ حَتَّى يَقْبَلَ أَوْ أَنْ يَمُوتَ .

(۱۶۹۷۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ واپس آجائے یا مر جائے۔

(۱۶۹۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَزُوجَ حَتَّى تَبِينَ لَهَا مَوْتَهُ .

(۱۶۹۷۵) حضرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے وہ عورت شادی نہیں کر سکتی۔

(۱۶۹۷۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقَدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يُلْفَهَا إِنَّهُ مَاتَ .

(۱۶۹۷۶) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند گم ہو جائے یا اسے دشمن پکڑ لیں فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور عورتوں کو ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ وہ اس وقت اس کی بیوی رہے گی یہاں تک کہ اس کا خاوند واپس آجائے یا مر جائے۔

(۱۶۹۷۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَزُوجُ امْرَأَةَ الْمُقْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ ، أَوْ يَمُوتَ .

(۱۶۹۷۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ واپس آجائے یا مر جائے۔

(۱۶۹۷۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانَ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبَّ

زَوْجَهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بَيِّنَاتٌ وَلَا حَيَاةٍ قَالَ: تَرَبَّصْ حَتَّى تَعْلَمَ حَتَّى هُوَ أُمَّ مَيِّتٌ.

(۱۶۹۷۸) حضرت عمرو بن ہانی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا خاوند ایک لمبے عرصے سے غائب ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت انتظار کرے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔

(۱۶۹۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَا تَزُوجُ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا بَيِّنَاتٌ مَوْتِ زَوْجِهَا. (۱۶۹۷۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اسے خاوند کی موت کا یقین ہو جائے۔

(۱۶۹۸۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَا: لَا تَزُوجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ.

(۱۶۹۸۰) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اسے اس کی خبر مل جائے۔

(۱۶۹۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَثَلُهُ. (۱۶۹۸۱) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۱۵) وَمَنْ قَالَ تَعْتَدُ وَتَزُوجُ وَلَا تَرَبَّصُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ شوہر کے گم ہو جانے کی صورت میں وہ عدت گزار کر نکاح

کر سکتی ہے انتظار نہیں کرے گی

(۱۶۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصْ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۶۹۸۲) حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ عورت شوہر کے گم ہو جانے کی صورت میں چار سال انتظار کرے گی اور چار مہینے دس دن عدت گزارے گی۔

(۱۶۹۸۳) حَدَّثَنَا عُندَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِي عِرْقَةِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصْ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَدْعَى وَلِيِّهِ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۶۹۸۳) حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ عورت چار سال انتظار کرے گی پھر آدمی کے

ولی کو بلایا جائے گا اور وہ عورت کو طلاق دے گا پھر وہ چار مہینے دس دن عدت گزارے گی۔

(۱۶۹۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي الْفُقَيْدِ بَيْنَ الصَّقِينِ قَالَ : تَعْتَدُ امْرَأَتُهُ سَنَةً .

(۱۶۹۸۳) حضرت سعید بن مسیب گم ہو جانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی ایک سال عدت گزارے گی۔

(۱۶۹۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجُنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتْ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبِّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خَيْرَ بَيْنِ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ .

(۱۶۹۸۵) حضرت یحییٰ بن جعدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو جن اٹھا کر لے گئے۔ اس کی بیوی حضرت عمرؓ کے پاس آئی اور ساری صورت حال بتائی تو حضرت عمرؓ نے اسے حکم دیا کہ چار سال انتظار کرے۔ چار سال بعد خاوند کے ولی کو حکم دیا کہ وہ عورت کو طلاق دے دے۔ پھر عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا۔ جب عدت پوری ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے اور اگر اس کا خاوند واپس آجائے تو مرد کو بیوی اور مہر میں سے ایک چیز کا اختیار دیا جائے گا۔

(۱۶۹۸۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي الْفُقَيْدِ بَيْنَ الصَّقِينِ : تَرَبِّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً .

(۱۶۹۸۶) حضرت سعید بن مسیب گم ہو جانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی ایک سال عدت گزارے گی۔

(۱۱۶) فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ

گم شدہ شخص واپس آئے اور اس کی بیوی شادی کر چکی ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۶۹۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ خَيْرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَأَفَهُ إِلَيْهَا .

(۱۶۹۸۷) حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو گم ہو گیا تھا اور اس کی بیوی نے شادی کر لی تھی۔ اختیار دیا کہ چاہے تو بیوی واپس لے لے یا وہ مہر واپس لے لے جو اس نے عورت کو دیا تھا۔

(۱۶۹۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خَيْرَ بَيْنِ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ .

(۱۶۹۸۸) حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ جب عورت کا خاوند واپس آئے تو اسے بیوی اور دیئے گئے مہر کے درمیان اختیار ہوگا۔

(۱۶۹۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سَيْلَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَبَّغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ فَإِنْ اخْتَارَ

الصَّدَاقُ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ قُرْجِهَا وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ ثُمَّ تَرُدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .

(۱۶۹۸۹) حضرت شعیبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو غائب ہو گیا اور اس کی بیوی کو اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو اس نے عدت گزار کر شادی کر لی۔ پھر پہلا خاوند آیا تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پہلے خاوند کو مہر اور عورت کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ اگر وہ مہر اختیار کر لے تو عورت دوسرے خاوند کے پاس رہے گی اور اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو اختیار کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت کو دوسرے خاوند کی طرف سے مہر ملے گا اور دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے گی، پھر وہ تین حیض عدت گزارے گی اور پہلے خاوند کو واپس کر دی جائے گی۔

(۱۶۹۹۰) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُبُعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أُصْدَقَهَا وَكَانَتْ امْرَأَتُكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمَرْأَةُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ وَلَهَا مَا أُصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قُرْجِهَا قَالَ : فَأَوَّاكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى تُوْذَنَ .

(۱۶۹۹۰) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت کو اس کے خاوند کے انتقال کر جانے کی خبر ملی اور اس نے شادی کر لی تو بعد میں اس کے زندہ ہونے کا خط آیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اپنی بیوی سے دور رہے۔ پھر اگر چاہے تو مہر واپس لے لے اور عورت اپنی حالت پر باقی رہے گی اور اگر وہ عورت کو اختیار کر لے تو عدت گزارنے کے بعد وہ اسی کی بیوی ہوگی۔ البتہ دوسرے خاوند کی طرف سے اسے مہر ضرور ملے گا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں اس عورت کی مواکلت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں البتہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس مت جانا۔

(۱۶۹۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ سُهَيْبَةَ ابْنَةِ عُمَيْرِ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُبُعَى إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قُنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى عُمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَأَنَا عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَانُ أَنْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي الْفَتْنِ وَمِنَ الْآخِرِ الْفَتْنِ .

(۱۶۹۹۱) حضرت سہیبہ بنت عمیر شیبانیہ فرماتی ہیں کہ مجھے قنڈابیل میں اپنے خاوند کے انتقال کی خبر ملی۔ میں نے بعد میں عباس بن طریف جو بنو قیس کے بھائی تھے شادی کر لی۔ بعد میں میرے پہلے خاوند بھی واپس آ گئے۔ ہم مسئلہ پوچھے حضرت عثمان بن عفان کے پاس گئے، اس وقت وہ محصور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس حال میں تمہارے درمیان فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ انہوں نے خاوند کو مہر اور عورت میں سے ایک چیز کا اختیار دیا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو

ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے پہلے خاوند کو مہر اور عورت کے درمیان اختیار دیا۔ پس انہوں نے مہر کو اختیار کرتے ہوئے مجھ سے اور دوسرے خاوند سے دو دو ہزار لے۔

(۱۶۹۹۲) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْرَأَةٌ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ الْأَوَّلِ .

(۱۶۹۹۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ گم شدہ آدمی کی شادی کرنے والی بیوی خاوند کے واپس آجانے کی صورت میں پہلے کی بیوی ہے۔

(۱۶۹۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَىٰ لَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا لَقَدْ نَعِيَ فَرُوجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَىٰ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقُهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۱۶۹۹۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک عورت کو اس کے خاوند کے انتقال کی خبر ملی اور اس نے شادی کر لی۔ پھر اس کا پہلا خاوند بھی آ گیا تو حضرت عبد اللہ بن زبیر نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے پہلے خاوند کو اختیار دیا جائے گا اگر چاہے تو بیوی کو لے لے اور اگر چاہے تو اپنا دیا ہو مہر واپس لے لے۔ حضرت عمر بن حمزہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بھی یہی کہا کرتے تھے۔

(۱۶۹۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيْرَ الْمَفْقُودِ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ ، فَأَخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ زَوْجِهَا الْأَحَدِثِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَدَخَلْتُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَىٰ فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعْنَتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ .

(۱۶۹۹۴) حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مہر اور بیوی میں اختیار دیا جو گم ہو گیا تھا اور اس کی بیوی نے شادی کر لی تھی۔ اس نے مہر کو اختیار کر لیا اور وہ مال آپ نے دوسرے خاوند پر لازم کیا۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بچی کے ذریعے دوسرے خاوند کی مدد کی ہے۔

(۱۱۷) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاً بَانِئًا فَتَرْجِعُ إِلَىٰ سَيِّدِهَا

فَيَطْوُهَا ، أَلِزْوَجِهَا أَنْ يَرِاجِعَهَا ؟

ایک شخص کے نکاح میں کوئی باندی تھی، اس نے اسے طلاق بائنہ دے دی، وہ اپنے آقا

کے پاس واپس آئی اور اس نے اس سے وطی کی تو کیا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے؟

(۱۶۹۹۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ .

(۱۶۹۹۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا خاندن میں ہے۔

(۱۶۹۹۶) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ .

(۱۶۹۹۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آقا خاندن میں ہے۔

(۱۶۹۹۷) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ .

(۱۶۹۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آقا خاندن میں ہے۔

(۱۶۹۹۸) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ .

(۱۶۹۹۸) حضرت زید فرماتے ہیں کہ آقا خاندن کے حکم میں ہے اگر اس کا حلال کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

(۱۶۹۹۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ

وَعِنْدَهُ عَلِيُّ وَزَيْدُ بْنُ نَابِتٍ ، قَالَ : فَرَحَّصَ فِي ذَلِكَ عُمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيُّ مُغْضَبًا

تَكَارِهًا لِمَا قَالَا .

(۱۶۹۹۹) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا اس وقت ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رخصت دی اور

دونوں نے فرمایا کہ وہ زوج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی اس بات پر ناگواری کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

(۱۷۰۰۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ يَقُولُ السَّيِّدُ .

(۱۷۰۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آقا خاندن ہے۔

(۱۷۰۰۱) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنْ رَجُلٍ نَحْنُهُ أُمَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ،

هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَبَّرَ ذَلِكَ .

(۱۷۰۰۱) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور

وہ اس کو دو طلاقیں دے دے۔ پھر اس باندی کا آقا اس سے وطی کرے تو کیا وہ واپس اپنے خاندن کے پاس جاسکتی ہے۔ انہوں نے

اسے ناپسند فرمایا۔

(۱۷۰۰۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ

امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لَزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَرِاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا

تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۷۰۰۲) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے پھر اس کا

آقا اس سے جماع کرے تو کیا خاندن اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ عورت اب پہلے خاندن کے لئے حلال نہیں جب

تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

(۱۷۰۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أُمَّةٌ تَطْلِقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيْدَهَا غَشِيَانَا لَا يَرِيدُ بِذَلِكَ مُحَادَعَةً وَلَا إِحْلَالَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ زَوْجَهَا بِخُطْبَةٍ.

(۱۷۰۰۳) حضرت زید بن ثابت اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیوی کو دو طلاقیں دے دے جو باندی ہو پھر اس کا آقا اس سے جماع کر لے اور اس سے مقصود کوئی دھوکہ وغیرہ نہ ہو تو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس نکاح کے ذریعے واپس جاسکتی ہے۔

(۱۷۰۰۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجَهَا تَطْلِقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيْدَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَجُلٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۰۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اس کو دو طلاقیں دے دے۔ پھر اس باندی کا آقا اس سے وطی کرے تو وہ پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

(۱۷۰۰۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِنَهَا السَّيِّدُ نَزَّوَجَهَا إِنْ شَاءَ . (۱۷۰۰۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی باندی بیوی کو دو طلاقیں دیں پھر اس کے آقا نے اس سے جماع کر لیا تو وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۱۸) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ مِنْ كَرَاهٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةَ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ

اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ

کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ ہے

(۱۷۰۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا .

(۱۷۰۰۶) حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت زید بن ثابت سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۷۰۰۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ . (۱۷۰۰۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ پانچویں سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک طلاق یافتہ کی عدت نہ

گذر جائے۔

(۱۷۰۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ .

(۱۷۰۸) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۱۷۰۹) حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَتَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ .

(۱۷۰۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۱۷۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ .

(۱۷۱۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یا رجوع نہ ہو تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۱۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ .

(۱۷۱۱) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک نکاح نہیں کر سکتا۔

(۱۷۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ .

(۱۷۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یا رجوع نہ ہو تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْيَتَى طَلَّقَ .

(۱۷۰۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۱۷۰۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ أَنَّ عْتَبَةَ بِنَ أَبِي سَفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ .

(۱۷۰۱۴) حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی کہتے ہیں کہ عتبہ بن ابی سفیان کے نکاح میں چار بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے شادی کر لی۔ مروان نے اس بارے میں حضرت ابن عباس سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چوتھی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے نکاح نہیں سکتا۔

(۱۷۰۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ . (۱۷۰۱۵) حضرت ابو صادق فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

(۱۷۰۱۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ .

(۱۷۰۱۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا شوہر چاہے تو اسی دن بھی شادی کر سکتا ہے۔

(۱۱۹) مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ

اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یافتہ کی عدت

پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نزدیک مکروہ نہیں ہے

(۱۷۰۱۷) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا : فِيهِ الْإِدْيُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مِنِّي مَا شَاءَ .

(۱۷۰۱۷) حضرت قاسم اور حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو وہ جب چاہے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۲۰) فی الرجل تَکُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

اگر ایک آدمی کسی عورت کو طلاق دے تو کیا اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟

(۱۷۰۱۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّ تَنْقِضَ عِدَّتَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيُّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمَلُ الْأُخْرَى عِدَّتِهَا وَهُوَ خَاطِبٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةٌ وَتَعْتَدَانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .

(۱۷۰۱۸) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی اور اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لی، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور مہر مرد کے ذمہ لازم رکھا۔ اور فرمایا کہ جب پہلی بیوی عدت پوری کر لے تو یہ نکاح کا پیغام بھیجے اگر اس نے دخول کیا ہے تو پورا مہر واجب ہوگا اور عورت پر پوری عدت ہوگی اور وہ دونوں عدت گزاریں گی اور ہر ایک کی عدت تین حیض ہوگی اگر انہیں حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے تک عدت گزاریں گی۔

(۱۷۰۱۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقِضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ .

(۱۷۰۱۹) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر اس کی بہن سے شادی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مروان سے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادو یہاں تک کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت گزر جائے۔

(۱۷۰۲۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُمَا حَرَامٌ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

(۱۷۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر اسے طلاق دے دے۔ پھر اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لے تو اس کا نکاح حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔ عورت کے لئے نہ مہر واجب ہوگا اور نہ ہی عدت واجب ہوگی۔

(۱۷۰۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۰۲۱) حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ حضرت عامر سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس کو طلاق دے دے پھر اس عورت کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی

کرائی جائے گی۔

(۱۷.۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۷.۲۲) حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آدمی کسی عورت کو تین طلاق دے دے اور اس کی عدت میں اسی کی بہن سے شادی کر لے۔

(۱۷.۲۳) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.

(۱۷.۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو طلاق دے کر اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی نہیں کی کر سکتی۔

(۱۳۱) من رخص في ذلك

جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے

(۱۷.۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.

(۱۷.۲۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی عورت کو تین طلاقیں دے کر اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لے۔

(۱۷.۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخَلَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَكَانَهُ نَزَعَ عَنْهُ.

(۱۷.۲۵) حضرت حسن، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت خلّاس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو تین طلاقیں دے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبید بن نضیلہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے۔ جب اس بات کا تذکرہ حضرت حسن سے کیا گیا تو گویا انہوں نے اسے ناپسند کیا۔

(۱۳۲) في المرأة تنكح على عمّتها، أو خالتها

کیا اپنی بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟

(۱۷.۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا. (بخاری ۵۱۰۸۔ احمد ۳ / ۳۳۸)

(۱۷۰۲۶) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَئِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا .

(۱۷۰۲۷) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی خالہ اور پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا .

(۱۷۰۲۸) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا .

(۱۷۰۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْخَالَءُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تَزَوَّجُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى . (ترمذی ۱۱۳۶۔ ابوداؤد ۲۵۸۸)

(۱۷۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔ بھتیجی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، بھانجی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، چھوٹی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں بڑی بہن سے اور بڑی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں چھوٹی بہن سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا .

(۱۷۰۳۱) حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ

عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينًا لغيرِهِ . (مالك ۲۱)

(۱۷۰۳۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح آدمی کے لئے اس عورت سے وطی کرنا ناجائز ہے جس کے بطن میں کسی دوسرے کا جنین ہو۔

(۱۷۰۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا .

(۱۷۰۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس عورت کی پھوپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اسے طلاق دے تو اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔

(۱۷۰۳۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ نِكَحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۰۳۴) حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ ایک عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی رضاعی خالہ سے نکاح کیا گیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

(۱۷۰۳۵) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ .

(۱۷۰۳۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لئے درست نہیں کہ وہ کسی عورت کو اور اس کی رضاعی پھوپھی کو غلامی میں جمع کرے۔

(۱۷۰۳۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .

(احمد ۲ / ۲۰۷ - عبدالرزاق ۱۰۷۵۱)

(۱۷۰۳۶) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷۰۳۷) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .

(۱۷۰۳۷) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جائے۔

(۱۷.۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۷.۳۸) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مارا اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۷.۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَبِزِيدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .

(۱۷.۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جائے۔

(۱۲۲) فِي الْجَمْعِ بَيْنِ ابْنَتِي الْعَمِّ

دو چچا زاد بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کا بیان

(۱۷.۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتِي الْعَمِّ لِفَسَادِ بَيْنَهُمَا .

(۱۷.۴۰) حضرت عطاء اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ دو چچا زاد بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے کیونکہ اس سے دونوں کے درمیان فساد ہوگا۔

(۱۷.۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرُو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ لَعْلَبِ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتِي عَمِّ لَهُ قَالَ : فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ .

(۱۷.۴۱) حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادہ نے دو چچا زاد بہنوں کو نکاح میں جمع کیا اور ایک ہی رات میں وہ دونوں انہیں پیش کی گئیں۔

(۱۷.۴۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ .

(۱۷.۴۲) حضرت حسن قطعی رحمی کے اندیشے سے اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ دو چچا زاد بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے۔

(۱۷.۴۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ .

(۱۷.۴۳) حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کے لئے اس کی چچا زاد بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس شخص سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ قطع رحمی ہے جو کہ درست نہیں۔

(۱۷.۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ الْفُقَاءِ ، عَنْ عِمْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ. (ابوداؤد ۲۰۸۔ عبدالرزاق ۱۰۷۶۷)

(۱۷۰۳۳) حضرت عیسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قطع رحمی کے اندیشے سے کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی قریبی رشتہ دار خاتون سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۲۴) فِي الرَّجُلِ يَفْجَرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے

(۱۷،۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَكَانَ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَعْتَرَفَا فَحَلَلَهُمَا وَحَرَّصَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ.

(۱۷۰۳۵) حضرت ابو بَرِید کہتے ہیں کہ سَبَاع بن ثابت نے رباح بن وہب کی بیٹی سے شادی کی۔ سباع کا کسی اور عورت سے ایک بیٹا تھا اور بنت رباح کی کسی اور خاندان سے ایک بیٹی تھی۔ اس لڑکے نے لڑکی سے زنا کیا اور لڑکی کو حمل ٹھہر گیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان دونوں نے گناہ کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوڑے لگوائے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے لیکن اس لڑکے نے انکار کر دیا۔

(۱۷،۴۶) حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، أَوْلَهُ سَفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

(۱۷۰۳۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مرد و عورت باہم مبتلا ہوں اور ان پر حد بھی جاری ہو اور وہ شخص اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس معاملے کی ابتداء برائی سے ہوئی اور انتہاء نکاح پر ہوگی۔

(۱۷،۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْلَهُ سَفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

(۱۷۰۳۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتداء برائی سے ہوئی اور انتہاء نکاح پر ہوگی۔

(۱۷،۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي جُنَابٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ (حَمَّ عَسَقٍ)

فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ فَعَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَاتَاهَا رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجَرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾.

(۱۷۰۳۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ﴿حَمَّ عَسَقٍ﴾ سورت پڑھ رہا تھا، جب میں اس آیت پر پہنچا (ترجمہ) وہ اللہ

اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی لغزشات کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اس آیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا، میں صبح اس بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے شادی کر لے تو یہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی: (ترجمہ) ”وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی لغزشات کو معاف کرتا ہے“

(۱۷.۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَوْ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ .

(۱۷.۴۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے یا یہ فرمایا کہ اس کی ابتداء حرام اور انتہاء حلال ہے۔

(۱۷.۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهَمَّا بِكُرَانٍ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ رَوَّجَهَا إِتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ .

(۱۷.۵۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دو غیر شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا پھر ایک سال بعد ان دونوں کا نکاح کر دیا۔

(۱۷.۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْزَوَّجَهَا .

(۱۷.۵۱) حضرت سعید بن مسیب اس نکاح میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۷.۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ .

(۱۷.۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علقمہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی: (ترجمہ) ”وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی لغزشات کو معاف کرتا ہے“

(۱۷.۵۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحْلَاهَا لَهُ مَالُهُ .

(۱۷.۵۳) حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس معاملے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے اور مال نے اس عورت کو مرد کے لئے حلال کر دیا۔

(۱۷.۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْزَوَّجُهَا ، قَالَ

هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا .

(۱۷۰۵۴) حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ اس عورت کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ اس نے اسے خراب کیا ہے۔ (۱۷۰۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا . (۱۷۰۵۵) حضرت عمرؓ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کھجور چوری کرے پھر اسے خرید لے۔

(۱۷۰۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . (۱۷۰۵۶) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۰۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ بِهِ . (۱۷۰۵۷) حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۰۵۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنصُورٍ ، أَوْ ابْنِ مَنصُورٍ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشِيَمٍ قَالَ : لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَابِيَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْحَبِيبُ عَلَىٰ النَّحِيبِ . (۱۷۰۵۸) حضرت صلہ بن اشیم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اگر وہ بدکار ہیں تو بدکار ہی بدکار کے لائق ہے۔

(۱۷۰۵۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ حَاطِيئَةَ ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيُنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا بَلَغَنِي : أَنْظِنِ انِي أَنِهَا ؟ . (۱۷۰۵۹) حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت کسی مرد سے بتلاء گناہ ہو، پھر بعد میں اس عورت کے اعمال و افعال سے خیر کا صدور ہونے لگے تو کیا وہ اس مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ کیا تم یہ یگان کرتے ہو کہ میں اس سے منع کروں گا؟!

(۱۷۰۶۰) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ . (۱۷۰۶۰) حضرت عبید اللہ بن ابی یزید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اب تو اسے حلال کا راستہ ملا ہے۔

(۱۷۰۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ . (۱۷۰۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ .

- (۱۷۰۶۱) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔
- (۱۷۰۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا .
- (۱۷۰۶۳) حضرت سعید بن مسیب، حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو اس اگر وہ دونوں توبہ کر کے زندگی بدل لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
- (۱۷۰۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا : سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوْلَاهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوْلَاهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ .
- (۱۷۰۶۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی ابتدا برائی اور انجام نکاح سے ہوا، اس کا اول حرام اور انتہا حلال ہے۔

(۱۲۵) من کرہ أن يتزوجها

جن حضرات کے نزدیک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا

(۱۷۰۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمِّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يُعْنِي الْجِمَاعَ فَلَا ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يُعْنِي الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ .

(۱۷۰۶۷) حضرت عبد الرحمن صدیقی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک چچا زاد بہن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ میں نے اس سے تلذذ بھی حاصل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شیء باطن یعنی دخول کیا ہے تو شادی نہیں کر سکتے اور اگر شیء ظاہر یعنی بوسہ وغیرہ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۰۶۸) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ .

(۱۷۰۶۹) حضرت عبد اللہ (اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا چاہے) فرماتے ہیں کہ وہ دونوں پھر بھی زانی ہی رہیں گے۔

(۱۷۰۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا .

(۱۷۰۷۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا چاہے) فرماتی ہیں کہ وہ

ساتھ رہ کر بھی زانی ہی رہیں گے۔

(۱۷.۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ .

(۱۷.۶۷) حضرت جابر بن زید (اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا چاہے) فرماتے ہیں کہ وہ دونوں زانی ہیں ان کے درمیان تو سمندر ہونا چاہئے۔

(۱۷.۶۸) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجُهْمِ ، عَنِ الْبُرَّاءِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا يَزَالَانَ زَانِيَيْنِ أَبَدًا .

(۱۷.۶۸) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا چاہے فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زانی ہی رہیں گے۔

(۱۲۶) مَا جَاءَ فِي إِيْتِيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْكِرَاهَةِ

بیوی سے لواطت کی حرمت کا بیان

(۱۷.۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ : فِي أَدْبَارِهِنَّ . (ترمذی ۱۱۶۶ - دارمی ۱۱۳۱)

(۱۷.۶۹) حضرت علی بن طلحہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، پس تم عورتوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔ (یعنی لواطت نہ کرو۔)

(۱۷.۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُمَانَ ، عَنْ مَعْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا .

(ترمذی ۱۱۶۵ - ابن حبان ۳۳۱۸)

(۱۷.۷۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ لواطت کی۔

(۱۷.۷۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .

(۱۷.۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورتوں سے لواطت کی جائے اور فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا۔

(۱۷.۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : هِيَ اللَّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى . (نسائی ۸۹۹۷)

(۱۷.۷۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ”چھوٹی لوطیت“ ہے۔

(۱۷.۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ .

(۱۷.۷۴) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کام (یعنی لواطت) تو صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔

(۱۷.۷۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ . (۱۷.۷۴) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کام (یعنی لواطت) تو صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔

(۱۷.۷۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَحَاشِئُ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ .

(۱۷.۷۶) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں کی سرینیں تم پر حرام ہیں۔

(۱۷.۷۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ آتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ .

(۱۷.۷۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مردوں یا عورتوں سے لواطت کی اس نے کفر کیا۔

(۱۷.۷۷) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ الْأَنْزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ آتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ابوداؤد ۳۸۹۹ - دارمی ۱۱۳۶)

(۱۷.۷۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی حائضہ سے جماع کیا یا کسی عورت سے لواطت کی تو اس نے کفر کیا۔

(۱۷.۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخَطْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَزِيمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ .

(طبرانی ۳۷۳۰ - بیہقی ۹۶)

(۱۷.۷۸) حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا تم عورتوں سے لواطت نہ کرو۔

(۱۷.۷۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهَيْبٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا .

(ابوداؤد ۲۱۵۵۔ ابن ماجہ ۱۹۲۳)

(۱۷.۷۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نے عورت کی دبر میں دخول کیا۔

(۱۷.۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ أَبِي الْجَوَيْرِيَّةِ قَالَ : نَادَى عَلِيُّ عَلَى الْمُنْبِرِ ، فَقَالَ : سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : اتَوْتَنِي النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ فَقَالَ : سَفَلَتْ سَفَلُ اللَّهِ بِكَ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ الْآيَةَ .

(۱۷.۸۰) حضرت ابو معمر یا ابو جویریہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر اعلان کیا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ ایک آدمی نے کہا کہ کیا عورتوں کی دبر میں دخول کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھے گھٹیا کرے تو نے گھٹیا سوال کیا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا (ترجمہ) کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ (الآیۃ)

(۱۲۷) فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟

آدمی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟

(۱۷.۸۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا امْرَأَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْزِرَ بِأَزَارِ نَمِّ بِيَاضِهَا . (بخاری ۳۰۰۔ مسلم ۲۳۲)

(۱۷.۸۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حالت حیض میں ہوتی تو حضور ﷺ سے ازار پہننے کا حکم دیتے اور پھر ازار کے اوپر سے تعلق فرماتے۔

(۱۷.۸۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا امْرَأَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتِرَ فِي فُورِ حَيْضَتِهَا نَمِّ بِيَاضِهَا ، وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبُهُ . (بخاری ۳۰۲۔ مسلم ۲)

(۱۷.۸۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حالت حیض میں ہوتی تو حضور ﷺ سے حیض کے بہاؤ کے دوران ازار پہننے کا حکم دیتے اور پھر ازار کے اوپر سے تعلق فرماتے۔ اور تم میں کون اس حد تک اپنی ثبوت پر قابو پا سکتا ہے جتنے حضور ﷺ کو اپنے نفس پر قابو تھا۔

(۱۷.۸۲) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَامٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ : أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْحَوِرُ مِنْهُ. (بخاری ۳۰۳۔ احمد ۳۳۶/۶)

(۱۷۰۸۳) ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۰۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَفْسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي حِضَّتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ، فَقَالَ: مَكَانِكَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكَ ثَوْبًا.

(طبرانی ۱۱۶۰۲)

(۱۷۰۸۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بستر پر حضور ﷺ کے ساتھ تھی کہ میں حائضہ ہو گئی، میں پیچھے ہٹنے لگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو۔ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے اوپر کپڑا اڑال لو۔

(۱۷۰۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ: إِذَا كَانَ عَلَيَّ فَرْجَهَا حِرْقَةً.

(۱۷۰۸۵) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر حائضہ کی شرمگاہ پر کپڑا ہو تو اس کے ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۰۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

(۱۷۰۸۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ازار سے اوپر کا حصہ تعلق کے لئے کافی ہے۔

(۱۷۰۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

(۱۷۰۸۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ازار سے اوپر کا حصہ تعلق کے لئے کافی ہے۔

(۱۷۰۸۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعُ عَلَيَّ مَا تَحْتَهُ.

(۱۷۰۸۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ازار سے اوپر کا حصہ تعلق کے لئے کافی ہے۔ اس سے نیچے کی

طرف مت جھانکو۔

(۱۷۰۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ: مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: مَا نَوْقُ الْإِزَارِ.

(۱۷۰۸۹) حضرت میمون بن مهران کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حیض کی حالت میں آدمی بیوی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ازار سے اوپر کا حصہ اس کے لئے ہے۔

(۱۷۰۹۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا لَقِيَ عَلَى فَرْجِهَا حِرْقَةً فَيَسْرِهَا.

(۱۷۰۹۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں شرمگاہ پر کپڑا اڑال لے تو تم اس سے تعلق کر سکتے ہو۔

(۱۷۰۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعِي بِهَا مَا شِئْتِ.

(۱۷۰۹۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حائضہ خود سے گندگی کو دور کر لے تو تم جو چاہو کر سکتے ہو۔

(۱۷۰۹۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَامِرٍ قَالَ: يَأْتِيهَا مَا أَخْطَأَ الدَّمُ.

(۱۷۰۹۲) حضرت عامر بن عثمان فرماتے ہیں کہ حائضہ کا خون آدی کونہ لگے تو وہ اس سے تعلق کر سکتا ہے۔

(۱۷۰۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ : مَا لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذُكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۰۹۳) حضرت حبیب جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ سے سوال کیا کہ آدی حیض کی حالت میں عورت سے کیا تلمذ کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ازار سے اوپر کا حصہ استعمال کر سکتا ہے۔

(۱۷۰۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۰۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

(۱۷۰۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۰۹۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

(۱۷۰۹۶) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، فَقَالَ : أَبَاشِرُ أَمْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا نَمَّ بِأَشْرَاهَا .

(۱۷۰۹۶) حضرت عبدالرحمن بن حرمہ کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ جب میری بیوی حیض میں ہو تو کیا میں اس سے مباشرت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک کپڑا ڈال کر اس سے مباشرت کر سکتے ہو۔

(۱۷۰۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصْعُقَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يَدْخُلُهُ .

(۱۷۰۹۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر تامل کو شرم گاہ پر رکھے اور دخول نہ کرے تو جائز ہے۔

(۱۷۰۹۸) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامِ الرَّائِسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَاحِبُ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَتَعَزَّلْ لِهِنَّ .

(۱۷۰۹۸) حضرت شیبہ بن ہشام راہی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے اس آدی کے بارے میں سوال کیا جو حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم آل عمر بن عثمان تو اس حال میں ان سے الگ رہتے ہیں۔

(۱۷۰۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۰۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

(۱۷۱۰۰) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۱۰۰) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

(۱۷۱۰۱) حَدَّثَنَا شَيْبَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ حَبِيبِ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نَدْبَةَ مَوْلَاةٍ مِيمُونَةَ ،

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخْذَيْنِ ، أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ .

(ابوداؤد ۲۷۱- احمد ۶/۳۲۶)

(۱۷۱۰۱) ام المومنین حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ حالت حیض میں اپنی ازواج سے تعلق فرماتے تھے جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زوجہ پر آدھی رانوں یا گھٹنوں تک ازار ہوتا۔

(۱۷۱۰۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخْذَيْهَا .

(۱۷۱۰۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے پیٹ یا رانوں کے درمیان دل لگی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۱۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْجَلِيّ قَالَ : خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمْ : مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : فَيَا ذَنِّ جَنَّتُمْ ؟ قَالُوا ، نَعَمْ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِي ، عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .

(۱۷۱۰۳) حضرت عاصم بن عمرو بجلی فرماتے ہیں کہ کچھ اہل عراق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عراقی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اجازت سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں عورت سے کچھ کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو مجھ سے اس وقت کے بعد سے کسی نے نہیں کیا جب سے میں نے یہ بات حضور ﷺ سے معلوم کی ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں آدی عورت کے ازار کے اوپر سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

(۱۲۹) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾

(ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کی تفسیر

(۱۷۱۰۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِئِكَ لِرَاغِبٍ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرًا كَذَا وَكَذَا وَيُعْرَضُ لَهَا بِالْقَوْلِ .

(۱۷۱۰۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نکاح کا پیغام دینے کے لئے آدی عورت کو کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور میں ایک ایسی عورت چاہتا ہوں جس میں ایسی ایسی خوبیاں ہوں، وہ قول کے ذریعے اس سے اظہار کر سکتا ہے۔

(۱۷۱۰۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿ قَالَ يَقُولُ : إِنَّكَ جَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَفْوَيْسِي بِنَفْسِكَ وَإِنِّي عَلَيْكَ لَحَرِيصٌ .

(۱۷۱۰۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو خرچ کرنے والی ہے، تو خیر کے راستے پر ہے۔ اور یہ کہنا مکروہ ہے کہ مجھے اپنے سے محروم نہ کرنا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔

(۱۷۱۰۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كَلِمَةً .

(۱۷۱۰۷) حضرت ابراہیم پیام نکاح کے لئے کسی بھی قسم کے الفاظ کے استعمال کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۷۱۰۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكَ وَيَقُولُ مَا شَاءَ .

(۱۷۱۰۷) حضرت حسن اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ عورت کی عدت گزرنے کے بعد آدمی کہے کہ میں نے تجھ سے شادی کی۔ اس کے علاوہ جو مرضی کہے۔

(۱۷۱۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي بِكَ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فَيْكٍ لِرَاغِبٌ فَلَا تَفْوَيْسِي بِنَفْسِكَ .

(۱۷۱۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو پسند ہے، مجھے تجھ میں رغبت ہے اور مجھے خود سے محروم نہ کر۔

(۱۷۱۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكَ لِأَلَى خَيْرٍ .

(۱۷۱۰۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو خرچ کرنے والی ہے، تو خیر کے راستے پر ہے۔

(۱۷۱۱۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْمَرْأَةِ يَتَوَقَّى

عَنْهَا زَوْجَهَا فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلَامَهَا قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي بِكَ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فَيْكٍ لِرَاغِبٌ وَإِنِّي عَلَيْكَ لَحَرِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ .

(۱۷۱۱۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کے خاندان کا انتقال ہو جائے اور کوئی آدمی اسے نکاح کا پیام بھیجنا چاہے تو یہ کہہ

سکتا ہے کہ مجھے تو پسند ہے، مجھے تجھ میں رغبت ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اور ان جیسے اور الفاظ بھی کہہ سکتا ہے۔

(۱۷۱۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يَذْكُرُهَا إِلَيَّ وَلَيْسَ بِهَا وَلَا يُشْعِرُهَا .

(۱۷۱۱۱) حضرت عبیدہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی

حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت کے دلی سے اس کا تذکرہ کرے گا عورت سے بات

نہیں کرے گا۔

(۱۷۱۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ائْتِقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تَقْرُبِيْنَا بِنَفْسِكَ . (مسلم ۳۹- ابوداؤد ۲۲۸۱)

(۱۷۱۱۳) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ آپ ام شریک کے یہاں منتقل ہو جائیں اور میں اپنی ذات سے محروم نہ رکھیں۔

(۱۷۱۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قَالَ يَقُولُ : إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَنِي .

(۱۷۱۱۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تجھ میں رغبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے جمع فرمادیں گے۔

(۱۷۱۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَقُولُ : إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ .

(۱۷۱۱۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ خرچ کرنے والی ہیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہو تو بندھن ہو جائے گا۔

(۱۷۱۱۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَةِ فِي تَعْرِيبِ النِّكَاحِ .

(۱۷۱۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیام نکاح بھیجئے ہوئے کوئی ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۷۱۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ : لَا تَقْرُبِيْنَا بِنَفْسِكَ .

(۱۷۱۱۶) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنی ذات سے محروم نہ رکھنا۔

(۱۷۱۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يُعْرَضُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَنْصَبُ فِي الْخِطْبَةِ .

(۱۷۱۱۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدمی نکاح کا پیغام دیتے ہوئے یوں کہے گا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور پیام نکاح میں اسی عورت کو مقرر نہیں کرے گا۔

(۱۷۱۱۸) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يَقُولُ ، إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ

وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكَ حَتَّى يُعْلَمَهَا إِنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عَقْدَةً، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدِهِ.
(۱۷۱۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ مجھے تم میں رغبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کروں۔ پس کوئی معاہدہ یا وعدہ کئے بغیر اسے بتادے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔

(۱۷۱۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنِّي عَلَيْكَ لَحَرِيصٌ وَإِنِّي فَيْكٍ لَرَاعِبٌ وَنَحْوَ هَذَا.

(۱۷۱۱۹) حضرت قاسم قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدت میں عورت سے کہے گا کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں اور تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور اس جیسے الفاظ کہہ سکتا ہے۔

(۱۷۱۲۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ.
(۱۷۱۲۰) حضرت عامر قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا تو خوبصورت ہے، خرج کرنے والی ہے اور اگر اللہ کا فیصلہ ہو تو یہ بندھن ہو جائے گا۔

(۱۷۱۲۱) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ زُرْقَاءَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكَ لِأَلْمِي خَيْرٍ ، وَلِيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لَا يَبِيدُ بِهَا ، هَذَا كَلِمَةٌ جَلُّ مَعْرُوفٍ.

(۱۷۱۲۱) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمہ) ”اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدمی عورت سے کہے گا کہ تو خوبصورت ہے، تو خرج کرنے والی ہے اور خیر کے راستے پر ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ پیام نکاح کا تذکرہ اس کے دل میں ہو۔ اسے عورت کے سامنے ظاہر نہ کرے اور یہ سب حلال اور نیک ہے۔

(۱۷۱۲۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَيْ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي لَأَشْهِيكَ.

(۱۷۱۲۲) حضرت ابوحنیفہ قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عورت سے کہے گا

کہ میں تیری جاہت رکھتا ہوں۔

(۱۲۹) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَيُعْطَى الصَّدَاقَ فَيُعَلِّمُ بِهِ

اگر کوئی غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے اور مہر دے اور پھر آقا کو علم ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۱۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى ، وَكَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ تَزَوَّجَ أُمَّةً لِنِسِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إِلَيْهَا خُمْسَ ذُوْدٍ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا غُلَامِي وَمَالِي ، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلَامُ فَعُلَامُكَ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدْ اسْتَحَلَّ بِهِ فُرْجٌ صَاحِبَتِنَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمْسِي مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فُرْجٌ صَاحِبَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَيَّ أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أُخْمَاسِيهِ .

(۱۷۱۲۳) حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، جو ان کے اونٹوں کا گھرانہ بھی تھا۔ اس نے جو جعدہ کی ایک باندی سے شادی کی اور اسے مہر میں پانچ اونٹ دیئے۔ جب حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جو جعدہ کو پیغام بھیج دیا کہ میرا غلام اور میرا مال مجھے واپس کرو۔ انہوں نے کہا کہ غلام تو آپ کا ہی ہے البتہ وہ مال اب عورت کا مہر بن گیا۔ یہ مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پورے مال کے دوئس تو عورت کا مہر ہوں گے اور تینئس ابوموسیٰ اشعری کو دے دیئے جائیں۔

(۱۷۱۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ لَأَبِي مُوسَى فِي امْرَأَةٍ عُمَرَ عَلَى خُمْسٍ فَلَانَصَّ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ قَلْوَصِينَ وَإِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَ فَلَانَصَّ ، أَوْ أُعْطَاهَا ثَلَاثَ فَلَانَصَّ وَرَدَّ عَلَيَّ أَبِي مُوسَى قَلْوَصِينَ قَالَ : أَرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ .

(۱۷۱۲۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے پانچ اونٹیوں کے عوض شادی کی۔ پھر یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے تین اونٹیاں حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو دینے کا حکم دیا یا عورت کا مہر تین اونٹیوں کو بنایا اور دو اونٹیاں حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو واپس کیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس غلام نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا۔

(۱۷۱۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فُرْجَهَا .

(۱۷۱۲۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو بالکل مہر نہیں ملے گا، اس نے خود اپنے فرج کو حلال کیا ہے۔

(۱۷۱۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ .

(۱۷۱۲۶) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے وہ تمام مہر واپس لیا جائے گا جو اس نے خرچ کر دیا اور جو اس نے خرچ

نہیں کیا۔

(۱۷۱۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكْتَ فَلَا شَيْءَ .

(۱۷۱۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے وہ مال واپس لیا جائے گا جو اس نے خرچ نہ کیا ہو اور جو خرچ کر دیا اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

(۱۷۱۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ ، قَالَ : يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذْتُ .

(۱۷۱۲۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت سے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی، عورت کو مہر نہیں ملے گا اور جو کچھ دیا گیا ہے واپس لیا جائے گا۔

(۱۷۱۲۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا مَا أَخَذْتُ . (۱۷۱۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لی اور عورت سے دخول بھی کر لیا تو جو مہر عورت کو دے چکا ہے وہ عورت کا ہوگا۔

(۱۷۱۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِنَيْءٍ .

(۱۷۱۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو شادی نہیں ہوئی اور عورت کو مہر بھی نہیں ملے گا۔

(۱۷۱۳۱) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ .

(۱۷۱۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی اور عورت کو مہر بھی دے دیا تو اگر دخول کر چکا ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا اور اگر دخول نہ کیا ہو تو مہر کی رقم آقا کو حاصل ہوگی۔

(۱۳۰) مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَقَالَ إِنَّ تَزَوُّجَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ

جن حضرات کے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنے والا غلام زانی ہے

(۱۷۱۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بَغِيرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ. (ابوداؤد ۲۰۸۰۔ احمد ۳۷۷)

(۱۷۱۳۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے“

(۱۷۱۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَوْ قَالَ: نَكَحَ بَغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. (حاكم ۱۹۳۔ احمد ۳/۳۸۲)

(۱۷۱۳۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے“

(۱۷۱۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نِكَاحُ الْعَبْدِ بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ.

(۱۷۱۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا زنا ہے اور اس کی شادی کروانے والا سزا کا مستحق ہوگا۔

(۱۷۱۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدَهُ بَغَيْرِ إِذْنِ صَرِيحِهِ الْحَدِّ.

(۱۷۱۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو اس پر حد جاری ہوگی۔

(۱۷۱۳۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَبْرِ بَرِّ بْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ، قُلْتُ: الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، أَرَأَنَ هُوَ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى، قُلْتُ: أَرَأَنَ هُوَ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى.

(۱۷۱۳۶) حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عنیم بن قیس سے سوال کیا کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو کیا وہ زانی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا وہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے پھر سوال کیا، کیا وہ زانی ہوگا؟ انہوں نے پھر فرمایا کہ وہ گناہ گار ہوگا۔

(۱۷۱۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، قَالَ: قَدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ.

(۱۷۱۳۷) حضرت محمد بن جابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو اس نے گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کرو۔

(۱۷۱۳۸) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

(۱۷۱۳۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔

(۱۳۱) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا)

قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر

(۱۷۱۳۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : لَا يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا إِلَّا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ .

(۱۷۱۳۹) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ آدمی عورت سے ایسا عہد و پیمانہ نہ لے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے گی۔

(۱۷۱۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا .

(۱۷۱۴۰) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی عدت میں اسے نکاح کا پیغام نہ بھجوائے۔

(۱۷۱۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذُكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا .

(۱۷۱۴۱) حضرت محمد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ولی سے مل کر اپنی رغبت اور خواہش کو ظاہر کرے۔

(۱۷۱۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ كَهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يَبْغَضِيهَا فِي الْعِدَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ .

(۱۷۱۴۲) حضرت سعید قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مرد عورت سے اس بات کا تقاضا نہ کرے کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے۔

(۱۷۱۴۳) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لَا تَفُوتِيْنِي بِنَفْسِكَ فَإِنِّي نَاكِحُكَ ، هَذَا لَا يَحِلُّ .

(۱۷۱۴۳) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدمی کا عورت سے یہ کہنا ہے کہ مجھے خود سے محروم نہ کرنا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا حلال نہیں ہے۔

(۱۷۱۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، وَالْحَسَنِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : الزَّوْنَا .

(۱۷۱۳۳) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔

(۱۷۱۴۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : الزَّانَا .

(۱۷۱۳۵) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔

(۱۷۱۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾

قَالَ : الزَّانَا .

(۱۷۱۳۶) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔

(۱۷۱۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّاذِلِيِّ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : الزَّانَا .

(۱۷۱۳۷) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔

(۱۷۱۴۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ : الزَّانَا .

(۱۷۱۳۸) حضرت ابو مجلز قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے۔

(۱۷۱۴۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : الزَّانَا .

(۱۷۱۳۹) حضرت جابر بن زید قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد

زنا ہے۔

(۱۷۱۵۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الصَّخَّائِكِ قَالَ : لَا يَقَاضِيهَا أَنْ لَا تَزُوجَ غَيْرَهُ .

(۱۷۱۵۰) حضرت سخاک قرآن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ

آدمی اس عورت سے اس بات کا تقاضا نہ کرے کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔

(۱۳۲) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

اس آدمی کا کیا حکم ہے جس کا کسی عورت سے نکاح ہو لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ شرعی

ملاقات سے پہلے کہیں زنا کر بیٹھے؟

(۱۷۱۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أُنْبِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَجُلٍ قَدْ أَقْرَأَ عَلَيَّ نَفْسِي

بِالزَّانَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ : أَحْصَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتَ ، قَالَ فَرَفَعَهُ إِلَى السُّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعُشِيِّ دَعَا

بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَرَّحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ

فَضْرِبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا بَرَى سِمَاكِ .

(۱۷۱۵۱) حضرت حنش بن معتمر فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے زنا کا اقرار کیا تھا۔ حضرت

علیؑ نے اس سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علیؑ نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ شام کو حضرت علیؑ نے اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے لیکن ابھی شرعی ملاقات نہیں کی۔ حضرت علیؑ نے اس بات پر خوش ہوئے اور اسے سنگسار کرنے کے بجائے صرف حد جاری کرنے کا حکم دیا اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی اور عورت کو نصف مہر دلواوا۔

(۱۷۱۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْبُكَرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأْوَلُ الْحَسَنُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾.

(۱۷۱۵۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر بارگاہ (مکلوہ) زنا کا ارتکاب کرے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اس کے خاوند سے اس کی جدائی کرادی جائے گی اور اسے مہر نہیں ملے گا۔ پھر حضرت حسن نے یہ آیت پڑھی ﴿وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾۔

(۱۷۱۵۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ، يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۱۷۱۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور عورت کو مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۱۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَجِلْدٌ مِثْلُ وَنَفْيٌ سَنَةٍ ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۱۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے نکاح کیا پھر وہ عورت دخول سے پہلے زنا کا ارتکاب کر بیٹھی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور عورت کو مہر نہیں ملے گا۔ اسے سو کوڑے مارے جائیں گے، ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا اور اگر مرد نے زنا کا ارتکاب کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۷۱۵۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِيَ أَمْرَأَةٌ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أُمْسِكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ أَمْرَأَةٌ .

(۱۷۱۵۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ عورت اسی کی بیوی رہے گی اس پر حد جاری ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روک کر رکھے۔ یہ اسی طرح ہے کہ زنا کرنے والے شخص سے اس کی بیوی دور نہیں کی جاتی۔

(۱۷۱۵۶) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَمْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفْرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرَأَتِهِ .

(۱۷۱۵۶) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے شرعی ملاقات سے قبل زنا کا ارتکاب کیا تو اس کی بیوی سے اس کی علیحدگی نہیں کرائی جائے گی۔

(۱۷۱۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا فَاحِشَةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۱۵۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد و عورت کا نکاح ہوا اور شرعی ملاقات سے پہلے کسی ایک نے زنا کا ارتکاب کیا تو انہیں کوڑے لگائے جائیں گے لیکن دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔

(۱۷۱۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِئَةً وَنَفَاهُ سَنَةً .

(۱۷۱۵۸) حضرت صفیہ بنت ابی عبید فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد شرعی ملاقات سے پہلے کسی دوسری عورت سے زنا کیا تو حضرت ابو بکر نے اسے سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا۔

(۱۳۳) فِي قَوْلِهِ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر

(۱۷۱۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ مِنْ زَنَى ، فَكَانَ أَنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْنَمُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ . (مسلم ۳۳- ابوداؤد ۲۱۳۸)

(۱۷۱۵۹) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حنین کی جنگ میں ایک لشکر کو عرب کے ایک قبیلے کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے سے لڑائی کی اور انہیں شکست دے دی۔ پھر ان کی بعض ایسی عورتوں سے جماع کیا جن کے خاوند تھے۔ ان کے اس عمل کو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گناہ سمجھا کیونکہ ان کے خاوند تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی تمہاری باندیاں بھی تمہارے لئے حلال ہیں۔

(۱۷۱۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

(۱۷۱۶۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے مراد وہ مشرک عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَبَايَا كَانَ لِهِنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسَبِّنَ .

(۱۷۱۶۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو قیدی ہوں اور قیدی بنائے جانے سے پہلے ان کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۶۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ .

(۱۷۱۶۲) حضرت انس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، يُرْجَعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزَّوْجَا .

(۱۷۱۶۳) حضرت انس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَهَشَامَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالْأَرْبَعِ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

(۱۷۱۶۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت تیرے لئے حرام ہے البتہ وہ عورتیں جو قیدی بنا کر لائی جائیں وہ حلال ہیں۔

(۱۷۱۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا أَصَبَتْ مِنَ السَّبَايَا .

(۱۷۱۶۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت تیرے لئے حرام ہے البتہ وہ عورتیں جو قیدی بنا کر لائی جائیں وہ حلال ہیں۔

(۱۷۱۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نَزَلَتْ يَوْمَ أُوطَاسٍ .

(۱۷۱۶۶) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت یوم اوطاس کے دن نازل ہوئی۔

(۱۷۱۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ حَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا .

(۱۷۱۶۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت تیرے لئے حرام ہے سوائے باندیوں کے یعنی قیدی بنا کر لائی جانے والی

عورتوں کے۔

(۱۷۱۶۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ .

(۱۷۱۶۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۱۶۹) حَدَّثَنَا عُقْدَةُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الزَّوْنَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ

الزَّوْنَا ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةً عَبْدِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعُدُوِّ يُوْطَأْنَ إِذَا مَا سَبَيْتُ أَرْوَاجَهُنَّ .

(۱۷۱۶۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے

سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں

ہوں۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دشمن کی قیدی عورتوں سے اس صورت میں جماع کیا جاسکتا ہے جب ان کے خاندان بھی قید

کئے گئے ہوں۔

(۱۷۱۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : أَرْبَعٌ .

(۱۷۱۷۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایسی چار عورتیں رکھ سکتا ہے۔

(۱۷۱۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَرْبَعٌ .

(۱۷۱۷۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ایسی چار عورتیں رکھ سکتا ہے۔

(۱۷۱۷۲) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَرْوَاجِ .

(۱۷۱۷۲) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عورتیں

ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾

قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا .

(۱۷۱۷۳) حضرت عبداللہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت تجھ

پر حرام ہے سوائے اس کے جو تیری باندی ہو یا تو نے اسے خریدا ہو۔

(۱۷۱۷۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ .

(۱۷۱۷۴) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت

تیرے لئے حرام ہے سوائے تیری قیدی باندی کے۔

(۱۷۱۷۵) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مَكْحُولٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.

(۱۷۱۷۵) حضرت مکحول قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۷۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ، عَنْ أَبِي السُّودَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَا أَدْرِي، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: هِيَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ.

(۱۷۱۷۶) حضرت ابوالسوداء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر خاوند والی عورت ہے۔

(۱۷۱۷۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ: مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا.

(۱۷۱۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد تمام عورتیں ہیں سوائے ان خاوند والی عورتوں کے جنہیں قیدی بنایا گیا ہو۔

(۱۷۱۷۸) حَدَّثَنَا عُذْرَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ: الزَّوْنَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الزَّوْنَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الزَّوْنَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَرِيدَتَهُ امْرَأَةً عَبْدَهُ فَيَطُوقُهَا إِنْ شَاءَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبَايَا الْعُدُوِّ.

(۱۷۱۷۸) حضرت عطاء قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے جماع زنا ہے۔ حضرت مجاہد بھی اسے زنا قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مملوکہ عورتوں کے علاوہ کسی سے جماع کرنا زنا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دشمن کی قیدی عورتیں ہیں۔

(۱۷۱۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ أَهْلِ حُنَيْنٍ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُمْ قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ: السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

(۱۷۱۷۹) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حنین

والوں کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے حنین کو فتح فرمایا تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے قیدی لگے۔ جب کوئی مسلمان کسی قیدی عورت کے پاس جاتا تو وہ کہتی کہ میرا تو خاوند ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ اس سے مراد وہ قیدی عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(۱۷۱۸۰) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ نَهَى، عَنِ الزُّنَا. (۱۷۱۸۰) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں زنا سے منع کیا گیا ہے۔

(۱۷۱۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَارِقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: لَا تَعْرِفُنَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْزِ بِهَا الْعَبِيدَ. (۱۷۱۸۱) حضرت سعید بن مسیب قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دھوکہ کا شکار نہ ہو جانا۔ اس سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں۔

(۱۳۴) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)

قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۱۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمَشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

(۱۷۱۸۲) حضرت ابو رزین قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے صرف وہ مشرکہ عورتیں حلال ہیں جو تیری بنائی گئی ہوں یا تم ان کے مالک بن جاؤ۔

(۱۷۱۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ.

(۱۷۱۸۳) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں نہ کہ عیسائی اور کافر عورتیں۔

(۱۷۱۸۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ: نِسَاءَ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۷۱۸۴) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب کی عورتیں ہیں۔

(۱۷۱۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ : مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ .

(۱۷۱۸۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سبب کے بعد کی عورتیں مراد ہیں۔

(۱۷۱۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ حَتَّىٰ خْتَمَ الْآيَةَ﴾ . (طبری ۲۹- دارمی ۲۲۳۰)

(۱۷۱۸۶) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت ابی سے سوال کیا گیا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی سب ازواج انتقال کر جائیں تو کیا آپ کے لئے نکاح حلال ہوتا؟ حضرت ابی نے جواب دیا کہ کس چیز نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے لئے عورتوں کی ہر قسم کو حلال کیا ہے۔ وہ جس سے چاہتے شادی کر سکتے تھے پھر انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ﴾

(۱۷۱۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ . (ترمذی ۳۲۱۶- احمد ۴۱)

(۱۷۱۸۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وصال تک رسول اللہ ﷺ کے لئے سب عورتیں حلال تھیں۔

(۱۷۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِيَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ قَالَ : لَا تَبَدَّلُ بِيَهُنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ .

(۱۷۱۸۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِيَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ میں جن عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لانے کا حکم دیا جا رہا ہے ان سے یہودی اور عیسائی عورتیں مراد ہیں۔

(۱۷۱۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ . (۱۷۱۸۹) حضرت حکم قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب یا دیہاتی عورتیں ہیں۔

(۱۷۱۹۰) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السَّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِيَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا تَزَكَّتْ ، وَتَزَكَّتْ وَتَحْتَهُ تَسْعُ نِسْوَةٌ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ .

(۱۷۱۹۰) حضرت عبداللہ بن شداد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اگر نبی اپنی ازواج کو طلاق دے دیں تو ان عورتوں کو تبدیل کرنا حلال نہیں۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے تو رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی نکاح کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے نکاح میں نو عورتیں تھیں پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح فرمایا۔

(۱۷۱۹۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قَالَ : فَصَرَّهَ اللَّهُ عَلَى نَسَائِهِ التَّسْعِ اللَّائِي مَاتَ عَنْهِنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : فَأَخْبِرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : بَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ .

(۱۷۱۹۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان نو عورتوں پر محدود فرمایا جن کی موجودگی میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ کو اس کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی۔

(۱۳۵) فِي قَوْلِهِ (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً)

قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر

(۱۷۱۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً) لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ .
(۱۷۱۹۲) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زانی زانیہ سے ہی زنا کرتا ہے۔

(۱۷۱۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قَالَ : كَانَ يُقَالُ نَسَخْتُهَا الَّتِي بَعْدَهَا ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ أَيَّامَى الْمُسْلِمِينَ .

(۱۷۱۹۳) حضرت سعید بن مسیب قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ کی وجہ سے منسوخ ہے۔ اس سے مراد مسلمانوں کی بیوہ عورتیں ہیں۔

(۱۷۱۹۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ .
(۱۷۱۹۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ یا مشرکہ سے زنا کرتا ہے۔

(۱۷۱۹۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّ بَعَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

(۱۷۱۹۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں فاحشہ تھیں۔

(۱۷۱۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا .
(۱۷۱۹۶) حضرت عروہ قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں فاحشہ تھیں۔ ان کے مخصوص جھنڈے ہوتے تھے جن سے یہ پہچانی جاتی تھیں۔

(۱۷۱۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِيْنَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
(۱۷۱۹۷) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کی وہ عورتیں ہیں جو جسم فروشی کرتی تھیں۔

(۱۷۱۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ فِي قَوْلِهِ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قَالَ : لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلَهَا .
(۱۷۱۹۸) حضرت صحاح قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا زانیہ سے زنا کرتا ہے اور زنا کرنے والی زانی سے زنا کرتی ہے۔

(۱۷۱۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
(۱۷۱۹۹) حضرت سعید بن جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمَلْنَ عَلَى أَسْمَائِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَّاطِرَةِ ، يَأْتِيَهُنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ .
(۱۷۲۰۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کی فاحشہ عورتیں ہیں جن کے دروازوں پر موسیقی فروشوں کے مخصوص جھنڈے ہوتے تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ جھنڈوں کے ذریعے لوگوں کو ان کا پتہ چلتا تھا۔

(۱۷۲۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ .
(۱۷۲۰۱) حضرت عروہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا .
(۱۷۲۰۲) حضرت ابن عباس قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نکاح

سے مراد مباشرت ہے۔

(۱۷۲.۲) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .

(۱۷۲.۳) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زانیہ یا مشرک سے زانی اور مشرک ہی مباشرت کرتا ہے۔

(۱۷۲.۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَارِيُّ العُصْفَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيَنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصْبَنَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

(۱۷۲.۴) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں اسلام سے پہلے مکہ میں فاشی کا دھندہ کرتی تھیں۔ لوگ ان سے شادی کرتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو کچھ مسلمان مردوں نے بھی ان سے شادی کرنا چاہی تو رسول اللہ ﷺ نے ان عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا۔

(۱۷۲.۵) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَتَبَ . (۱۷۲.۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زانی کسی زانیہ یا مشرک سے ہی زنا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنایہ بیان فرمایا ہے۔

(۱۷۲.۶) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً) بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقِيلُ لِهِنَّ : هَذَا حَرَامٌ فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ .

(۱۷۲.۶) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت میں جسم فروشی کا پیشہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کو بتایا گیا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا۔

(۱۳۶) مَنْ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةٌ وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

وہ مرد جس پر حد جاری ہوئی وہ کسی ایسی عورت سے ہی نکاح کر سکتا ہے جس پر حد جاری

ہوئی یا کسی اور سے بھی کر سکتا ہے؟

(۱۷۲.۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَحَلَّ النَّسَاءُ لِلزَّانِيِ الزَّانِيَةَ قَالَ : وَسَأَلْتُ

الْحَسَنَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نُفْعِي فِي الْمُسْتَوْرِ وَلَكِنَّ الْمَحْدُودَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً .

(۱۷۲۰۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ زنا کار مرد کے لئے سب سے بہتر زانیہ ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم چھپے ہوئے کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے۔ البتہ حد کا شکار شخص صرف اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے جس پر حد جاری ہوئی ہو۔

(۱۷۲۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا ابْنَ أَبِي بَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۲۰۸) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس پر حد جاری ہوئی تھی اور اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس پر حد جاری نہیں ہوئی تھی تو حضرت علیؑ نے دونوں میں جدائی کرادی۔

(۱۷۲۰۹) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَحِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلَاةَ لَيْثِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزَّانَا فَارَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا .

(۱۷۲۰۹) حضرت عبد اللہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ بنو حارثہ کی ایک باندی پر حد زنا جاری ہوئی۔ ایک آدمی نے اس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا اس سے نکاح درست نہیں یہاں تک کہ تم بھی وہی عمل کرو جو اس نے کیا ہے۔

(۱۷۲۱۰) حَدَّثَنَا عُذْرَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا ارَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةً ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ ، فَاتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوَّجْهَا .

(۱۷۲۱۰) حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو بیٹی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو سوا کر دوں گی کیونکہ میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ آدمی حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے توبہ کر لی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ پھر اس کی شادی کرادے۔

(۱۳۷) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ زَوْجًا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور وہ کسی اور آدمی سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۲۱۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرَيْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَيْظِيَّ فَطَلَّقَنِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْيَةِ النَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تُرِيدِينَ

أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ. (بخاری ۲۶۳۹۔ مسلم ۱۱۱)

(۱۷۲۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی، وہ محض کپڑے کی جھال کی طرح تھے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا ”اگر تم رفاعہ کے نکاح میں واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ اس وقت تک درست نہیں جب تک تم دوسرے خاوند کا شہدہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا شہدہ نہ چکھ لے“

(۱۷۲۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرَ عُسَيْلَتِهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. (ابو داؤد ۲۳۰۳۔ احمد ۶/۳۲)

(۱۷۲۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا شوہر اس عورت کا شہدہ نہ چکھ لے اور عورت اس کا شہدہ نہ چکھ لے۔

(۱۷۲۱۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. (بخاری ۵۲۶۱۔ مسلم ۱۱۵)

(۱۷۲۱۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

(بخاری ۵۲۶۵۔ مسلم ۱۱۳)

(۱۷۲۱۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأُعْلِقَ الْبَابَ وَأَرَحَى السُّرْتَمَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. قَالَ وَكَيْعٌ بِأَخْرَجَ : رَزِينُ بْنُ سُلَيْمَانَ. (احمد ۲/۲۵۔ بیہقی ۳۷۵)

(۱۷۲۱۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی، اس نے دروازہ بند کیا اور پردہ ڈال لیا، پھر اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیا وہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں جب تک وہ دوسرے خاوند سے شادی کرنے کے بعد اس کا شہدہ نہ چکھ لے۔

(۱۷۲۱۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهْزَأَ بِهِ هَزِيئَ الْبِكْرِ ، قَالَ :

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ عَسَيْلَتُهُ.

(۱۷۲۱۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ باکرہ عورت کی طرح اسے بلانے لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا اس کا شہد اور عورت اس کا شہد نہ چکھے۔

(۱۷۲۱۷) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهِنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا .

(۱۷۲۱۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا اس سے جماع نہ کر لے اور اس سے دخول نہ کر لے۔

(۱۷۲۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي تَيْحَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ .

(۱۷۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرا اس سے جماع نہ کر لے۔ (۱۷۲۱۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشْفِشِفَهَا بِهِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : حَتَّى تَذُوقَ عَسَيْلَتُهُ .

(۱۷۲۱۹) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرا اس سے جماع نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس کا شہد نہ چکھے۔

(۱۷۲۲۰) حَدَّثَنَا الْأَشِيبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَتَّى تَذُوقَ عَسَيْلَتُهُ . (ابن جریر ۴۷۷)

(۱۷۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے کا شہد نہ چکھے۔

(۱۳۸) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ بَكْرًا وَثِيْبًا كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا؟

اگر آدمی باکرہ یا شیبہ عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس کتنا قیام کرے گا؟

(۱۷۲۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى أَمْرَائِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْيَتِيمَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ خَالِدٌ : قَالَ أَبُو قَلَابَةَ : أَمَا لَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ سَنَةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةٌ .

(بخاری ۵۲۱۳ - مسلم ۱۰۸۳)

(۱۷۲۲۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بیوی کی موجودگی میں کسی باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن ٹھہرے گا اور اگر ثیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن ٹھہرے گا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ حضور ﷺ کی طرف سے ہے یا یہ سنت ہے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن سیرین کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ باکرہ کے لئے تم نے چار دن اور ثیبہ کے لئے ایک دن زیادہ کر دیا۔

(۱۷۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَيْبِ ثَلَاثًا. (دارمی ۲۲۰۹۔ مسلم ۱۰۸۳)

(۱۷۲۲۲) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ باکرہ کے لئے سات دن اور ثیبہ کے لئے تین دن ہیں۔

(۱۷۲۲۳) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (دارمی ۲۲۰۹)

(۱۷۲۲۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۲۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سَفِيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي. (مسلم ۱۰۸۳۔ ابو داؤد ۲۱۱۵)

(۱۷۲۲۴) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا۔ پھر ان سے فرمایا کہ آپ کے لئے آپ کے اہل کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پاس سات دن رہوں اور اگر میں آپ کے پاس سات دن رہوں تو اپنی دوسری ازواج کے پاس بھی سات دن رہوں گا۔

(۱۷۲۲۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ: إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِعَبْرِكَ، قِيلَ لِلْحَكَمِ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ.

(۱۷۲۲۵) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا اور پھر ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پاس سات دن ٹھہر جاؤں اور اگر سات دن ٹھہرا تو دوسری ازواج کے پاس بھی سات دن ٹھہروں گا۔ حضرت حکم سے سوال لیا گیا کہ آپ کو یہ حدیث کس نے بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث اہل حجاز کے یہاں مشہور ہے۔

(۱۷۲۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ

عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا .

(۱۷۲۲۶) حضرت ابراہیم اور حضرت شعی فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیوی کی موجودگی میں کسی باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن قیام کرے۔ اور اگر ثیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے۔

(۱۷۲۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ .

(۱۷۲۲۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا وَلِلثَيْبِ لَيْتَيْنِ .

(۱۷۲۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی باکرہ کے پاس تین دن اور ثیبہ کے پاس دو راتیں ٹھہرے گا۔

(۱۷۲۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَلِلثَيْبِ لَيْتَيْنِ .

(۱۷۲۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی باکرہ کے پاس تین دن اور ثیبہ کے پاس دو راتیں ٹھہرے گا۔

(۱۷۲۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيُقِيمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ

أَقَامَ لَيْتَيْنِ ثُمَّ يُقِيمُ .

(۱۷۲۳۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ باکرہ کے پاس تین دن قیام کرے پھر تقسیم کرے اور ثیبہ سے شادی کے بعد اس کے پاس دو راتیں قیام کرے اور پھر تقسیم کرے۔

(۱۷۲۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَّغَهُ قَالَ : الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَالثَّيْبِ لَيْتَيْنِ .

(۱۷۲۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باکرہ کے لئے تین اور ثیبہ کے لئے دو راتیں ہیں۔

(۱۷۲۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زُمَعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَيْبِ ثَلَاثًا .

(۱۷۲۳۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ باکرہ کے لئے سات اور ثیبہ کے لئے تین راتیں ہیں۔

(۱۷۲۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَادٍ قَالَا : هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقُسْمِ .

(۱۷۲۳۳) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ باکرہ اور ثیبہ تقسیم میں برابر ہیں۔

(۱۷۲۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلَاسٍ

قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُقِيمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ لَيْتَيْنِ ثُمَّ يُقِيمُ .

(۱۷۲۳۴) حضرت حسن، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ جب بیوی کی موجودگی میں باکرہ سے شادی کی تو اس کے پاس تین دن قیام کرے، اور اگر ثیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس دو راتیں قیام کرے۔ پھر تقسیم کرے۔

(۱۷۲۳۵) حَدَّثَنَا بَرِيدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : مِنَ السَّنَةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَيْبِ ثَلَاثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ

الْحَسَنُ : سَبْعًا وَلَيْتَيْنِ .

(۱۷۲۳۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ باکرہ کے پاس سات دن اور ثیبہ کے پاس تین دن قیام کرے۔
حضرت حسن سات اور دوراتوں کی تقسیم کے قائل تھے۔

(۱۳۹) فی المستحاضة، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجَهَا

جن حضرات کے نزدیک مستحاضہ سے وطی کرنا مکروہ ہے

(۱۷۲۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّرَّادِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۳۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مستحاضہ کا خاوند اس سے جماع نہ کرے۔

(۱۷۲۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۳۷) حضرت ابراہیم مستحاضہ بیوی سے وطی کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۱۷۲۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

(۱۷۲۳۸) حضرت محمد مستحاضہ بیوی سے وطی کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۱۷۲۳۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَا يَغْشَاهَا وَلَا تَصُومُ .

(۱۷۲۳۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاوند اس سے وطی نہ کرے گا اور وہ روزہ بھی نہ رکھے گی۔

(۱۷۲۴۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۴۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مستحاضہ نہ روزہ رکھے اور نہ اس کا خاوند اس سے جماع کرے۔

(۱۷۲۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ : مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا .

(۱۷۲۴۱) حضرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن یسار سے سوال کیا کہ کیا مستحاضہ کا خاوند اس سے جماع کر سکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہم نے اس بارے میں سنا ہے۔

(۱۴۰) مَنْ قَالَ يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا

جن حضرات کے نزدیک مستحاضہ کا خاوند اس سے جماع کر سکتا ہے

(۱۷۲۴۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۴۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاوند اس سے وطی کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۴۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ : إِذَا سَكَّتُ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلْتُ وَصَلَّتُ وَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَطَهَّرَ ، فَقَالَ : بِنَسِ مَا قَالَ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً .

(۱۷۲۴۳) ایک مرتبہ حججاج نے بیان کیا کہ جب عورت کو حیض کا شک ہو تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے اور اس کا خاندان اس کے قریب اس وقت تک نہ جائے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ اس نے بدترین بات کی ہے کیونکہ نماز زیادہ احترام والی چیز ہے۔

(۱۷۲۴۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۴۴) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۴۵) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۴۵) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۴۶) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ .

(۱۷۲۴۶) حضرت زہریؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اگر چاہے اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۴۷) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ .

(۱۷۲۴۷) حضرت حمادؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے اور وہ روزہ بھی رکھے گی۔

(۱۷۲۴۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ : يَأْتِيهَا ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً .

(۱۷۲۴۸) حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔ اور نماز زیادہ حرمت والی چیز ہے۔

(۱۷۲۴۹) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۴۹) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی اور مناسک ادا کرے گی اور اس کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۵۰) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی اور اس کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۲۵۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَعْصَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .

(۱۷۲۵۱) حضرت ابو جعفرؓ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا خاندان اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۶۱) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)

قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر

(۱۷۲۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوْجُ يَعْنِي ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ .

(۱۷۲۵۲) حضرت شریح قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۵۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ تَرَدُّدُ الْمَرْأَةِ سَطْرَهَا ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اِتِّمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقِ كُلَّهُ .

(۱۷۲۵۴) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنا حصہ لوٹا دے۔ ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ خاوند پورا پورا امہرا کر دے۔

(۱۷۲۵۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّخَّاءِ قَالُوا : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۵۵) حضرت ابراہیم، حضرت شریح، حضرت شعبی، حضرت شریح و جویر، عَنِ الصَّخَّاءِ قَالُوا : هُوَ الزَّوْجُ سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُعْفَوْهُ فَيَلَا تَأْخُذُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

(۱۷۲۵۶) حضرت سعید بن مسیب قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اگر عورت چاہے تو مہر معاف کر دے اور کچھ بھی نہ لے اور اگر چاہے تو آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔

(۱۷۲۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَاتَمَّ لَهَا الصَّدَاقُ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .

(۱۷۲۵۷) حضرت نافع بن جبیر نے عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی اور اسے پورا مہر دیا اور فرمایا کہ میں زیادہ دینے کا زیادہ حق دار ہوں۔

(۱۷۲۵۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطَى مَا عِنْدَهُ عَفْوًا .

(۱۷۲۵۸) حضرت محمد بن کعب قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ وہ زیادہ دے سکتا ہے۔

(۱۷۲۵۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفَوْا﴾ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُو ، عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يُعْفَوْا زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ .

(۱۷۲۵۹) حضرت نافع قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور وہ عورت جسے اس کا خاوند دخول سے پہلے طلاق دے تو عورت چاہے تو آدھا مہر معاف کر دے اور اگر آدمی چاہے تو باقی ماندہ آدھا مہر دے کر پورا مہر ہی دے۔

(۱۷۲۶۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۰) حضرت شریح قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۱) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ : هُوَ الزَّوْجُ ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرَّحَا حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا .

(۱۷۲۶۲) حضرت طاووس اور حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس بارے میں حضرت سعید سے بات کی اور دونوں حضرت سعید کے نکتہ نظر کے قائل ہو گئے۔

(۱۷۲۶۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۳) حضرت سعید قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۵) حضرت کعب قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۷) حضرت شریح قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۸) حضرت شریح قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۶۹) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنِ الصَّحَّاحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۶۹) حضرت صحاح قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۷۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ : الزَّوْجُ .

(۱۷۲۷۰) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۷۲۷۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْجُ .

(۱۷۲۷۱) حضرت جبیر اور حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

(۱۴۲) مَنْ قَالَ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الْوَلِيُّ

جو حضرات قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں

کہ اس سے مراد ولی ہے

(۱۷۲۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۲) حضرت عطاء قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ يَعْضُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۳) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۴) حضرت علقمہ قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُعَمَّرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۵) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۶) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُعَمَّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ .

(۱۴۲۴۷) حضرت زہری قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد باپ ہے۔

(۱۷۲۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ .

(۱۴۲۴۸) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۱۷۲۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْضُونَ﴾ قَالَ : النِّسَاءُ ﴿أَوْ يَعْضُوا الَّذِي بِيَدِهِ

عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وَوَلِيُّ الْبُكْرِ .

(۱۴۲۴۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْضُونَ﴾ سے مراد شیعہ عورتیں ہیں اور ﴿أَوْ يَعْضُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ﴾ سے مراد باکرہ کا ولی ہے۔

(۱۷۲۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَضِيَ اللَّهُ

بِالْعَفْوِ وَأَمْرٍ بِهِ فَإِنْ عَفَّتْ عَفَّتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَّا وَلِيَّهَا جَارٌ ، وَإِنْ أَبَتْ .

(۱۷۲۸۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زائد دینے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت معاف کر دے تو معاف ہوگا اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کا ولی معاف کر سکتا ہے، ولی کا معاف کرنا جاری ہوگا خواہ عورت انکاری کرے۔

(۱۴۳) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)

قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ کی تفسیر

(۱۷۲۸۱) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَ : الْكُفَّةُ وَرُقْعَةُ الْوُجْهِ .

(۱۷۲۸۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہتھیلیاں اور چہرہ ہے۔

(۱۷۲۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ : النِّيَابُ .

(۱۷۲۸۲) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔

(۱۷۲۸۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَعِكرِمَةَ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَ : الْكُحْلُ وَالْحَاتِمُ وَالنِّيَابُ .

(۱۷۲۸۳) حضرت ابو صالح اور حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرمہ، انگوٹھی اور کپڑے ہیں۔

(۱۷۲۸۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَ : مَا فَوْقَ الدَّرْعِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

(۱۷۲۸۴) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو چادر کے اوپر ہے۔ البتہ جو ظاہر ہو اس کی گنجائش ہے۔

(۱۷۲۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : قَالَ : النِّيَابُ .

(۱۷۲۸۵) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔

(۱۷۲۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ، الْكُحْلُ وَالنِّيَابُ .

(۱۷۲۸۶) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے اور سرمہ ہیں۔

(۱۷۲۸۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ شَيْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْقَلْبُ وَالْفُتْحَةُ .

(۱۷۲۸۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کنگن اور انگوٹھی ہیں۔

(۱۷۲۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَاهَانَ : اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ .

(۱۷۲۸۸) حضرت ماہان قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔

(۱۷۲۸۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَلْحَسَنِ قَالَ : الْوُجْهُ وَالثِّيَابُ .

(۱۷۲۸۹) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے اور چہرہ ہیں۔

(۱۷۲۹۰) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَلْعَازِ قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوُجْهُ وَالْكَفَّانُ .

(۱۷۲۹۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ظاہری زینت چہرہ اور تھیلیاں ہیں۔

(۱۷۲۹۱) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَلْعَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ : الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِصَابُ وَالْكَحْلُ .

(۱۷۲۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ظاہری زینت خضاب اور سرمہ ہیں۔

(۱۷۲۹۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُوْلًا يَقُولُ : الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوُجْهُ وَالْكَفَّانُ .

(۱۷۲۹۲) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ظاہری زینت چہرہ اور تھیلیاں ہیں۔

(۱۷۲۹۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مُسْعِرٍ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِي الْاُحْوَصِ قَالَ : الثِّيَابُ .

(۱۷۲۹۳) حضرت ابوالاحوص قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔

(۱۷۲۹۴) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الْحَاتَمُ وَالْخِصَابُ وَالْكَحْلُ .

(۱۷۲۹۴) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔

سے مراد انگوٹھی، خضاب اور سرمہ ہیں۔

(۱۷۲۹۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.

(۱۷۲۹۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خضاب اور سرمہ ہیں۔

(۱۷۲۹۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الزَّيْنَةُ زِينَتَانِ: زَيْنَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزَيْنَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ، وَأَمَّا الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ فَالْيَابُ، وَأَمَّا الزَّيْنَةُ البَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسَّوَارُ وَالْخَاتَمُ.

(۱۷۲۹۶) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی زینت ہے۔ باطنی زینت تو شوہر کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ظاہری زینت کپڑے ہیں۔ اور باطنی زینت سرمہ، کنگن اور انگوٹھی ہیں۔

(۱۷۲۹۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: وَجْهَهَا وَكَفَّهَا.

(۱۷۲۹۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

(۱۷۲۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَفَّهَا وَوَجْهَهَا.

(۱۷۲۹۸) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

(۱۷۲۹۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.

(۱۷۲۹۹) حضرت عبدالوارث قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہتھیلی اور انگوٹھی ہیں۔

(۱۷۳۰۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: الْوَجْهُ وَتُفْرَةُ النَّحْرِ.

(۱۷۳۰۰) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور طلق کا بانساہیں۔

(۱۶۴) فِي الرِّضَاعِ مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُهُ الرِّضْعَتَانِ وَلَا الرِّضْعَةُ

رضاعت کا بیان: جن حضرات کے نزدیک ایک یا دو چسکیاں لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

(۱۷۳۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ

الْفُضْلِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .

(مسلم ۱۸- احمد ۶/۳۳۹)

(۱۷۳۰۱) حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پینے سے یا ایک یا دو چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (ابن حبان ۴۲۲۵- احمد ۳/۴)

(۱۷۳۰۲) حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک یا دو چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۰۳) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. (بخاری ۵۱۰۲- مسلم ۳۲)

(۱۷۳۰۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت تب ثابت ہوتی ہے جب خوب پیٹ بھر کر بچہ دودھ پیئے۔

(۱۷۳۰۴) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَا تُحْرَمُ الْغُبْقَانِ وَلَا الْغُبْقَانِ.

(بیہقی ۳۵۷)

(۱۷۳۰۴) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ.

(۱۷۳۰۵) حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے رضاعت کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک، دو یا تین چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۰۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَيْدِ قَالَ: لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ.

(۱۷۳۰۶) حضرت زید فرماتے ہیں کہ ایک یا دو چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: يُحْرَمُ مِنْهُ مَا فَتَقَّ الْأَمْعَاءَ.

(۱۷۳۰۷) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ حرمت اتنے دودھ سے ثابت ہوتی ہے جس سے آنتیں سیراب ہو جائیں۔

(۱۷۳۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا يُحْرَمُ مِنْ

الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ.

(۱۷۳۰۸) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس سے گوشت بنے اور ہڈی تو اتا ہو۔

(۱۷۳۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا يُحْرَمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْدَّمَ.

(۱۷۳۰۹) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے دودھ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس سے گوشت اور خون بنے۔

(۱۷۳۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ

فَارْضِعَ فَأَمَرَتْ أُمَّ كَلْثُومَ أَنْ تَرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَارْضَعْتُهُ ثَلَاثًا فَمَرَضَتْ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا

وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تَرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فَارْضَعْتُهُ فَكَانَ يَدْخُلُ

عَلَيْهَا. (عبدالرزاق ۱۳۹۲۹)

(۱۷۳۱۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب کسی بچے کے بارے میں یہ ارادہ ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ان سے

ملاقات کے لئے آسکے تو اپنی کسی عزیزہ خاتون کو حکم دیتی کہ وہ اسے دودھ پلا دیں۔ (تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی رضاعی خالہ یا

پھوپھی بن جائیں) اس سلسلے میں انہوں نے (اپنی بہن) حضرت ام کلثوم کو حکم دیا کہ وہ حضرت سالم کو (جبکہ وہ بچے تھے) دس

چسکیاں پلائیں، (تاکہ سالم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھانجے بن جائیں) انہوں نے انہیں تین چسکیاں پلائیں اور وہ بیمار

ہو گئیں، لہذا وہ بڑے ہو کر ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ اسی طرح (حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا) نے فاطمہ بنت عمر کو حکم دیا کہ

عاصم ابن سعد کو (جبکہ وہ بچے تھے) دس چسکیاں پلائیں (تاکہ عاصم بن سعد ان کے رضاعی بھانجے بن جائیں) چنانچہ انہوں نے

اس طرح کیا تو وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔

(۱۷۳۱۱) مِنْ قَالَ يُحْرَمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

جن حضرات کے نزدیک تھوڑا یا زیادہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے

(۱۷۳۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ، عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ

عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ.

(۱۷۳۱۱) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو خط لکھا کہ وہ مجھے حرمت رضاعت کو ثابت کرنے والے دودھ کے

متعلق بتا دیں۔ تو انہوں نے میری طرف خط لکھا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رضاعت تھوڑی ہو یا

زیادہ اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۳۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُحْرَمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحْرَمُ كَثِيرُهُ،

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.

(۱۷۳۱۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تھوڑے یا زیادہ دودھ سے حرمتِ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول مجھے زیادہ پسند ہے۔

(۱۷۳۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفِيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُوَيْلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرَضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَقَا الصَّبِيَّ حَرَمَتْ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتْ .

(۱۷۳۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر عورت کسی بچے کو ایک چسکی دودھ پلائے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بچے نے منہ لگا لیا تو وہ عورت اور اس کی بیٹیاں اس کے لئے حرام ہو گئیں۔

(۱۷۳۱۴) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرُّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحْرِمُ .

(۱۷۳۱۴) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ پہلے حرمتِ رضاعت کے لئے دس چسکیوں کی شرط تھی، پھر کہا گیا کہ ایک چسکی سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۳۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : الْحَكْمُ وَحَمَادٌ قَالَا : الْمَصَّةُ تُحْرِمُ .

(۱۷۳۱۵) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ایک چسکی سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۳۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : الْمَرْءُ الْوَاحِدَةَ تُحْرِمُ .

(۱۷۳۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چسکی سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۳۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍ ، فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةَ تُحْرِمُ .

(۱۷۳۱۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چسکی سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۳۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحْرَمُ قَلِيلُ الرُّضَاعِ وَكَثِيرُهُ .

(۱۷۳۱۸) بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ دودھ تھوڑا ہیے یا زیادہ حرمتِ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

(۱۴۴) مَا قَالُوا فِي الرُّضَاعِ ، يَحْرَمُ مِنْهُ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں

(۱۷۳۱۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ وَإِنَّهُ

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . (بخاری ۲۶۳۵۔ مسلم ۱۳)

(۱۷۳۱۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے فرمائش کی گئی کہ آپ حضرت حمزہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضاعی بہن ہیں اور جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۳۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقَ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعَانَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، ابْنَةُ حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ . (مسلم ۱۱۔ احمد ۸۲ / ۱)

(۱۷۳۲۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ آپ قریش میں شادی کی رغبت رکھتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی خاتون ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں، کیونکہ وہ میری رضاعی بہن ہیں۔

(۱۷۳۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَمْلَحُ بْنُ أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكَ فَأَذْنِي لَهُ قَالَتْ : إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَرْضَعْنِي الرَّجُلُ قَالَ : تَرَبَّتْ يَدَاكَ ، أَوْ يَمِينُكَ . (مسلم ۱۰۶۹۔ ابن ماجہ ۱۹۳۸)

(۱۷۳۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس میرے رضاعی چچا امح بن ابی القعیس آئے۔ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں، تم انہیں ملاقات کی اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے دودھ نہیں پلایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے عجیب بات کہی ہے۔

(۱۷۳۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتْ : فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنْتَ تَحْتَضِبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَيْبِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ .

(بخاری ۵۱۰۶۔ مسلم ۱۰۷۲)

(۱۷۳۲۲) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ میری بہن یعنی ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔ حضرت ام

حیبہ نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے درہ بنت ابی سلمہ کے لئے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا کہ ابو سلمہ کی بیٹی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! اگر وہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تو میرے لئے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میری رضاعی بہتیجی ہے۔ مجھے اور اس کے والد کو ثیبہ نے دودھ پلایا ہے۔ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کی دعوت نہ دو۔

(۱۷۲۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

(۱۷۲۲۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب یہ تھا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۲۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ أَحَبَّكَ وَلَا امْرَأَةٌ أَبَيْكَ وَلَا امْرَأَةٌ ابْنِكَ .

(۱۷۲۲۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت سے شادی نہ کرو جسے تمہارے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہو، نہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرو اور نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرو۔

(۱۷۲۲۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

(۱۷۲۲۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

(۱۷۲۲۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۲۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أَرَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

(۱۷۲۲۷) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۲۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . (مسلم ۹۔ ابن ماجہ ۱۹۳۷)

(۱۷۲۲۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۲۲۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُؤدَةَ بِنْتَ غَفَلَةَ

يَقُولُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

(۱۷۲۲۹) حضرت سویدہ بنت غافلہ فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱۷۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . (بخاری ۴۲۵۱)

(۱۷۳۳۰) حضرت براء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔ وہ میری رضاعی بہن ہے۔

(۱۴۷) مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

جن حضرات کے نزدیک صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو

(۱۷۳۳۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

(۱۷۳۳۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو۔

(۱۷۳۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

(۱۷۳۳۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو۔

(۱۷۳۳۳) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ : لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

(۱۷۳۳۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو۔

(۱۷۳۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

(۱۷۳۳۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو۔

(۱۷۳۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ .

(۱۷۳۳۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو اس کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصَّغْرِ .

(۱۷۳۳۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔

(۱۷۳۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ .

(۱۷۳۳۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو اس کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ .

(۱۷۳۳۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو اس کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلْمَةَ ، عَنِ الرِّضَاعِ ، فَقَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمُهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ .

(۱۷۳۳۹) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رضاعت صرف اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کہ بچہ گود میں ہو اور اس کا دودھ چھڑوا یا نہ گیا ہو۔

(۱۷۳۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرِّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي التَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ .

(۱۷۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رضاعت اتنا دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو انتڑیوں کو سیراب کر دے۔ اور بچے کا دودھ چھڑانے سے پہلے چھاتی میں ہو۔

(۱۷۳۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ .

(۱۷۳۴۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۳۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ .

(۱۷۳۴۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۳۴۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرَضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لَا تَسْقِيهِ دَاءَكَ .

(۱۷۳۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کو دو سال کے بعد دودھ پلا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ اسے اپنی بیماری مت پلاؤ۔

(۱۷۳۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ .

(۱۷۳۴۴) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو اس کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(۱۷۳۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصَّغْرِ .

(۱۷۳۱۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حرمتِ رضاعت صرف بچپن میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔

(۱۷۳۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتِ اللَّحْمَ وَاللِّدْمَ .

(۱۷۳۱۶) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب بچے کو بچپن میں دودھ پلایا جائے اور جس کی مقدار اتنی ہو جس سے گوشت اور خون بنے۔

(۱۷۳۱۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ ، أَوْ سَعُوْطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ .

(۱۷۳۱۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ دو سال کے اندر دودھ پلایا جائے تو حرمتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

۱۴۸) فی نکاح المتعة

نکاح متعہ کا بیان

(۱۷۳۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟ .

(بخاری ۳۲۱۶۔ مسلم ۲۹)

(۱۷۳۱۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعہ سے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے؟

(۱۷۳۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجَهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . (مسلم ۲۶۔ ابوداؤد ۲۰۶۲)

(۱۷۳۱۹) حضرت برہہ جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن متعہ سے منع فرمادیا۔

(۱۷۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ ، إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .

(مسلم ۲۵۔ ابن ماجہ ۱۹۶۲)

(۱۷۳۵۰) حضرت سبرہ جعفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ رکن اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے تھے اور فرما رہے تھے: ”اے لوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا ہے، اگر کسی کے پاس متعہ والی بیوی ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو مہتر تم نے انہیں دیا ہے وہ واپس نہ لو۔

(۱۷۳۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُؤَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

(مسلم ۱۸- احمد ۵۵/۳)

(۱۷۳۵۱) حضرت ایاس بن سلمہ کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اوطاس والے سال میں متعہ کی اجازت دی تھی، پھر اس سے منع فرمادیا۔

(۱۷۳۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ يَعْنِي الْمُتْعَةَ.

(۱۷۳۵۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں متعہ کرنے والوں کو سنگسار کرنے کا حکم دوں گا۔

(۱۷۳۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: نَهَى عُمَرُ، عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ.

(۱۷۳۵۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو متعوں: متعہ النساء اور متعہ الحج سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۳۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السَّفَاحَ.

(۱۷۳۵۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اسے بے حیائی ہی سمجھتے ہیں۔

(۱۷۳۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: فَهَلَّا تَرْمِزُ مَبْهَأَ فِي زَمَانِ عُمَرَ.

(۱۷۳۵۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے بارے میں بلند آواز سے اعلان کیوں نہیں کرتے تھے۔

(۱۷۳۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ عُمَرَ، لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى، عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزَّانَا جَهَارًا.

(۱۷۳۵۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اگر وہ متعہ سے منع نہ کرتے تو زنا

سرعام ہوا کرتا۔

(۱۷۲۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذِنْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ . (عبدالرزاق ۱۳۰۳۰)

(۱۷۳۵۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! متعہ صرف تین دن کے لئے جائز تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت دی تھی، متعہ نہ تو اس سے پہلے جائز تھا نہ اس کے بعد کبھی جائز ہوا۔

(۱۷۳۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ ذُؤَيْبٍ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الذُّنْبَ يَكْنَىٰ أَبَا جَعْدَةَ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الرِّئَاءُ .

(۱۷۳۵۸) حضرت ابن ذؤیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بھیڑیے کی کنیت ابو جعدہ ہے اور متعہ رنہ ہے۔

(۱۷۳۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ طَاوُوسٍ قَالَ : كَانَتْ سَنَةُ الْمُتْعَةِ سَنَةَ النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيَّدِيهِنَّ .

(۱۷۳۵۹) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متعہ کا طریقہ نکاح والا تھا لیکن اس میں مدت عورتوں کے اختیار میں ہوتی تھی۔

(۱۷۳۶۰) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أُتِيْتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَبَرَجْمْتُهُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ضَرَبْتُهُ .

(۱۷۳۶۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا جائے جس نے کسی عورت سے متعہ کیا ہو، اگر وہ شادی شدہ ہو تو میں اسے سنگسار کروں گا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو میں اسے کوڑے لگواؤں گا۔

(۱۷۳۶۱) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الرِّئَاءُ .

(۱۷۳۶۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے کسی مخصوص مدت تک کے لئے شادی کرنا زنا ہے۔

(۱۷۳۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَسْتَحْصِي ؟ قَالَ : لَا تَمَّ رَحْصٌ لَنَا أَنْ نُنَكِّحَ الْمَرْأَةَ بِالثُّوبِ إِلَىٰ الْأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .

(۱۷۳۶۲) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنی جوانی کے دور میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہم نے (شدت شہوت) سے تنگ آ کر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم خود کو حسی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، پھر آپ نے ہمیں رخصت دے دی کہ ہم عورت سے کپڑے کے بدلے ایک خاص مدت تک کے لئے نکاح کر لیں۔ پھر حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ

نے یہ آیت پڑھی: (ترجمہ) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کرو۔

(۱۴۹) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيَحِلَّهَا لَهُ

ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور دوسرا آدمی اس سے اس لئے شادی کرے

تا کہ وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے۔ اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۷۳۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أَوْتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا .

(۱۷۳۶۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا لایا گیا یا وہ شخص لایا گیا جس کے لئے حلالہ کیا گیا تھا تو میں انہیں سنگسار کروں گا۔

(۱۷۳۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ .

(۱۷۳۶۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے، حلالہ کرانے والے اور حلالہ کی جانے والی عورت سب پر لعنت فرمائی ہے۔

(۱۷۳۶۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السَّفَاحُ ، كَوُ ادَّرَاكُمْ عَمْرُ لَنَكَلِكُمْ .

(۱۷۳۶۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہوتے تو تمہیں اس عمل پر عبرت کا نشان بنا دیتے۔

(۱۷۳۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ أَبِي شَهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : الْمُحَلَّلُ مَلْعُونٌ .

(۱۷۳۶۶) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا ملعون ہے۔

(۱۷۳۶۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ .

(۱۷۳۶۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تینوں میں سے ایک کا ارادہ طلاق کا ہو تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔

(۱۷۳۶۸) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيَحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ

الْحَكَمُ : بِمُسِيكَيْهَا وَقَالَ حَمَادٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا .

(۱۷۳۶۸) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے عورت سے اس لئے شادی کی کہ وہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ اسے اپنے پاس روک رکھے۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس سے جدا ہو جانا بہتر ہے۔

(۱۷۳۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا .

(۱۷۳۶۹) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں جس نے کسی عورت سے اس لئے شادی کی تاکہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرے، حالانکہ وہ اس بات کو نہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر صرف حلال کرنے کے لئے شادی کی ہے تو یہ درست نہیں۔

(۱۷۳۷۰) حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لِعِنِّ الْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ لَهُ .

(۱۷۳۷۰) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حلال کرنے والے اور جس کے لئے حلال کرایا جائے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔

(۱۷۳۷۱) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ لَهُ . (ترمذی ۱۸۲۰۔ احمد ۱/۳۶۲)

(۱۷۳۷۱) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حلال کرنے والے اور جس کے لئے حلال کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

(۱۷۳۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ لَهُ . (ابوداؤد ۲۰۷۰۔ احمد ۱/۸۳)

(۱۷۳۷۲) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حلال کرنے والے اور جس کے لئے حلال کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

(۱۷۳۷۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا بِهِ لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَعِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَعِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَدُوقَ الْعُسَيْلَةَ .

(۱۷۳۷۳) حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر دیہات سے ایک آدمی آئے جو نہ مرد کو جانتا ہو اور نہ عورت کو، وہ اپنا کچھ مال نکالے اور عورت سے اس بنیاد پر شادی کرے کہ عورت کو مرد کے لئے حلال کرے تو یہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ درست نہیں۔ حضور ﷺ سے یہی سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ درست نہیں۔ اس سے اپنے نفس کی چاہت کے بغیر نکاح نہ کرے، اس سے اپنے نفس کی چاہت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا

کیا تو عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک آدمی عورت کا شہد نہ چکھ لے۔

(۱۷۳۷۴) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَدِمُّ وَنَدِمْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقُهَا صِدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلُ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَطْلُقُهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا، قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلَا تَكُونَنَّ مِثْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللَّهِ.

(۱۷۳۷۴) حضرت عباد بن منصور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری قوم کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، پھر اسے اور اس کی بیوی کو اس پر افسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس عورت سے شادی کروں، اسے اس کا مہر دوں، پھر اس سے شرعی ملاقات کروں اور پھر اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے، یہ کرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان! اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پا مال نہ کرو۔

(۱۷۳۷۵) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَلَّ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ.

(ترمذی ۳۳۷۷ - احمد ۳۲۳ / ۲)

(۱۷۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

(۱۵۰) فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بَيْسِيرٍ مِنْ قَالَ قَدْ حَلَّتْ

اگر حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو جن حضرات کے نزدیک بچے کو جنم دینے سے

عدت پوری ہو جائے گی

(۱۷۳۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَصَعْتُ سَبْعَةَ بَنَاتٍ الْحَارِثِ حَمَلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَشَوَّقَتْ فَوَعِبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ تَفَعَّلَ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا.

(طبرانی ۸۹۶ - دارمی ۲۲۸۱)

(۱۷۳۷۶) حضرت ابوسناہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بے حارث نے اپنے خاوند کی وفات کے بیس اور کچھ دن بعد بچے کو جنم دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئیں تو انہوں نے زیب و زینت اختیار کر لی۔ انہیں اس بات پر برا بھلا کہا گیا، جب اس بات کا

حضور ﷺ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عدت زریجی ہے۔

(۱۷۳۷۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَنَدَا كَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بَيْسِيرٌ فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجْلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يُعْنَى أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سُبُعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَوْجَهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يَكْتُمِي أَبَا السَّنَابِلِ خَطْبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إِنَّكَ لَمْ تَحْلِينَ لَفَدَّكَ سُبُعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، (مسلم ۱۴۲ - ترمذی ۱۱۴۳)

(۱۷۳۷۷) حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ایک مجلس میں تھے۔ ہمارے درمیان مذاکرہ ہوا کہ اگر ایک عورت کا خاوند مر جائے اور وہ عورت خاوند کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد بچے کو جنم دے تو اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ وضع حمل اور چار مہینے دس دن میں سے جو زیادہ ہو وہ اس کی عدت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے غلام کریم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مسئلے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند کی وفات کے چالیس دن بعد بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بنو عبدالدار کے ایک آدمی جن کی کنیت ابوسناہل تھی انہوں نے سبیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا اور ان سے کہا کہ آپ کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ سبیعہ نے کسی اور سے نکاح کا ارادہ کیا تو ابوسناہل نے کہا کہ تمہاری عدت مکمل نہیں ہوئی۔ سبیعہ نے اس بات کا حضور ﷺ سے تذکرہ کیا تو آپ نے انہیں شادی کرنے کی اجازت دے دی۔

(۱۷۳۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَوَّرِ أَنَّ سُبُعَةَ أَنْ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَوْجَهَا بِشَهْرٍ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ . (بخاری ۵۳۲۰ - احمد ۳ / ۳۲۷)

(۱۷۳۷۸) حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبیعہ نے اپنے خاوند کی وفات کے ایک مہینے بعد بچے کو جنم دیا تو حضور ﷺ نے انہیں شادی کی اجازت دے دی۔

(۱۷۳۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ .

(۱۷۳۷۹) ایک انصاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بیان کیا کہ میں نے آپ کے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند مرنے کے بعد جنازے کی چار پائی پر ہو اور عورت بچے کو جنم دے تو اس عورت کی عدت مکمل ہوگی۔

(۱۷۳۸۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالًا : إِذَا وَصَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ .

(۱۷۳۸۰) حضرت عمرو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب خاوند کفن میں ملبوس گھر میں پڑا ہو اور اس کی بیوی بچے کو جنم دے دے تو عدت مکمل ہوگئی۔

(۱۷۳۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قَدْ حَلَّتْ وَقَالَ عَلِيُّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَبِيسًا قَالَ عَلِيُّ : فَأَجِرُ الْأَجْلِينَ قَالَ عُمَرُ : لَوْ وَصَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ نَعَشِيهِ لَمْ يَدْخُلْ حَفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ .

(۱۷۳۸۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بچے کو جنم دیتے ہی عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ اگر عورت ایسی عمر کو پہنچ چکی ہو جس میں حمل اور ولادت کا تصور نہیں ہوتا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں میں سے زیادہ طویل مدت عدت کی مدت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حاملہ کے خاوند کی نعش کو قبر میں نہ اتارا گیا ہو اور وہ بچے کو جنم دے دے تو اس عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔

(۱۷۳۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقِاسَمَتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (ابو داؤد ۲۳۰۱۔ ابن ماجہ ۲۰۳۰)

(۱۷۳۸۲) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ النساء (سورۃ الطلاق) جس میں عدت کے وضع حمل ہونے کا تذکرہ ہے) قرآن مجید کی آیت ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ کے بعد نازل ہوئی ہے۔

(۱۷۳۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إِذَا وَصَعَتْ حَلَّتْ

(۱۷۳۸۳) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو بچہ جنتے ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔

(۱۷۳۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ تَوَفَّى عَنْهَا فَإِنَّ أَجْلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا .

(۱۷۳۸۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حاملہ کو طلاق دے دے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔

(۱۷۳۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِيُّ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلِينَ .

(۱۷۳۸۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ مدت اس کی عدت ہوگی۔

(۱۷۳۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلِينَ .

(۱۷۳۸۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ مدت اس کی عدت ہوگی۔

(۱۷۳۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ أَبِي بَنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِدَّةَ مَنْ عِدِدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، الصَّغَارُ وَالْكَبَارُ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ . (حاکم ۳۹۲۔ ابن جریر ۱۳۱)

(۱۷۳۸۷) حضرت عمرو بن سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ کچھ عورتوں کی عدت قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴)۔

(۱۷۳۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلِينَ قَالَ : فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضَمَرْتُ لِي أَصْحَابَهُ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ .

(بخاری ۴۵۳۲۔ نسائی ۵۷۱۵)

(۱۷۳۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حاملہ کی عدت دونوں میں سے زیادہ طویل مدت ہے۔ اس پر میں نے حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عبثہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی تو ان کے شاگرد مجھے گھورنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عبثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب کہ انہوں نے مسجد کے ایک گوشے میں اس کو بیان کیا۔

(۱۷۳۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلِينَ .

(۱۷۳۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت دونوں مدتوں میں سے زیادہ ہے۔

(۱۷۳۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعْتُ سَبْعَةَ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجَهَا بَعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَعْتَ لِلْأَزْوَاجِ؟ لَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتَ لِلْأَزْوَاجِ. (بخاری ۵۳۱۹۔ بیہقی ۴۱۹)

(۱۷۳۹۰) حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کی وفات کے بیس دن یا ایک مہینہ بعد بچے کو جنم دیا۔ ان کے یہاں ابوسناہل بن بعلک رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم شادی کے لئے تیار ہو؟ چار مہینے دس دن تک شادی نہ کرنا۔ وہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور ساری بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم شوہروں کے لئے حلال ہو۔

(۱۷۳۹۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبْتَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سَبْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجَهَا بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ، فَقَالَ: قَدْ أُسْرِعْتَ، اعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَاخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي. (بخاری ۵۳۱۹۔ مسلم ۱۱۲۲)

(۱۷۳۹۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عبّتہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور ان کے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے پچیس دن بعد بچے کو جنم دیا تھا۔ پھر وہ خیر کی تلاش میں تیار ہو گئیں۔ ابوسناہل بن بعلک رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی، دونوں مدتوں میں سے زیادہ طویل مدت کو گزارو یعنی چار مہینے دس دن۔ پھر وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے لئے دعاء مغفرت فرمادیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اچھا خاوند ملے تو اس سے شادی کرلو۔

(۱۷۳۹۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلْتُهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلَةٌ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ تَسْفِي نَفْسَهَا؟ فَقَالَ عَلِيُّ: إِنْ قَرُوْخَ لَا يَعْلَمُ.

(۱۷۳۹۲) حضرت عبدالرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا، ان سے ایک آدمی نے سوال

کیا کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں میں سے زیادہ لمبی مدت کو عدت بنائے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تو وضع حمل پر عدت کے مکمل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے۔

(۱۵۱) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا

نكاح کے بعد مہر دینے سے پہلے اگر خاوند کا انتقال ہو جائے

(۱۷۲۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ . (ابن ماجہ ۱۸۹۱ - احمد ۳ / ۲۸۰)

(۱۷۳۹۳) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی عورت سے شادی کرے، نہ اسے مہر دے اور نہ اس سے دخول کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو پورا مہر ملے گا، اسے میراث ملے گی اور اس پر پوری عدت واجب ہوگی۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے بروع بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(۱۷۲۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : مِثْلُهُ .

(ابوداؤد ۲۱۰۸ - ابن ماجہ ۱۸۹۱)

(۱۷۳۹۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۹۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِيهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ فِرَاسٍ . (ترمذی ۱۱۳۵ - ابوداؤد ۲۱۰۸)

(۱۷۳۹۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۲۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو تَزَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِيهِ ، فَتَوَفَّى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَيْ ابْنِ عَمْرٍو الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَآتَوْهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

(۱۷۳۹۶) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کرائی۔ ان کا انتقال مہر کے مقرر کرنے سے پہلے اور دخول کرنے سے پہلے ہو گیا بلکہ والوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مہر کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے

کوئی مہر نہیں ہے، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو ثالث بنایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۳۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَرَبُّتٌ وَتَعَدُّ.

(۱۷۳۹۷) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ وارث بھی ہوگی اور عدت بھی گزارے گی۔

(۱۷۳۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْيَدِي يُفَوِّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

(۱۷۳۹۸) حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہما اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد مہر کی ادائیگی سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو عورت و میراث ملے گی مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۳۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يَرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۱۷۳۹۹) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے میراث ملے گی مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۴۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ .

(۱۷۴۰۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے لئے مہر مقرر کرنے اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے میراث ملے گی مہر نہیں ملے گا۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میراث اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس سے پہلے مہر نہ ہو۔

(۱۷۴۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، أَوْ الصَّدَاقُ ، شَكَ أَبُو بَكْرٍ .

(۱۷۴۰۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مہر ملے گا۔ یا فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا۔ (راوی ابو بکر کوشک ہے)

(۱۷۴۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مَاتَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، سَلُوا عَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلَ وَأَنْتُمْ أَحْيَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرًا نَسَانَهَا لَا وَكُنْ وَلَا شَطَطٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِثْلَ الْيَدِي

قَضَيْتُ فِي امْرَأَةٍ مِّنَّا يَقَالُ لَهَا بَرُوعُ ابْنَةُ وَاشِقُّ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَّا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ.

(ابن حبان ۳۱۰۱ - حاکم ۱۸۰)

(۱۷۴۰۲) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے اور اس سے جماع کرنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد اب تک مجھ سے اتنا مشکل سوال نہیں کیا گیا، تم کسی اور سے پوچھ لو، لوگ ایک ماہ ادھر ادھر سوال کرتے پھرتے رہے لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچے۔ چنانچہ وہ آدمی پھر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ اس شہر میں محمد ﷺ کے صحابہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے بات کروں گا، اگر ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اسے اس کے خاندان کی عورت کے برابر مہر ملے گا نہ کم نہ زیادہ، اور اسے میراث بھی ملے گی اور اس پر اس عورت کی عدت لازم ہوگی جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ سن کر بنو اشجع کے لوگ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہماری ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جتنا خوش دیکھا اتنا خوش میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔

(۱۷۴.۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنُ لَعْبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمَّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتَوَفَّى وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۱۷۴۰۳) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی سے شادی کی۔ اس لڑکی کی والدہ کا نام اسماء بنت زید بن خطاب تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ لڑکی والوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مہر اور میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے میراث ملے گی لیکن مہر نہیں ملے گا۔ لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا انکار کیا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ثالث بنایا تو حضرت زید نے فرمایا کہ اسے میراث ملے گی لیکن مہر نہیں ملے گی۔

(۱۷۴.۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ حَمِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۱۷۴۰۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو میراث ملے گی لیکن مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۴.۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْيَتَى يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا

المیراث. (سعید بن منصور ۹۳۳۔ عبدالرزاق ۱۰۹۰۰)

(۱۷۴۰۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند مہر کی تقرری اور شرعی ملاقات سے پہلے انتقال کر جائے اسے اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کے برابر مہر ملے گا۔ وہ اس بات کو حضور ﷺ کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے۔ وہ عورت اس عورت کی طرح عدت گزارے گی جس کا خاوند فوت ہو جائے اور اسے میراث بھی ملے گی۔

(۱۷۴۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقٌ لَهَا .

(۱۷۴۰۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے میراث ملے گی لیکن مہر نہیں ملے گا۔

(۱۵۲) ما حق الزوج على امرأته ؟

عورت پر خاوند کا کیا حق ہے؟

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِي بْنِ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۱۷۴۰۷) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارِ الْعُبَيْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بَابَتَهُ لَهٗ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ ، فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاكَ قَالَ ، قَالَتْ : لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ ، فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ فُرُوحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا ، أَوْ دَمًا نَمَّ لِحَسَّتَهُ مَا آدَتْ حَقَّةً قَالَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّيِّ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَنْتَزُوجُ أَبَدًا قَالَ ، فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ . (ابن حبان ۳۱۲۳۔ حاكم ۱۱۸۸)

(۱۷۴۰۷) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میری یہ بیٹی شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ حضور ﷺ نے اس بیٹی سے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مان لو۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتادیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اگر خاوند کو پھوڑا نکل آئے اور اس کی بیوی اس پھوڑے کو چاٹے یا اس سے پیپ اور خون نکلے اس کی بیوی اس کو چاٹے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ پھر تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ پھر حضور ﷺ نے اس کے باپ سے فرمایا کہ عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔

(۱۷۴۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا

رَاضِي دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (ترمذی ۱۱۶۱۔ طبرانی ۸۸۴)

(۱۷۴۰۸) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

(۱۷۴۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : آتَتْ امْرَأَةً نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيَّ زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَبْرِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيَّ زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدِّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا يَأْذِنُهُ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْبُزْرُ ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيَّ امْرَأَتِهِ قَالَ : لَا تَخْرُجِ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا يَأْذِنُهُ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعُصْبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تَرَجِعَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيَتْ .

(۱۷۴۰۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟“ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خاوند کا حق یہ ہے کہ بیوی اسے اپنے نفس سے منع نہ کرے خواہ وہ چکی پر بیٹھی ہو۔ اس عورت نے پھر سوال کیا ”اے اللہ کے رسول! بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟“ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خاوند کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خاوند کو اجرا اور بیوی کو گناہ ملے گا۔ اس عورت نے پھر عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور غضب کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا واپس نہ آجائے۔ اس عورت نے سوال کیا کہ خواہ اس کا خاوند ظالم ہی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ ظالم ہی ہو۔ پھر اس عورت نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے آج کے بعد میں اپنے معاملے کا مالک کسی کو نہیں بناؤں گی یعنی شادی نہیں کروں گی۔

(۱۷۴۱۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتْ حَاجَتَهَا قَالَ : أَلَيْكَ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَيُّنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : مَا أَلُوهُ خَيْرًا إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انظُرِي ، فَإِنَّ جَنَّتِكَ وَنَارَكَ .

(احمد ۳/۳۴۱۔ حاکم ۱۸۹)

(۱۷۴۱۰) حضرت حصین بن محسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری بھوپھی کسی کام کے سلسلے میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جب حاجت پوری ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہارے خاوند ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ان کی بھلائی کا ہی سوچتی ہوں، سوائے اس کے کہ میں ناجز آ جاؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دھیان رکھنا وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔

(۱۷۴۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي طَبِيَّانَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَقْلًا نَسْجُدُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، إِنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ دُونَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ .

(۱۷۴۱۱) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک دوسرے کو سجدہ کیا کرتے تھے، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جاسکتا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندنوں کو سجدہ کریں۔

(۱۷۴۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي طَبِيَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . (ابن ماجہ ۱۸۵۳ - حارث ۴۹۸)

(۱۷۴۱۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۴۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةَ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ، إِمَامٌ أَوْ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ .

(۱۷۴۱۳) حضرت عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی: ایک وہ امام جس سے لوگ ناراض ہوں۔ دوسری وہ عورت جو اپنے خاندن کی نافرمان ہو اور تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو۔

(۱۷۴۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا رَبِيعَةُ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعَلَّمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيَكُنَّ لَجَعَلْتُ الْمَرْأَةَ مِنْكُمْ تَمْسُحُ الْغُبَارَ ، عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحَرٍّ وَجْهِهَا .

(۱۷۴۱۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے عورتو! اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے شوہروں کا تم پر کیا حق ہے تو تم ان کے چہروں کا غبار اپنے چہروں کے ذریعے صاف کرنے لگو۔

(۱۷۴۱۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .

(۱۷۴۱۵) حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب دو لوگوں کو ہوگا: ایک وہ عورت جو اپنے خاندن کی نافرمان ہو اور دوسرا وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔

(۱۷۴۱۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَيَّ

زَوْجَهَا بَدَانٌ بِعَانِشَةَ فَأَذْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ.
 حضرت حمید رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ والے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے پاس رخصت کرنے لگتے تو اسے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتیں، اس کے لئے دعا کرتیں اور اسے تقویٰ
 اختیار کرنے اور خاوند کا حق ادا کرنے کی نصیحت فرماتیں۔

(۱۷۴۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لَأَزْوَاجِهِمْ .
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر اللہ
 کے غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔

(۱۷۴۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ قَابَتْ قَبَاتٌ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ .
 (بخاری ۵۱۹۳ - مسلم ۱۲۲)

(۱۷۴۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے
 اور وہ انکار کرے، خاوند اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

(۱۷۴۱۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ
 أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ
 إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوَلَهَا أَنْ تَفْعَلَ .

(۱۷۴۱۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ
 کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اگر آدمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ کو کالے پہاڑ کی طرف اور کالے
 پہاڑ کو سرخ پہاڑ کی طرف منتقل کر دے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔

(۱۷۴۲۰) حَدَّثَنَا مُلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسْنَا
 عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ
 لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ . (ترمذی ۱۱۶۰ - احمد ۳ / ۲۳)

(۱۷۴۲۰) حضرت طلح بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، میں نے اللہ کے نبی ﷺ کو
 فرماتے ہوئے سنا کہ جب خاوند بیوی کو اپنی حاجت کے لئے بلائے تو وہ ضرور آئے خواہ تنور پر بیٹھی ہو۔

(۱۷۴۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَضَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَذَّتْ حَقَّهُ .

(۱۷۴۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورت کوڑھ کی وجہ سے خاندان کی ناک چائے اور اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اس نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا۔

(۱۷۴۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَدِمَهُ قَوْمٌ يُصَلِّي بِيَهُمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ : أَكَلْتُمْ رَاضٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ابْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تَقْبَلُ صَلَاتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْعَبْدُ الْآبِقُ وَالرَّجُلُ يَوْمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .

(۱۷۴۲۲) حضرت قاسم بن خیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم نے نماز پڑھانے کے لئے آگے کیا، انہوں نے انکار کیا لیکن لوگوں نے اصرار کر کے انہیں آگے کر ہی دیا، جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا تم سب میرے نماز پڑھانے سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ عورت جو اپنے خاندان کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، دوسرا بھاگا ہوا غلام اور تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھائے لیکن وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔

(۱۷۴۲۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الْآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .

(۱۷۴۲۳) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں: بھاگا ہوا غلام، وہ عورت جس کا خاندان اس سے ناراض ہو، وہ امام جس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں۔

(۱۷۴۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا .

(۱۷۴۲۴) حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاندان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔

(۱۷۴۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا .

(۱۷۴۲۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت کا خاندان موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔

(۱۵۳) المرأة الصالحة والسینة الخلق

اچھے اخلاق والی اور برے اخلاق والی عورت

(۱۷۴۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ، تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا . (ابوداؤد ۱۶۶۱۔ سعید بن منصور ۵۰۱)

(۱۷۴۲۶) حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بعد مسلمان کے سب سے زیادہ فائدے والی چیز وہ خوبصورت عورت ہے جسے آدمی دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور وہ جب وہ سفر میں ہو تو اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔

(۱۷۴۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللَّهِ خَيْرًا مِنْ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدَوْدٍ وَلُودٍ ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شَرًّا مِنْ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ثُمَّ قَالَ : إِنْ مِنْهُنَّ عُنْمًا لَا يُحْدَى مِنْهُ وَإِنْ مِنْهُنَّ غَلًا يُفْقَدَى مِنْهُ .

(۱۷۴۲۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد آدمی کو اچھے اخلاق والی، زیادہ محبت کرنے والی اور بچوں کو جنم دینے والی عورت سے بڑھ کر خیر عطا نہیں ہوئی۔ اور کفر کے بعد آدمی کو برے اخلاق والی اور تیز زبان والی بیوی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ملی۔ بعض عورتیں ایسی نعمت ہیں جن سے بے رشتہ نہیں رکھی جاسکتی اور بعض عورتیں ایسی مصیبت ہیں کہ ان سے بچا نہیں جاسکتا۔

(۱۷۴۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ النَّاحِ الْمَخْضُوعِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوِّءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ .

(۱۷۴۲۸) حضرت عبد الرحمن بن ابی زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک بیوی کی مثال سونے سے مزین اس تاج کی ہے جو کسی بادشاہ کے سر پر ہو اور نیک مرد کی بیوی کی مثال اس بھاری بوجھ کی سی ہے جو کسی بوڑھے کی کمر پر ہو۔

(۱۷۴۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهَاً مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يَطْلُقْهَا ، أَوْ لَمْ يَفَارِقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُسْهِدْ عَلَيْهِ .

(۱۷۴۲۹) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جو بلا تے ہیں لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی بے وقوف کے پاس مال رکھوایا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) تم اپنا مال بے وقوفوں کے پاس مت رکھوؤ۔ دوسرا وہ آدمی جس کے نکاح میں کوئی بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے اور نہ اس سے جدائی اختیار کرے۔ تیسرا وہ آدمی جس کا حق کسی آدمی پر لازم ہو لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔

(۱۷۴۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَلَاثِ الْفَوَاقِرِ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَعْفِرْ وَجَارٌ سَوِيءٌ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَطَّهَا ، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا وَأَمْرَأَةٌ السَّوِيءُ إِنْ شَهِدَتْهَا غَاظَتْكَ ، وَإِنْ عَيْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ .

(۱۷۴۳۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تین مصیبتوں کے بارے میں نہ بتاؤں: ایک وہ ظالم سلطان کہ اگر تم اچھا کام کرو تو وہ تمہارا شکر یہ ادا نہ کرے اور اگر غلطی کرو تو وہ تمہیں معاف نہ کرے۔ دوسرا برا پروسی، اگر تمہاری اچھائی دیکھے تو چھپا دے اور اگر برائی دیکھے تو افشاء کر دے۔ تیسری ایسی بری بیوی کہ اگر تم موجود ہو تو تمہیں غصہ دلائے اور اگر تم غیر موجود ہو تو تمہارے ساتھ خیانت کرے۔

(۱۷۴۳۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ جَعْدَةَ بِنِ هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلَا بِهَا فَنَهَاهَا ، عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَأَمْرَهَا بِأَحْسَنِهَا .

(۱۷۴۳۱) حضرت معبیرہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی کراتے تو اسے تہائی میں نصیحت فرماتے بری عادات سے بچنے کا حکم دیتے اور اچھے اخلاق کا حکم دیتے۔

(۱۷۴۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقَبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيْسَ بِهَا عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلَوْ دُ تَعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا تَجَدُّهَا ، ثَانِيَةٌ : أَمْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ إِنَّمَا هِيَ وَعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، ثَالِثَةٌ : غُلٌّ قَلِيلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ ، الرَّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ يَأْتِمُرُ فِي الْأُمُورِ إِذَا أَقْبَلَتْ وَتَشَبَّهَتْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا بَرَأِيهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةَ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتِمُرُ رُشْدًا وَلَا يُطِيعُ مَرُشِدًا .

(۱۷۴۳۲) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں تین قسم کی ہیں: ایک وہ اچھے مزاج والی، نرم طبیعت والی، پاکدامن، مسلمان، محبت کرنے والی، اولاد کو جنم دینے والی بیوی جو اپنے خاوند کی ہر حال میں معاونت کرے اور مصیبتوں پر شکوہ نہ کرے۔ لیکن

ایسی عورت بہت کم ملتی ہے۔ دوسری وہ پاکدامن اور مسلمان عورت، جو بچوں کی تربیت کرے اور اسے بچوں کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت جو بد مزاج اور بد فطرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت جس کے گلے میں چاہے ڈال دیتا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نال نہیں سکتا۔ مردوں کی بھی تین قسمیں ہیں: ایک وہ پاکدامن مسلمان سمجھدار مرد جو ہر طرح کے معاملات کی فہم رکھتا ہو، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو تو اپنی دانائی کی وجہ سے اس سے نکل جائے۔ دوسرا وہ پاکدامن مسلمان مرد جو خود تو صاحب الرائے نہ ہو لیکن جب کوئی معاملہ پیش آئے تو سمجھدار اور صاحب الرائے سے مشورہ کرے اور اس کے مشورے پر عمل کرے اور تیسرا وہ نادان اور بے وقوف شخص جو نہ خود صاحب الرائے ہو نہ کسی سمجھدار سے مشورہ کرے اور نہ کسی خیر خواہ کی اطاعت کرے۔

(۱۵۴) مَا يَنْكَحُ ، وَأَفْضَلُ مَا يُنْكَحُ عَلَيْهِ ؟

نکاح کی بنیاد کن چیزوں کو بنانا چاہئے؟

(۱۷۴۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ . (مسلم ۱۰۸۷- ترمذی ۱۰۸۶)

(۱۷۴۳۳) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اس کے دین، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ لازمی طور پر دین دار عورت سے شادی کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

(۱۷۴۳۴) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالِ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرَبَّتْ بِمِثْلِكِ .

(حاکم ۱۶۱- احمد ۸۰/۳)

(۱۷۴۳۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے تین خصوصیات میں سے کسی ایک کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا دین دار کی وجہ سے۔ تمہیں چاہیے کہ شادی کی بنیاد دینداری اور اخلاق کو بناؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

(۱۷۴۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، أَيْنَ بَلَ ، عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالْدِّينِ ، تَرَبَّتْ بِمِثْلِكِ . (سعید بن منصور ۵۰۲)

(۱۷۴۳۵) حضرت یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اس کے دین، اخلاق، مال

یا جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ شادی کی بنیاد ینداری اور اخلاق کو بناؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

(۱۷۴۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَّتْ يَمِينُكَ . (۱۷۴۳۶) حضرت یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے مال، خاندان، جمال یا دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

(۱۵۵) مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟

بیوی سے شرعی ملاقات کے کیا آداب ہیں؟

(۱۷۴۳۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا . (بخاری ۳۲۷۱ - مسلم ۱۱۶)

(۱۷۴۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے (ترجمہ) اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر اللہ نے اولاد دی تو وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گی۔

(۱۷۴۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ وَحَدِيثُهُ قَالَ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا : إِلَيْكَ ، قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا : إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ .

(۱۷۴۳۸) حضرت ابو اسید کے مولیٰ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو میں غلام تھا۔ میں نے نبی ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت کی دعوت کی۔ ان میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ذر اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آگے ہونے لگے تو ساتھیوں نے ان سے فرمایا آپ آگے بڑھیں اور مجھے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں غلام تھا پھر بھی میں نے نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو دو رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو اور شر سے پناہ چاہو۔ پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو جاؤ۔

(۱۷۴۳۹) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَحْيَى عُلْفَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ،

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَشِيَ أَهْلَهُ فَانزَلَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا.

(۱۷۳۳۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنی امیہ کے ساتھ مباشرت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے (ترجمہ) اے اللہ! جو اولاد تو ہمیں عطا کرے شیطان کو اس پر تسلط نہ دینا۔

(۱۷۴۴۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لَا تُرْفُ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةً إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمْرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّيَ لَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمْرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا .

(۱۷۴۴۰) حضرت ام موسیٰ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں جب کسی لڑکی کو رخصت کیا جاتا تو پہلے اس کو مسجد میں لاکر دو رکعت نماز پڑھائی جاتی اور نبی پاک ﷺ کی ازواج کے پاس لائی جاتی تاکہ وہ اس کے لئے دعا فرمائیں۔

(۱۷۴۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرُكَنِي قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَالْفُرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يُرِيدُ أَنْ يَكْفُرَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَكَ فَمُرَّهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ .

(۱۷۴۴۱) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ابو جریر نامی ایک صاحب حضرت عبد اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بیزار نہ ہو جائے۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ محبت اللہ طرف سے ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لئے ناپسندیدہ بنا دے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اسے حکم دو کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے۔

(۱۵۶) فِي الْمَرْأَةِ تُلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا؟

اگر کوئی مسلمان عورت مشرکین کی سرزمین میں جا بے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۷۴۴۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ﴾ قَالَ : إِذَا لِحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ .

(۱۷۴۴۲) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی مشرکین کی سرزمین میں جا بے تو وہ مسلمان کی بیوی نہیں شمار کی جائے گی۔

(۱۷۴۴۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَثَلُهُ .

(۱۷۴۴۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۵۷) من كان يقول يطعم في العرس والختان

شادی اور ختنوں کے موقع پر کھانا کھلانا

(۱۷۴۴۴) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَوْلِمُّوكُمُ وَلَوْ بِشَاةٍ يَعْنِي ، حِينَ تَزْوِجُ . (بخاری ۲۰۳۹۔ ابوداؤد ۲۱۰۲)

(۱۷۴۴۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا تھا ”ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری سے کرو“

(۱۷۴۴۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ بَيَّانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَارْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ . (بخاری ۵۱۷۰۔ ترمذی ۳۲۱۹)

(۱۷۴۴۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی ازواج میں ایک سے شری ملاقات فرمائی تو مجھے بھیجا کہ میں کچھ لوگوں کو کھانے کے لئے بلاؤں۔

(۱۷۴۴۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ بِلَالٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبٍ ، قَالَ لِبِلَالٍ : سُقِ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وِلْمَتِهِ . (ابوداؤد ۲۲۶۶۔ سعید بن منصور ۵۸۸)

(۱۷۴۴۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو حضور ﷺ کے پاس سونا لایا گیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے اپنی ضرورت میں خرچ کر لو۔ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ولیمہ میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔

(۱۷۴۴۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَّ عَلِيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمَدْيَنٍ مِنْ شَعِيرٍ . (نسائی ۶۶۰۷۔ احمد ۱۱۳ / ۶)

(۱۷۴۴۷) حضرت منصور بن صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک زوجہ کا ولیمہ دو مد شعیر کے ساتھ فرمایا۔

(۱۷۴۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي : سِيرَ بِنُ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أَبِي بِنُ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ هِشَامٌ : وَأُظْنَهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ : فَكَانَ أَبِي صَانِمًا فَلَمَّا طَعَمُوا دَعَا أَبِي بِنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ .

(۱۷۴۴۸) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد سیرین نے شادی کی تو سات دن رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی دعوت کی۔ جب انصار کی دعوت کا دن ہوا تو حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم کو بلا یا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کا اس دن روزہ تھا۔ جب سب نے کھانا کھلایا تو حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور باقی لوگوں نے اس دعا پر آمین کہا۔

(۱۷۴۴۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْتَبَ فَاشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْرًا وَلَحْمًا . (بخاری ۴۷۹۳ - مسلم ۱۰۳۸)

(۱۷۴۴۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ولیمہ فرمایا اور مسلمانوں کو خوب میر کر کے روٹی اور گوشت کھلایا۔

(۱۷۴۵۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ : زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ : فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فِدَعَا نَاسًا .

(۱۷۴۵۰) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کرائی پھر ولیمہ کیا اور کچھ لوگوں کو دعوت دی۔

(۱۷۴۵۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلِيَّ بْنَ خَتَّانِ الصَّبِيَّانِ .

(۱۷۴۵۱) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بچوں کے ختنے کے موقع پر کھانا کھلاتے تھے۔

(۱۷۴۵۲) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ أَبَا وَإِبِلَ : أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقْرَةٍ وَأَرْبَعَةَ أَرْغَفَةٍ .

(۱۷۴۵۲) حضرت اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اہل رضی اللہ عنہ نے گائے کی سری اور چار بڑی روٹیوں سے ولیمہ کھلایا۔

(۱۷۴۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي قَاذَنَ أَبِي النَّاسِ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لِأَبِي أَيُّوبَ .

(۱۷۴۵۳) حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی زندگی میں شادی کی، میرے والد نے لوگوں کو بلایا جن میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

(۱۷۴۵۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ حَمْرَةَ أَنَّ حَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ عُمَرَ نَحَرَ حَزْرًا .

(۱۷۴۵۴) حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کے لئے کئی اونٹ ذبح کئے۔

(۱۷۴۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَتَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجِدُلُ بِهِ عَلَى الْعُلَمَانِ .

(۱۷۴۵۵) حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے اور نعیم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے ختنے کرائے اور ہمارے لئے ایک مینڈھا ذبح کرایا، مجھے یاد ہے کہ ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی طرف کاٹ کر پھینک رہے تھے۔

(۱۵۸) مَا قَالُوا فِي النَّبِيِّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس عورت کا بیان جس نے اپنا نفس نبی ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا

(۱۷۴۵۶) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ

مِنَ اللَّائِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (بخاری ۵۱۱۳۔ مسلم ۵۰)

(۱۷۴۵۶) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا نفس نبی ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا۔

(۱۷۴۵۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ قَالَ : لَمْ تَهَبْ نَفْسَهَا .

(۱۷۴۵۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا نفس ہبہ نہیں کیا۔

(۱۷۴۵۸) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ قَالَ شُعْبَةُ : وَطَنِي أَنَّهُ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ شَرِيكِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(نسائی ۸۹۳۸۔ احمد ۶/۳۶۲)

(۱۷۴۵۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے مدینہ والوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھنے کے لئے خط لکھا تو جواب میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ قبیلہ ازد کی ام شریک نامی عورت تھیں جنہوں نے اپنا نفس حضور ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا تھا۔

(۱۷۴۵۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَهِيَ مَمْنُ أَرْجَا .

(۱۷۴۵۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک انصاری عورت تھیں جنہوں نے اپنا نفس حضور ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا تھا۔

(۱۷۴۶۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهْوُ أَعْظَمُ نَحِيًّا مِنْ نَحْيِ أُمِّ شَرِيكِ .

(۱۷۴۶۰) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والے کسی بہت زیادہ برکت والی چیز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ام شریک کے مشکیزے سے بھی زیادہ ہے۔

(۱۷۴۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعَمْرٍو بْنِ الْحَكَمِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالُوا : أَلَيْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ . (طبری ۲۳۔ بیہقی ۵۵)

(۱۷۴۶۱) حضرت محمد بن کعب، حضرت عمر بن حکم اور حضرت عبد اللہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جس عورت نے اپنا نفس حضور ﷺ کو ہبہ کر دیا تھا وہ حضرت ميمونة رضی اللہ عنہا ہیں۔

(۱۷۶۶۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ قَالَ : بَغَيْرِ صَدَاقٍ .

(۱۷۶۶۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بغیر مہر کے نکاح کرنا ہے۔

(۱۷۶۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ قَالَ : فَعَلْتَ وَلَمْ يَفْعَلْ .

(۱۷۶۶۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت نے تو نفس بہہ کر دیا تھا لیکن حضور ﷺ نے قبول نہیں فرمایا۔

(۱۵۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

اگر آدمی اسلام قبول کر لے اور اس کے پاس دو سگی بہنیں ہوں تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۶۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَوْفِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيِّ بْنِ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ أَنَّ هَنَامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفْرُقْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَأَنَّهُ رَفَعَ شَأْنَهُ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اخْتَرِ إِحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَّبْتُ الْأُخْرَى لِأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ .

(۱۷۶۶۴) حضرت عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو تیم اللہ کے ہام بن عمیر نامی آدمی کے پاس جاہلیت میں دو سگی بہنیں (بیوی یا باندی کے طور پر) تھیں۔ اور ان میں سے کسی سے بھی علیحدگی اختیار نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو پیغام دیا کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لو اور خدا کی قسم اگر تم دوسری کے پاس گئے تو میں تمہارے سر پر ماروں گا۔

(۱۷۶۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ . (۱۷۶۶۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کرے اور اس کے پاس (بیوی یا باندی کے طور پر) دو عورتیں ہوں تو اگر وہ چاہے تو پہلی کو روک لے۔

(۱۷۶۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُرُوءَةَ ، عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خِرَاشِ الرُّعَيْنِيِّ ، عَنِ الدِّيَلَمِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا . (ترمذی ۱۱۴۹۔ احمد ۳ / ۲۳۲)

(۱۷۴۶۶) حضرت دلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا تو اس وقت میرے نکاح میں دو سگی بہنیں تھیں جن سے میں نے جاہلیت میں شادی کی تھی۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا جب تم واپس جاؤ تو ایک وطلاق دے دینا۔

(۱۶۰) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

ایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس عورتیں ہوں تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۴۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْبَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غِيلَانُ بْنُ سَلَمَةَ النَّخَعِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .

(دار فطنی ۲۷۱ - بیہقی ۱۸۳)

(۱۷۴۶۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھ لو۔

(۱۷۴۶۸) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ عَشْرٌ ، أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ قَالَ : يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .

(۱۷۴۶۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس یا چھ عورتیں ہوں تو وہ ان میں سے چار رکھ لے۔

(۱۷۴۶۹) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّامِرِ دَلِيلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . (ابو داؤد ۲۲۳۶ - ابن ماجہ ۱۹۵۲)

(۱۷۴۶۹) حضرت حمیضہ بن شمر دل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں حضور ﷺ نے انہیں چار کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔

(۱۶۱) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ (غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ)

قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۴۷۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَةَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ .

(۱۷۴۷۰) حضرت شعبی قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو اس سمجھ کو نہ

پہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پر آگاہ ہو سکے۔

(۱۷۴۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَظْنَهُ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَبْلَةُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ .

(۱۷۴۷۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو اس کو نہ پہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پر آگاہ ہو سکے۔

(۱۷۴۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قَالَ : الَّتِي لَا أَرَبَ لَهَا بِالنِّسَاءِ .

(۱۷۴۷۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو اس کو نہ پہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پر آگاہ ہو سکے۔

(۱۷۴۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَعْتَوَةُ .

(۱۷۴۷۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پاگل ہے۔

(۱۷۴۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو سَبَّاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ : أَحْمَقُ .

(۱۷۴۷۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بے وقوف ہے۔

(۱۷۴۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ .

(۱۷۴۷۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جس سے عورتیں حیا نہ کرتی ہوں۔

(۱۷۴۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِرْبَةً .

(۱۷۴۷۶) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی عقل قائم نہ ہو۔

(۱۶۲) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا ؟

جو عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اسے مہر ملے گا یا نہیں ؟

(۱۷۴۷۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ

صَدَّقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يَكُنْ صَدَّقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۴۷۷) حضرت کھول پڑھیں فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اس کی عدت میں شادی کی گئی حضرت عمرؓ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور عورت کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا۔ حضرت زہری پڑھیں فرماتے ہیں کہ مہر کا مال بیت المال میں نہیں جائے گا یہ اس کی شرمگاہ کا عوض ہے۔

(۱۷۴۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَّقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِيُّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۴۷۸) حضرت شعبی پڑھیں فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اس کی عدت میں شادی کی گئی حضرت عمرؓ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور عورت کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا۔ حضرت علیؓ نے پڑھیں فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی لیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کا عوض بنے گا۔

(۱۷۴۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۴۷۹) حضرت سعید بن مسیب پڑھیں فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی لیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کا عوض بنے گا۔

(۱۷۴۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْفَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۱۷۴۸۰) حضرت سلیمان بن یسار پڑھیں فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی اور مہر بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔

(۱۷۴۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۴۸۱) حضرت ابراہیم پڑھیں فرماتے ہیں کہ ہر نکاح فاسد جیسے عورت کا عدت میں شادی کرنا وغیرہ، ایسے نکاحوں میں اگر آدمی نے بیوی سے دخول کیا تو عورت کو مہر تو ملے گا البتہ دونوں میں جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۷۴۸۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۴۸۲) حضرت حکم پڑھیں فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ البتہ فرج کو حلال کرنے کی وجہ سے عورت کو مہر ملے گا۔

(۱۷۴۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيَجْعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلَيَّ أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَتُوفَى عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ حَاطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

(۱۷۴۸۳) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی عدت میں شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے اور ان کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا جائے۔ اور فرمایا کہ ان کا نکاح بھی حرام تھا اور مہر بھی حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے، پھر عورت پہلے خاوند کی باقی ماندہ عدت گزارے پھر تین حیض عدت گزارے اور شرمگاہ کو حلال کرنے کی وجہ سے اسے مہر ملے گا۔ پھر اگر آدمی چاہے تو اسے دوبارہ نکاح کا پیغام بھجوادے۔

(۱۶۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مِنْ قَالَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ

ایک آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے اور وہ اسے اچھی محسوس ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے؟

(۱۷۴۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدْفَنُ طَبِيبًا قَالَ : فَعَرَفْنَا فِي وَجْهِهِ فَأَحْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُؤَافِقْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا . (مسلم ۹)

(۱۷۴۸۴) حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، ایک خاتون پر آپ کی نگاہ پڑی اور وہ آپ کو بھلی محسوس ہوئی۔ آپ واپس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی خوشبو بنا رہی تھیں۔ ان عورتوں نے حضور ﷺ کو دیکھا تو چلی گئیں۔ حضور ﷺ نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا اور باہر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو اپنی بیوی سے صحبت کر لے کیونکہ جو کچھ اس عورت میں ہے وہ اس کی بیوی میں بھی ہے۔

(۱۷۴۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : يَدْفَنُ طَبِيبًا .

(۱۷۴۸۵) ایک اور سند سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

(۱۷۴۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُلَامٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ امْرَأَةً فَأَعَجَبْتَهُ فَلْيُؤَاقِعْ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ . (دارمی ۲۲۱۵)

(۱۷۴۸۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو اپنی بیوی سے صحبت کر لے کیونکہ جو کچھ ان عورتوں میں ہے وہ اس کی بیویوں میں بھی ہے۔

(۱۷۴۸۷) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً ، فَاتَى أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ .

(۱۷۴۸۷) حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، وہ بھلی محسوس ہوئی تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شرعی ملاقات کی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو اپنی بیوی سے صحبت کر لے کیونکہ جو کچھ ان عورتوں میں ہے وہ اس کی بیویوں میں بھی ہے۔

(۱۷۴۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ حَبِيبٍ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ .

(مسلم ۹۔ ابوداؤد ۲۱۴۳)

(۱۷۴۸۸) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔

(۱۷۴۸۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ : يَذْكُرُ أَحْسَاءَ الْبُقَيْرِ .

(۱۷۴۸۹) حضرت مطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے اچھی لگے تو گائے کے نامکمل بچے کو یاد کر لے۔

(۱۷۴۹۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ قَالَ : يَذْكُرُ مَنَاتِيهَا .

(۱۷۴۹۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے اچھی لگے تو عورت کی بدبو وار چیزوں کا خیال لائے۔

(۱۶۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

ایک آدمی عورت سے اس بات پر شادی کرے کہ مہر کے بارے میں عورت کی فرمائش مانی جائے گی

(۱۷۴۹۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّخَعِيَّ قَالَ : تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَرْضَهَا أَرْضِهَا .

(۱۷۴۹۱) حضرت نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اشعث نے ایک عورت سے منہ مانگے مہر پر شادی کی، پھر یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے راضی کرو، اسے راضی کرو۔

(۱۷۴۹۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكْمِهِ فَبَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ .

(۱۷۴۹۲) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی اس بات پر ہوئی کہ مہر کے معاملے میں عورت یا مرد کے حکم کا اعتبار ہوگا اور بعد میں جھڑپ ہو گیا تو بغیر کسی زیادتی کے مہر مثلی ملے گا اور نکاح جائز ہے۔

(۱۷۴۹۳) حَدَّثَنَا وَرِكَعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حَرِيثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعَ عَمْرُو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا : أَتَرِيدُ أَنْ تُحْكَمَ رَجُلًا مِنْ طِيءٍ فِي عَقْدِكَ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحُكْمَ عَدِيِّ سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعٍ مِئَةٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرُو بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَقَالَ : جَهَّزْهَا .

(۱۷۴۹۳) حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہر میرے حکم کے مطابق ملے ہوگا۔ عمرو بن حریث نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم طی کے ایک آدمی کو اپنے نکاح کے معاملے کا حاکم بناؤ گے۔ عمرو بن حریث نے پھر بھی انہیں ہی حکم سوچ دیا تو حضرت عدی نے فیصلہ کیا کہ حضور ﷺ کی سنت چار سو اسی ہے۔ عمرو نے انہیں دس ہزار بھیجے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی فرمادیتے۔

(۱۷۴۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عَمْرُو عَنْهَا ، فَقَالَ : بَتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تُحْكَمَ عَلَيَّ فِي مَالٍ قَيْسٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرٌ نِسَائِهَا .

(۱۷۴۹۴) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے اس کے منہ مانگے مہر پر شادی کی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ میں نے اس کے ساتھ ایک رات گزار دی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ مجھ پر قیس کے مال کی فرمائش نہ کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے یہ نہیں ملے گا اسے مہر مثلی ملے گا۔

(۱۷۴۹۵) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ الرَّجُلُ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ نِسَائِهَا .

(۱۷۴۹۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عورت سے اپنی مرضی کے مہر پر شادی کرے اور مہر کی تقرری سے پہلے آدمی کا انتقال ہو جائے تو عورت کو مہر مثلی ملے گا۔

(۱۷۴۹۶) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ .

(۱۷۴۹۶) حضرت عبد الملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے اپنی مرضی کا مہر دینے پر شادی کی، پھر اس نے دس درہم مہر دیے تو حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے اسے جائز قرار دیا اور فرمایا کہ مسلمان اس سے کم اور زیادہ مہر پر نکاح کیا کرتے تھے۔

(۱۶۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ، مَا يَقَالُ لَهُ ؟

جس آدمی کی شادی ہو اسے کیا عادینی چاہئے؟

(۱۷۴۹۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لآخرَ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُوا هَكَذَا قُولُوا : بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ .

(۱۷۴۹۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے کی شادی کے موقع پر اسے عادی: بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ (خوش رہو اور اولاد پاؤ) رسول اللہ ﷺ نے یہ سنا تو فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔

(۱۷۴۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ ، فَقَالَ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ : قَالُوا : كَيْفَ نَقُولُ يَا أَبَا بَرْدٍ ؟ قَالَ : تَقُولُونَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ ، أَوْ نُوْمَرُ بِذَلِكَ . (ابن ماجہ ۱۹۰۶ - احمد ۱ / ۳۵۱)

(۱۷۴۹۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بنو جشم کی ایک عورت سے شادی کی پھر لوگوں کی دعوت کی تو لوگوں نے انہیں بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ کہہ کر عادی۔ انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے کیونکہ ہمیں یہی کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(۱۶۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمَرُّ بِهِ الْمَرَأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

بد نظری کی ممانعت

(۱۷۴۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَظَرَةِ الْفُجَّانَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِي .

(مسلم ۱۶۹۹ - ابو داؤد ۲۱۳۱)

(۱۷۴۹۹) حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو پھیر لو۔

(۱۷۵۰۰) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تُتْبَعَنَّ نَظْرَكَ حُسْنَ رِذَاءِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ .

(۱۷۵۰۰) حضرت علاء بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ اپنی نظر کو کسی عورت کی چادر کے حسن پر بھی مت ڈالو کیونکہ نظر دل میں خواہش کو بیدار کرتی ہے۔

(۱۷۵۰۱) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ : مَا لَكَ أَنْ تَنْقَبَهَا بِعَيْنِكَ ؟ .

(۱۷۵۰۱) حضرت عاصم احوال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی (ترجمہ) مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے لیکن اس کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اپنی آنکھوں سے اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہو؟

(۱۷۵۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَظْرَةُ يَهُوَاهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا .

(۱۷۵۰۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نظر جو دل میں خواہش کو بیدار کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۷۵۰۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِبَادِيِّ ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ . (ترمذی ۲۷۷۷۔ ابوداؤد ۲۱۳۲)

(۱۷۵۰۳) حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر میں تو گنجائش ہے لیکن دوسری میں تمہارے لئے گنجائش نہیں۔

(۱۷۵۰۴) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ قَالَ : فَنَظَرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصْرَهُ فَظَنَرْتُ أَنَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ .

(۱۷۵۰۴) حضرت موسیٰ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک راستے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ہمارے سامنے ایک عورت یا لڑکی آئی تو ہم سب کی نگاہ اس پر پڑ گئی، پھر حضرت سعید نے نگاہ جھکا لی لیکن میں دیکھتا رہا، مجھ سے حضرت سعید نے فرمایا کہ پہلی نظر میں پڑ نہیں لیکن دوسری میں پکڑے۔

(۱۷۵۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَلَكِنَّ الْآدِي يَدُسُّ النَّظْرَةَ دَسًا .

(۱۷۵۰۵) حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پر گرفت نہیں لیکن اگر کوئی دیکھتا ہی رہے تو قابل گرفت ہے۔

(۱۷۵۰۶) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ سِيرِينَ : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي

النَّظْرَةُ الْأُولَى ثُمَّ أَصْرَفَ عَنْهَا بَصَرِي؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ: ﴿يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾.

(۱۷۵۰۶) حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر میرے سامنے کوئی عورت راستے میں آجائے اور میں اس سے نگاہ پھیر لوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔

(۱۷۵۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَعُضَّ عَيْنِكَ حَتَّى تَمْضِيَ.

(۱۷۵۰۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت سے سامنا ہو تو اس کے گزرنے تک اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھو

(۱۷۵۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

(۱۷۵۰۸) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں عورت کا حسن کوئی نقصان نہ دے گا جب تک تم اسے پہچان نہ لو۔

(۱۷۵۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: بَيْنَا أَنَا أُطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعَجَبَنِي ذَلِكَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

(۱۷۵۰۹) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دورانِ طواف ایک عورت پر میری نگاہ پڑی، وہ مجھے بھلی محسوس ہوئی، میں نے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہا لیکن وہ مصروف تھی۔ تمہیں عورت کا حسن اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک تم اسے جان نہ لو۔

(۱۷۵۱۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

(۱۷۵۱۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے بیوی یا محرم رشتہ دار کے علاوہ کسی عورت کو دیکھنا درست نہیں۔

(۱۷۵۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ لَا يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ.

(۱۷۵۱۱) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طاووس رضی اللہ عنہ کسی ایسے قافلے میں نہ جاتے جس میں عورتیں ہوتیں۔

(۱۷۵۱۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي طَيْبِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنِيهَا فَلَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (احمد ۱/۱۵۹۔ دارمی ۲۷۰۹)

(۱۷۵۱۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! تمہارے لئے جنت میں ایک خزانہ ہے

اور تم جنت کے دونوں کناروں کو پانے والے ہو، ایک نظر پڑ جائے تو دوسری مت ڈالو کیونکہ پہلی نظر کی گنجائش ہے لیکن دوسری کی اجازت نہیں۔

(۱۷۵۱۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : **يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيَرِيهِمْ أَنَّهُ يَعْصُ بَصْرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ عَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِدِهٍ عَصَى بَصْرَهُ وَقَدْ أَطْلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا .

(۱۷۵۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت (ترجمہ) اللہ آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپے خیالات کو جانتا ہے۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے ایک عورت گزرتی ہے، وہ لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اس نے اپنی نگاہ جھکالی ہے، پھر اگر وہ لوگوں کو خود سے غافل پاتا ہے تو عورت کو دیکھنے لگتا ہے اور اگر اسے اندیشہ ہو کہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو نظر کو جھکالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے کہ وہ آدمی عورت کے چھپے ہوئے حصے کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔

(۱۷۵۱۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : **لَأَنْ تَمْتَلِءَ مَنْجُورِيَّ مِنْ رِيحِ جَيْفَةِ أَحَبِّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِنَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ** .

(۱۷۵۱۳) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ناک میں کسی مردار کی بو آئے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اس میں کسی عورت کی خوشبو آئے۔

(۱۷۵۱۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : **لَأَنْ أَرَا حِمَّ يَعْيرُ مَطْلِبًا بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَا حِمَّ امْرَأَةٍ** .

(۱۷۵۱۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تارکول سے لپ کئے اونٹ سے ٹکراؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کسی عورت سے ٹکراؤں۔

(۱۷۵۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : **كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ يَعْنِي زَانِيَةً** .

(۱۷۵۱۶) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بید نظر آنھ زانہ زانیہ ہے۔

(۱۶۷) الرجل يطلق امرأته طلاقاً باننا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟

اگر ایک آدمی دخول سے پہلے عورت کو طلاق بائنہ دے دے اور پھر اس خیال سے جماع کر بیٹھے کہ ابھی رجوع کا حق ہے تو اس عمل کا کیا حکم ہوگا؟

(۱۷۵۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفْرَقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۵۱۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو دخول سے پہلے ایک یا دو طلاقیں دیدے اور یہ سمجھتے ہوئے اس سے جماع کرے کہ ابھی رجوع کا حق باقی ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔

(۱۷۵۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِفِشْيَانِهِ أَيَّامًا .

(۱۷۵۱۸) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔ کیونکہ مرد عورت سے جماع کر چکا ہے۔

(۱۷۵۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۷۵۱۹) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۵۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۷۵۲۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۵۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

(۱۷۵۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر اور نصف ملے گا۔

(۱۷۵۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرِّجْعَةَ قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۷۵۲۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔
 (۱۷۵۲۳) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا الصَّدَاقُ .
 (۱۷۵۲۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر اور نصف ملے گا۔ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۵۲۵) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ لِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَلَامًا وَجَهْلًا فَاصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۷۵۲۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، پھر جہالت کی وجہ سے اس سے جماع کر لیا تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۵۲۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

(۱۷۵۲۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر اور نصف ملے گا۔

(۱۷۵۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُسْعِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

(۱۷۵۳۰) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر اور نصف ملے گا۔

(۱۷۵۳۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَتَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطَى الْمَرْأَةُ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا وَمِنْ دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

(۱۷۵۳۲) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے اسے طلاق دے دے اور اسے کہا جائے کہ وہ تجھ پر حرام نہیں ہوئی، اور وہ پہلے نکاح کی بنیاد پر اس سے جماع کر لے اور وہ عورت اس مرد کے پاس دو سال تک ٹھہری رہے اور اولاد کو جنم دے پھر انہیں علم ہو کہ یہ عورت تو اس مرد پر حرام ہو گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی، وہ عورت کو پہلے نکاح کی وجہ سے آدھا مہر دے گا اور دخول اور جماع کی وجہ سے پورا مہر دے گا۔

(۱۷۵۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۷۵۲۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۵۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ .

(۱۷۵۲۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہوئے وطی کر لی کہ اسے رجوع کا حق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہر اور نصف ملے گا۔

(۱۶۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأُمَّةَ فَتَعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتُخْتَارُ

نَفْسَهَا ، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ ؟

اگر ایک آدمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا جائے، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار

ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

(۱۷۵۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا ، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا .

(۱۷۵۳۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا جائے، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ اپنے نفس اور مہر دونوں چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتی۔

(۱۷۵۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَتْ الْأُمَّةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخِيَّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقُهُ بَأْذَنِهِ .

(۱۷۵۳۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی باندی کسی غلام کے نکاح میں تھی، پھر اسے آزاد کیا گیا اور آزادی کے بعد اختیار دیا گیا اور اس نے دخول سے پہلے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس عورت کو مہر نہیں ملے گا اور یہ طلاق بائنا ہوگی۔

(۱۷۵۳۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّةً عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجَهَا فَتُخَيَّرُ فَتُخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يُبْطَلُ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ .

(۱۷۵۳۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے مقرر شدہ مہر پر اپنی باندی سے شادی کی، پھر وہ باندی دخول سے

پہلے آزاد کر دی گئی، پھر اسے اختیار ملا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو نکاح باطل ہو جائے گا اور مہر اس کے خاوند کو واپس کیا جائے گا۔

(۱۷۵۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۱۷۵۳۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا جائے، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار کر لے تو اسے مہر نہیں ملے گا۔

(۱۷۵۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا . (۱۷۵۳۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا جائے، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار کر لے تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۶۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَكْذِبُ نَفْسَهُ يَسْعَهَا أَنْ تَقْرَعَ مَعَهُ ، أَوْ تَرَأْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟

ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اپنے قول سے رجوع کر لے تو عورت

اس مرد کے ساتھ قیام پذیر ہے یا معاملہ قاضی کے دربار میں لے جائے؟

(۱۷۵۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَسْعَهَا أَنْ تَقَارَهُ حَتَّى تَرَأْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فِيمَا حَدَّثَ وَإِمَّا مَلَأَعْنَةً .

(۱۷۵۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اپنے قول سے رجوع کر لے تو عورت کے لئے اس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں، وہ اس معاملے کو قاضی کے پاس لے جائے، پھر یا تو اس مرد پر حد لگے گی یا لعان ہوگا۔

(۱۷۵۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنًا وَاسْتَفْفَرَّ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِذَلِكَ .

(۱۷۵۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جماعت کے پاس اپنے قول سے رجوع کر لے تو دونوں ساتھ رہیں اور آدمی

اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ ایسے نہ کرنے کا عزم کرے۔

(۱۷۵۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَلِيمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَدَّفَهَا بِالزَّوْنِ إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجِلْدَهُ وَرَدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

(۱۷۵۳۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، پھر اگر چاہے تو اپنے قول سے رجوع کر لے، اور اس پر حد قذف جاری ہوگی اور وہ عورت اسی کی بیوی رہے گی۔

(۱۷۵۳۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزَّوْنِ ثُمَّ لَا تَرَأْفَعُهُ قَالَ : يَكْذِبُ نَفْسَهُ وَهَمَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا .

(۱۷۵۳۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اس مرد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش نہ کرے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کر لے تو نکاح باقی رہے گا۔

(۱۷۰) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَطْلُقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق

دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۵۳۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

(۱۷۵۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو اسے نصف مہر ملے گا، میراث نہیں ملے گی اور اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔

(۱۷۵۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ . (۱۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۵۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

(۱۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۵۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لَا تَرْتِنُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۷۵۴۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے

طلاق دے دے تو وہ عورت وارث نہیں ہوگی، اس پر عدت بھی نہیں ہوگی اور اسے ادھامہر ملے گا۔

(۱۷۵۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

(۱۷۵۳۳) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو اسے پورا مہر ملے گا، میراث نہیں ملے گی اور عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔

(۱۷۵۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ .

(۱۷۵۳۴) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۷۵۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۷۵۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو اسے پورا مہر ملے گا، میراث ملے گی اور عدت بھی واجب ہوگی۔

(۱۷۵۱۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيْقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۵۳۶) حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے تین طلاقیں یا ایک طلاق دے دے تو اس عورت کو میراث نہیں ملے گی۔

(۱۷۵۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

(۱۷۵۳۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو اسے میراث نہیں ملے گی۔

(۱۷۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً زَوْجَ امِّهِ

کیا آدمی اپنی ماں کے خاوند کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے؟

(۱۷۵۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً زَوْجَ امِّهِ قَالَ : وَكَانَ طَاوُوسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا .

(۱۷۵۳۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ آدمی کے اپنی ماں کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے جبکہ حضرت طاووس رضی اللہ عنہ اور عطاء رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۷۵۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً زَوْجَ أُمِّهِ .

(۱۷۵۴۹) حضرت عامر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اپنی ماں کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۵۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَزَاحِمُ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أُمَّكَ .

(۱۷۵۵۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے بندھن نہ باندھو جس سے تمہارے ماں باپ میں سے کسی نے بندھن باندھا جیسے تمہاری ماں کا خاوند۔

(۱۷۳) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجٌ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟

اگر ایک عورت نے (غلطی سے) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوند تھا، پھر بچہ پیدا

ہو گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟

(۱۷۵۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشْكُ فِيهِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشْكُ فِيهِ فَهُوَ لِلآخِرِ .

(۱۷۵۵۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے (غلطی سے) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوند تھا، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اگر دوسرے خاوند کو شک ہو تو بچہ پہلے کا ہوگا اور اگر اسے شک نہ ہو تو بچہ دوسرے کا ہی ہوگا۔

(۱۷۵۵۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرَ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ حَاصَتْ حَيْضَتُهَا : الْوَلَدُ لِلآخِرِ .

(۱۷۵۵۲) حضرت عطاء بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوسرے آدمی نے اس عورت سے اس کی عدت میں شادی کر لی، اور اس عورت کو حیض آچکا تھا تو بچہ دوسرے کا ہوگا۔

(۱۷۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْبَلُ الْمَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ، أَوْ يَقْبَلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمَّهَا ؟

اگر ایک آدمی کسی عورت کا بوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟

یا وہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آدمی کے لئے حلال ہوگی؟

(۱۷۵۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا .

(۱۷۵۵۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی عورت کا بوسہ لے، اسے شہوت کے ساتھ چھوئے یا اس کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس کی بیٹی اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۷۵۵۴) حَدَّثَنَا عُقْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا .

(۱۷۵۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی ماں کا بوسہ لے تو اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی اور اگر کسی بیٹی کا بوسہ لے تو ماں حرام ہو جائے گی۔

(۱۷۵۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْبَلُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ .

(۱۷۵۵۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لیا، یا اسے شہوت سے چھوا یا شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ اس سے صحبت کی تو چاہے تو اس سے شادی کر لے اور چاہے تو اس کی بیٹی سے شادی کر لے اور اگر کسی لڑکی سے ایسے کیا تو اس کی ماں سے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۷۵۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا : فِي الرَّجُلِ يَقْبَلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ ابْنَتَهَا ، قَالَا : حَرَمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ .

(۱۷۵۵۶) حضرت قتادہ اور حضرت ابو ہاشم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۷۴) مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ ؟

جن حضرات کے نزدیک غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے

(۱۷۵۵۷) حَدَّثَنَا شَرِيْكَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ .

(۱۷۵۵۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے۔

(۱۷۵۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ تَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا .

(۱۷۵۵۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ عورت اپنے کپڑے اپنے غلام کے پاس رکھوائے، لیکن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھے۔

(۱۷۵۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ .

(۱۷۵۵۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھے۔

(۱۷۵۶۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا :

(۱۷۵۶۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے غلام سے پردہ کرے گی۔

(۱۷۵۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَا تَفْرَنْكُمُ

هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يُعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ .

(۱۷۵۶۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن مجید کی اس آیت سے دھوکہ نہ ہو ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

اس سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں۔

(۱۷۵۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بغيرِ إِذْنِهَا .

(۱۷۵۶۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام اپنی مالکن کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔

(۱۷۵۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنِ الصَّحَّاحِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ .

(۱۷۵۶۳) حضرت صحاح رضی اللہ عنہما اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ غلام اپنے مالکن کے بال دیکھے۔

(۱۷۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أُخْتِهَا ؟

آدمی اپنی ماں یا بہن کے بال دیکھ سکتا ہے

(۱۷۵۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَوْ ابْنَتِهِ .

(۱۷۵۶۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنی بہن یا بیٹی کے بالوں کو مستقل طور پر دیکھنا مکروہ ہے۔

(۱۷۵۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ .

(۱۷۵۶۵) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ کے نزدیک آدمی کا اپنی بیٹی یا بہن کے بالوں کو دیکھنا مکروہ ہے۔

(۱۷۵۶۶) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ

رُؤُوسَهُنَّ يَسْتَبِرْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ .

(۱۷۵۶۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے آدمی کا نکاح حرام ہے ان کے سروں کا پردہ کرتا میرے نزدیک اچھا

ہے۔ البتہ آدمی کی نگاہ اگر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۵۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ

الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتَيْهِمَا أُمَّ كَلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ .

(۱۷۵۶۷) حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت چلے جایا کرتے تھے جب وہ کنگھی کر رہی ہوتی تھیں۔

(۱۷۵۶۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ حِمَارَهَا عِنْدَ أُخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ .

(۱۷۵۶۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت اپنے بھائی کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم! وہ ایسا نہیں کر سکتی۔

(۱۷۵۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شَعْرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ .

(۱۷۵۶۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی محرم عورت کے بال دیکھنا بھی مکروہ ہے۔

(۱۷۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُغْلِيهَا ؟

ماں کے بالوں کو دیکھنا، ان میں کنگھی کرنا اور چڑیاں بنانا کیسا ہے؟

(۱۷۵۷۰) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُورِقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْلِي أُمَّهُ .

(۱۷۵۷۰) حضرت مورق رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی والدہ کی چڑیاں کیا کرتے تھے۔

(۱۷۵۷۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلْقًا كَانَ يَذُوبُ أُمَّهُ .

(۱۷۵۷۱) حضرت طلق رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی چڑیاں کیا کرتے تھے۔

(۱۷۵۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الضَّحَاكِ أَنَّهُ كَانَ يَمْسُطُ أُمَّهُ .

(۱۷۵۷۲) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی کنگھی کیا کرتے تھے۔

(۱۷۵۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَأَنْ تَسْتَبْرَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ .

(۱۷۵۷۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ کے بال دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر بالوں کو چھپایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

(۱۷۵۷۴) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَبْتَهَا الْعَجُوزُ ، غَطَّى رَأْسَكَ .

(۱۷۵۷۴) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو کہوں اے ماں! سر ڈھانپ لے۔

(۱۷۵۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ

يُدَوِّبُ أُمَّهُ.

(۱۷۵۷۵) حضرت ابن احنفہ رضی اللہ عنہما اپنی والدہ کی چٹیاں کیا کرتے تھے۔

(۱۷۵۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَارِعٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ: غَطِّي رَأْسِكَ.

(۱۷۵۷۶) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: بہتر ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو کہوں اے ماں! سر ڈھانپ لے۔

(۱۷۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ؟

جلد کے جلد کو چھونے کا حکم

(۱۷۵۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَبَاشِرَةُ الرَّجُلِ أُخْتُهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزُّنَا.

(۱۷۵۷۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی جلد کا اپنی بہن یا ماں کی جلد کو چھونا زنا کا ایک حصہ ہے۔ (یہاں باب میں لفظ مباشر سے مراد جلد کا جلد کو چھونا ہے، مباشرت مراد نہیں۔ نیز پاؤں اور ہتھیلیوں وغیرہ کو چھونا بھی مراد نہیں)

(۱۷۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ ، أَوْ امْرَأَةِ جَدِّهِ

دادی یا نانی کے بال دیکھنے کا حکم

(۱۷۵۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرِيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَهُنَّ لَهُمَا حَلٌّ.

(۱۷۵۷۸) حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین کو نہیں دیکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے لئے امہات المؤمنین کو دیکھنا جائز سمجھتے تھے۔

(۱۷۵۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتَنَتِهِ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ إِسْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ الْآيَةَ ، فَقَالَ: أَرَاهَا فِيهِنَّ.

(۱۷۵۷۹) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آدمی اپنی ساس کے سر کو دیکھ سکتا ہے تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی (ترجمہ) وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے سرور کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے خاوند کے بیٹوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے۔ پھر فرمایا کہ کیا تو اسے ان میں دیکھتا ہے۔

(۱۷۵۸۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ﴾ حَتَّى فَرَعَ مِنْهَا قَالَا: لَمْ يَذْكَرِ الْعَمَّ وَالْخَالَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا وَقَالَا: لَا تَضَعُ حِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالَ.

(۱۷۵۸۰) حضرت شعبی اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ، أَوْ أَبَائِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں چچا اور ماموں کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے کہ یہ دونوں اپنے بیٹوں کے تذکرے میں آگئے، اور فرمایا کہ عورت چچا اور ماموں کے سامنے اپنا دوپٹہ نہ اتارے۔

(۱۷۹) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطْوُهَا؟

کیا کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد کو اپنی باندی سے جماع کی اجازت دے سکتے ہیں؟

(۱۷۵۸۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ سَيْلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مِنْ شِئْتَ.

(۱۷۵۸۱) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی عورت اپنی باندی کو اپنے خاوند کے لئے حلال قرار دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوتا تو وہ اسے سنگسار کرنے کا حکم دیتے، تیرے لئے صرف وہی باندی حلال ہے جسے تو اپنے مرضی سے بیچ سکے اور اپنی مرضی سے آزاد کر سکے، اگر چاہے تو اسے بہہ کر سکے اور اگر چاہے تو اس سے نکاح کر سکے۔

(۱۷۵۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ فُرْجُ الْأَبِيهِ، أَوْ نِكَاحِ، إِنْ طَلَّقَ جَارًا، وَإِنْ أَعْتَقَ جَارًا، وَإِنْ وَهَبَ جَارًا.

(۱۷۵۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرج کی حلت مکمل ملکیت یا نکاح سے ثابت ہوتی ہے، کہ اگر چاہے تو طلاق دے دے، اگر چاہے تو آزاد کر دے اور اگر چاہے تو بہہ کر دے۔

(۱۷۵۸۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِينَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَحِلُّ وَلَيْدَتُهَا لِأَبِيهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحِ، أَوْ بِنِكَاحِ، أَوْ بِبِشْرَائِهِ.

(۱۷۵۸۳) حضرت معینہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا عورت کی باندی اس کے بیٹے کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حلت نکاح، بہہ یا خریدنے سے ثابت ہوتی ہے۔

(۱۷۵۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يِعَارُ الْفُرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فِيهِ لَهٌ.

(۱۷۵۸۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرج عاریہ نہیں لیا جاتا اگر مالک کی اجازت سے کسی نے جماع کیا تو وہ اسی کی ہوگی۔
(۱۷۵۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِأَخْرَجَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطْوُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتُهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا وَطِنَهَا فَهِيَ لَكَ .

(۱۷۵۸۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری باندی سے جماع کر لے، اگر وہ حاملہ ہوگی تو تیری اور اگر حاملہ نہ ہوگی تو مجھے واپس کر دینا۔ اس صورت میں اگر اس آدمی نے اس سے وطی کی تو وہ اسی کی ہو جائے گی۔
(۱۷۵۸۶) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا أُحِلَّ لَكَ فَرُجُهَا فَهِيَ لَكَ .

(۱۷۵۸۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے باندی کی فرج کسی کے لئے حلال کیا تو وہ اسی کی ہوگی۔

(۱۷۵۸۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أُحِلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : هَذَا فَرُجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَالْحَقُّ بِهِ الْوَلَدُ وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَوَلِدَتَهَا .
(۱۷۵۸۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے اپنی باندی اپنے خاوند کے لئے حلال کر دی اور اس جماع سے باندی نے بچے کو جنم دیا تو یہ ایک ایسی شرمگاہ ہے جس پر جہالت کی وجہ سے آیا گیا ہے، بچہ آدمی کا ہوگا اور یہ باندی ام ولد کی حیثیت سے مالکن کو واپس لوٹانی جائے گی۔

(۱۷۵۸۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْفُرُجُ لَا يُعَارُ .
(۱۷۵۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ شرمگاہ عاریہ نہیں دی جاسکتی۔

(۱۷۵۸۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أُمَّةٌ لِصَاحِبَتِي أُحِلَّتْ لِي قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا .

(۱۷۵۸۹) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ کیا میری بیوی کی باندی میرے لئے حلال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لئے صرف وہ حلال ہے جس کے تم مالک ہو۔

(۱۸۰) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيَّ مَكَاتِبَتِهِ

کیا آدمی مکاتبہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟

(۱۷۵۹۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيَّ مَكَاتِبَتِهِ قَالَ يَحْسَبُ لَهَا صَدَاقٌ مِنْهَا .
(۱۷۵۹۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی مکاتبہ باندی سے جماع کیا تو اسے مہر مثلی ادا کرے گا۔

(۱۷۵۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا غَشِيَ مَكَاتِبَتَهُ فَهِيَ أُمَّةٌ

وَلَدِهِ.

(۱۷۵۹۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبہ باندی سے جماع کیا تو وہ ام ولد بن جائے گی۔

(۱۷۵۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مَكَاتِبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ .

(۱۷۵۹۳) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی مکاتبہ باندی سے جماع کیا، اگر زبردستی کیا تو حد بھی لگے گی عقرب (فرج مغصوب کی دیت) بھی دینا ہوگی۔ اور اگر مکاتبہ کی خوشی سے کیا تو حد تو لگے گی لیکن عقرب نہیں دے گا۔

(۱۷۵۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: تَعْوِذُ الْمَكَاتِبَةِ فَتَكُونُ أُمَّمٌ وَلَدٌ يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ .

(۱۷۵۹۳) حضرت ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبہ باندی سے وطی کی اور اس کا بچہ ہو گیا تو وہ ام ولد بن جائے گی۔

(۱۷۵۹۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمَكَاتِبَةِ أَنْ يَطَّأَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَّأَهَا .

(۱۷۵۹۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی باندی کو اس شرط پر مکاتبہ بنائے کہ اس سے وطی کرتا رہے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرط برقرار رہے گی اور وہ وطی کر سکتا ہے۔

(۱۷۵۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مَكَاتِبَتَهُ ، فَقَالَ: مَا رَأَى مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا .

(۱۷۵۹۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مکاتبہ باندی سے وطی کی تو اس کی باقی ماندہ غلامی اس کی آزادی کا مہر بن جائے گی۔

(۱۸۱) مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ؟

جن حضرات کے نزدیک زانی پر عقرب (فرج مغصوب کی دیت) نہیں ہے

(۱۷۵۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ .

(۱۷۵۹۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی پر عقرب (فرج مغصوب کی دیت) نہیں ہے۔

(۱۷۵۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالَا: لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَصْرُكُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً .

(۱۷۵۹۷) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا جو کسی آزاد عورت سے زبردستی زنا کرے، کہ اس پر عقرب ہو گا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر عقرب نہیں ہے خواہ عورت آزاد ہو یا باندی۔

(۱۷۵۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَا : إِنْ كَانَتْ بِمَكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ نَيْبًا فَالْحَدُّ .

(۱۷۵۹۸) حضرت عطاء اور حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر عورت باکرہ ہو تو عقرا اور حد دونوں لازم ہوں گے اور اگر شیبہ ہو تو صرف حد لگے گی۔

(۱۷۵۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ حَدُّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ .

(۱۷۵۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی پر حد اور تادان جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ الْعُقْرُ .

(۱۷۶۰۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حد جاری ہو جائے تو تادان نہیں لیا جائے گا۔

(۱۸۲) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَقْبَلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

کیا غیر محرم عورت آدمی کا سر چوم سکتی ہے؟

(۱۷۶۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَعِينٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَمَرَ : لِأَنْ يَجْعَلَ فِي رَأْسِي مَحِيْطٌ حَتَّى يَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْبَلَ رَأْسِي أَمْرًا لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ .

(۱۷۶۰۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں کوئی سوئی پوری کی پوری اپنے سر میں چھو دوں مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی غیر محرم عورت میرے سر کو چومے۔

(۱۷۶۰۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِأَنْ يَنْقَبَ الْقَمْلُ دِمَاحَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفْلِيَهُ أَمْرًا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، قَالَ : وَذَكَرْنَا أَنَّ أَمْرًا كَانَتْ تُفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلْتُهُ .

(۱۷۶۰۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا دماغ جوڑوں سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی غیر محرم عورت اس کے بالوں کی مینڈیاں بنائے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک آدمی کی مینڈیاں بنا رہی تھی تو اس نے اس کا بوسہ لے لیا تھا۔

(۱۷۶۰۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ .

(۱۷۶۰۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے لئے آدمی کا سر دھونا درست نہیں۔

(۱۷۶۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

قَالَ: لِأَنَّ يَعْمَدَ أَحَدَكُمْ إِلَى مَخِيطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ.

(۱۷۶۰۳) حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص ایک سوئی پوری میرے سر میں چھو دے یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی غیر محرم عورت میرے سر کو دھوئے۔

(۱۷۶۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَكَيْفَةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تَقْلِي رَأْسِي .

(۱۷۶۰۵) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ مکہ تک کا سفر کیا، وہ میرا سر دھویا کرتی تھی یا فرمایا کہ وہ میری چھیاں بنا یا کرتی تھی۔

(۱۷۶۰۶) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأْسِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي .

(۱۷۶۰۶) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے کپڑے دھوئے اور میرے سر میں کٹھنی کی۔

(۱۸۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأُمَّةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا؟

اگر آدمی کسی باندی سے شادی کرے تو کیا اس کو اس کے شہر سے نکال سکتا ہے؟

(۱۷۶۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأُمَّةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ .

(۱۷۶۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باندی سے شادی کرے تو اسے اس کے شہر سے نہیں نکال سکتا۔

(۱۷۶۰۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالَا : لَيْسَ لَهُمْ بَدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَحْدِمُوَهَا .

(۱۷۶۰۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما اور حضرت مکحول رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مالک کو خدمت کی فراہمی ضروری ہے۔

(۱۸۴) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَوْجِهَا؟

اگر کوئی عورت خود کو خاوند کے لئے ہبہ کر دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۶۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ بَشَّرَ

بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، لَمْ تَحِلَّ الْمُؤَهَّبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أُصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ .

(۱۷۶۰۹) حضرت ابن قسطلیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی گئی، اس سے ایک آدمی نے کہا کہ اسے میرے لئے ہبہ کرتے ہو؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لئے ہبہ شدہ عورت حلال نہیں، اگر وہ اس کو ایک کوزا (سوط) ہی مہر دے دے تو پھر بھی اس کے لئے حلال ہو جائے گی۔

(۱۷۶۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۶۱۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر مہر کے لئے کسی کے لئے اپنی بیٹی کو ہبہ کرنا درست نہیں، یہ صرف نبی ﷺ کے لئے تھا۔

(۱۷۶۱۱) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ .

(۱۷۶۱۱) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آدمی کا اپنی بیٹی کو کسی آدمی کے لئے ہبہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بغیر مہر کے درست نہیں۔

(۱۷۶۱۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوْ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ وَلَا يَفْرُضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزَّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمُؤَهَّبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۶۱۲) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو کسی کے لئے ہبہ کر سکتا ہے کہ مہر معاف کر دے؟ حضرت مکحول اور حضرت زہری رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مہر رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لئے حلال نہیں ہے۔

(۱۷۶۱۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُو هَارِبٍ لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

(۱۷۶۱۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت جس نے خود کو کسی کے لئے ہبہ کر دیا یا اس کے باپ نے اسے کسی کے لئے ہبہ کر دیا تو ایسی عورت کو مہر مثلی ملے گا اگر دخول کیا اور اگر دخول نہ کیا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اسے متعہ ملے گا۔

(۱۷۶۱۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَدَاقٍ .

(۱۷۶۱۳) حضرت عطاء بن یشیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لئے بہہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بغیر مہر کے درست نہیں۔

(۱۷۶۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَجِي أَمْرًا أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنَّ رَبَّكَ لَيَسَارِعُ لَكَ فِي هَؤُلَاءِ . (بخاری ۵۱۱۳ - مسلم ۵۰)

(۱۷۶۱۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورت اس بات سے نہیں شرماتی کہ اپنے آپ کو کسی مرد کے لئے بہہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔

(۱۷۶۱۶) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۶۱۶) حضرت عطاء بن یشیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لئے بہہ کرنا بغیر مہر کے درست نہیں، یہ نبی پاک ﷺ کی خصوصیت ہے۔

(۱۸۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ

ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرے، دخول بھی کرے اور پھر معلوم ہو کہ وہ تو محرم ہے

(۱۷۶۱۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

(۱۷۶۱۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے غلطی سے کسی محرم سے شادی کر کے ہمبستری بھی کی تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۶۱۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ .

(۱۷۶۱۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عورت نے مہر لیا وہ اسی کا ہوگا۔

(۱۷۶۱۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ مِثْلَهُ .

(۱۷۶۱۹) حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۶۲۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيْصَدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟

(۱۷۶۲۰) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مہر نہیں ملے گا خواہ آدمی نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کیا آدمی اپنی بہن یا ماں کو مہر دے گا؟

(۱۷۶۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرِّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقٌ .

(۱۷۶۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے انجانے میں اپنی رضاعی بہن سے شادی کر لی پھر اسے بعد میں علم ہوا تو یہ نکاح باطل ہوگا، اگر دخول کیا تو فرج کو حلال کرنے کی بنا پر مہر لازم ہوگا اور اگر دخول نہ ہوا تو بغیر مہر کے دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔

(۱۷۶۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَمَا مَلَ .

(۱۷۶۲۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے انجانے میں اپنی سگی یا رضاعی بہن سے شادی کی اور پھر دخول بھی کر بیٹھا تو اسے مہر ملے گا۔

(۱۷۶۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ .

(۱۷۶۲۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۶۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ : كُلُّ جَمَاعٍ دُرَّةٌ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَمَا مَلَ .

(۱۷۶۲۴) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جماع جس میں حد نہ ہو اس میں پورا مہر ہوتا ہے۔

(۱۷۶۲۵) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ .

(۱۷۶۲۵) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے انجانے میں اپنی رضاعی بہن سے شادی کر لی اور اس سے جماع بھی کر بیٹھا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی، اور عورت کو پورا مہر نہیں ملے گا بلکہ کچھ حصہ ملے گا۔

(۱۸۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجَهَا

نابالغ بچی کی شادی کرانے اور اس سے شادی کرنے کا حکم

(۱۷۶۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ . (مسلم ۷۲ - احمد ۳۲)

(۱۷۶۲۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ان سے نو سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

(۱۷۶۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَن سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةَ لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفَسَتْ بَعْنَى حِينَ وُلِدَتْ.

(۱۷۶۲۷) حضرت عمرو بن شیبہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اس وقت کرادی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی۔

(۱۷۶۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.

(۱۷۶۲۸) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ایک بیٹے کی شادی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی ایک نابالغ بیٹی سے کرائی تھی۔

(۱۷۶۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَةَ أُمِّ كَلثُومَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانظُرْ إِلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتَهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا أَيَّاهُ.

(۱۷۶۲۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو چھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی طرف ایک پیغام بھیجا جن میں ان سے مزاح کیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے یا اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مصاہرت کا رشتہ پسند تھا، چنانچہ انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کرادیا۔

(۱۷۶۳۰) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرِ بِنِ .

(۱۷۶۳۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ دو نابالغ بچوں کے نکاح کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۱۷۶۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصَّغَارِ .

(۱۷۶۳۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نابالغ بچوں کا نکاح پسند نہیں تھا۔

(۱۸۷) من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة

جن حضرات کے نزدیک دیہاتی کا مہاجرہ عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے

(۱۷۶۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لَا يَنْكُحُ الْمُهَاجِرَةَ ، يُخَوِّجُهَا مِنْ دَارِ الْهَجْرَةِ .

(۱۷۶۳۲) حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف خط لکھا کہ کوئی دیہاتی کسی مہاجرہ عورت

سے نکاح نہ کرے کہ اسے دارِ ہجرت سے نکال دے۔

(۱۷۶۳۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ .

(۱۷۶۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ دیہاتی کسی مہاجرہ سے نکاح کرے۔

(۱۷۶۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ .

(۱۷۶۳۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی دیہاتی کسی مہاجرہ سے نکاح کرے تاکہ اسے شہر سے لے جائے۔

(۱۷۶۳۵) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرَّكِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ زَبَانَ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجِبَيْنِ ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوهَا ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيهَا فَانْكَحَهَا ابْنُ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَدْ أَنْكَحَتْ ، فَفَضِبَ أَبُوهَا غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ : إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يُنْكَحُ الْمُهَاجِرَاتُ الْأَعْرَابَ .

(۱۷۶۳۵) حضرت رکیب رضی اللہ عنہما کے والد فرماتے ہیں کہ منظور بن زبان نے اپنے ماموں سے رشتہ مانگا۔ (اس وقت وہ دونوں حج یا عمرے میں تھے) انہوں نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے جب میں واپس لوٹوں گا تو تمہارا نکاح کر دوں گا، ادھر اس لڑکی کے سنے بھائی نے اپنے ماموں زاد سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جس کا رشتہ اس کے باپ نے وہاں طے کیا تھا، جب وہ واپس آئے تو لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اس صورت حال کو دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں اس نکاح سے بالکل بری ہوں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہاجرہا کا نکاح دیہاتیوں سے نہیں کرایا جاسکتا۔

(۱۸۸) مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے

(۱۷۶۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرْيَةٌ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ .

(۱۷۶۳۶) حضرت عمرو بن شریب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی کی ایک بیوی اور ایک باندی ہو، ان میں سے ایک کسی لڑکے کو جنم دے اور دوسری کسی لڑکی کو دودھ پلائے تو کیا اس لڑکے کا دودھ پینے والی لڑکی سے نکاح درست ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ دونوں میں دودھ کے اترنے کا سبب ایک مرد ہے۔

(۱۷۶۲۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لَبْنَ الْفُحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ .

(۱۷۶۲۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱۷۶۲۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَأَبْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ يُعْنَى لَبْنَ الْفُحْلِ .

(۱۷۶۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱۷۶۲۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۱۷۶۲۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱۷۶۳۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يَرَى لَبْنَ الْفُحْلِ يُحْرَمُ .

(۱۷۶۳۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔

(۱۷۶۳۱) حَدَّثَنَا وَرَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۱۷۶۳۱) حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی عورت کے دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱۷۶۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَةً أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً

مِنْ عَرْضِ النَّاسِ بِلَبَانِ إِخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لَا ، أَبُوكَ أَبُوهَا ، وَسَأَلْتُ طَاوُوسًا ، فَقَالَ مِثْلَ

ذَلِكَ وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : اِخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا

وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ .

(۱۷۶۳۲) حضرت عباد بن منصور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میرے والد کی بیوی نے ایک

لڑکی کو میری باپ شریک بہن کے حصے کا دودھ پلایا، کیا وہ لڑکی میرے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تیرا باپ اس کا باپ

ہے۔ میں نے یہی سوال حضرت طاووس رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یہ سوال میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے بھی

یہی فرمایا۔ یہ سوال میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے فرمایا کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ میں اس میں کوئی بات نہیں

کہتا۔ میں نے ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ والی بات کہی۔

(۱۷۶۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ نَبَتْ أَنْ أَنَا مِنْ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهُهُ وَمَنْ كَرِهَهُ وَفِي أَنْفُسِنَا مَعَنْ لَمْ يَكْرَهُهُ ،

وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ .

(۱۷۶۳۳) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے

بتایا گیا ہے کہ اہل مدینہ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ بتایا ہے اور بعض کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

جن حضرات نے اسے مکروہ بتایا ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ قاسم بن محمد بھی اسے مکروہ بتاتے تھے۔

(۱۷۶۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَدِمَ الزُّهْرِيُّ الْمَدِينَةَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَتْ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقَعِيسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا امْرَأَةً أُخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَرَعَمَ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَهَلَّا أَذُنْتُ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ .

(۱۷۶۴۴) حضرت محمد بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت زہری رضی اللہ عنہما کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو قعیس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات کے لئے اجازت چاہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو قعیس کو ابو قعیس کے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے اس بات کا تذکرہ حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے انہیں اجازت کیوں نہیں دی، رضاعت بھی ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جنہیں نسب حرام کرتا ہے۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن کر اہل مدینہ گھبرائے۔ عبداللہ بن ابی حبیبہ مولیٰ زبیر نے اس موقع پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔

(۱۷۶۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لِبْنِ الْفُحْلِ ، فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أَنَسٌ وَرَخِصَ فِيهِ أَنَسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ .

(۱۷۶۴۵) حضرت ہشام رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ دودھ اترنے کا سبب بننے والے مرد کے حکم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مکروہ ہے، بعض نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن لوگوں نے اسے مکروہ خیال کیا ان کا قول زیادہ بہتر ہے۔ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما بھی اسے مکروہ سمجھتے تھے۔

(۱۷۶۴۶) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لِبْنِ الْفُحْلِ .

(۱۷۶۴۶) حضرت ہشام رضی اللہ عنہما نے دودھ اترنے کا سبب بننے والے مرد کو شرعی حیثیت دی ہے۔

(۱۸۹) مَنْ رَخِصَ فِي لَبَنِ الْفُحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

جن حضرات کے نزدیک دودھ اترنے کا سبب بننے والا مرد شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا

(۱۷۶۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعْتَنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقُرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدَّثَنِي بِرَبِّي أَنَّهُ أَبِي وَأَنْ مَا وَلَدَ إِخْوَتِي ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الرُّبَيْرُ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: هَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَعِيَ بِنْتِكَ وَأَنَا أَخُوكَ، وَمَا وَلَدْتُ أَسْمَاءَ فَهَمُّ إِخْوَتِكَ وَمَا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِبَعِيرٍ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخْوَةَ فَأَرْبِيبِي فَسَلِّي فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَافِرُونَ وَأَمَهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا: إِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحْرَمُ شَيْئًا.

(۱۷۶۲۷) حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ (ان کے خاوند) حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میرے پاس اس وقت تشریف لے آتے جب میں کنگھی کر رہی ہوتی اور میری چٹیا کو پکڑ لیتے، اور وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے مجھ سے باتیں کرتے اور وہ اپنے بیٹوں کو میرا بھائی سمجھتے۔ یوم حرہ کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حمزہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لئے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ حمزہ اور مصعب (حضرت زبیر کے دو بیٹے، حضرت اسماء کے بیٹے نہ تھے بلکہ) بنو کلب کی عورت سے تھے۔ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ کیا میری بیٹی کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے بھیجے گئے رشتے کا انکار کر رہی ہو حالانکہ میں تمہارا بھائی ہو؟ جو بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ہوئے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں اور جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی کسی اور بیوی سے ہوئے ہیں وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تم یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھ سکتی ہو۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یقید حیات تھے، میں نے ان سے سوال کیا تو سب نے فرمایا کہ مردوں کی طرف سے آنے والی رضاعت کسی چیز کو حرام نہیں کرتی۔

(۱۷۶۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءَ وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَّارٍ ، عَنِ الرِّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لَا تُحْرَمُ شَيْئًا.

(۱۷۶۲۸) حضرت یزید بن عبداللہ بن قسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمن، سعید بن مسیب، عطاء اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے مردوں کی طرف سے آنے والی رضاعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتی۔

(۱۷۶۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي آلُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنَ خَدِيْجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سَوَى أُمِّ ابْنِهِ الْوَدَى أَنْجَحَهَا يَا هُ.

(۱۷۶۲۹) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی رفاعہ بن خدیج کے بیٹے سے کرائی، حالانکہ اس لڑکی کو ایک ایسی عورت نے دودھ پلایا تھا جو اس لڑکے کی ماں تو نہ تھی لیکن حضرت رفاعہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کی ایسی باندی تھی جس سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی۔ یعنی اس باندی کے دودھ اترنے کا سبب حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ تھے۔

(۱۷۶۵۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ لَكِنَّ الْفُحْلَ شَيْئًا .
 (۱۷۶۵۰) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ اترنے کا سبب بننا مرد کو رضاعی باپ نہیں بناتا۔
 (۱۷۶۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرِ بَلَيْنَ الْفُحْلِ بَأْسًا .
 (۱۷۶۵۱) حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ اترنے کا سبب بننا مرد کو رضاعی باپ نہیں بناتا۔
 (۱۷۶۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بَلَيْنَ الْفُحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ يَا سُبُّنَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْفُرُهُ هَذَا ؟ .

(۱۷۶۵۲) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ مکہ میں دودھ اترنے کا سبب بننے والی مرد کی حرمت کے بارے میں سنا، تو اس موقع پر ایسا بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا شروع کیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اور اسے کون مکروہ سمجھتا ہے۔
 (۱۷۶۵۲) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرِي لَكِنَّ الْفُحْلَ شَيْئًا .
 (۱۷۶۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ اترنے کا سبب بننا مرد کو رضاعی باپ نہیں بناتا۔
 (۱۷۶۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرِي بَلَيْنَ الْفُحْلِ بَأْسًا .
 (۱۷۶۵۴) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ اترنے کا سبب بننا مرد کو رضاعی باپ نہیں بناتا۔

(۱۹۰) إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

جب لعان کرنے والے مرد و عورت کے درمیان جدائی کرا دی گئی تو وہ دونوں کبھی اکٹھے

نہیں ہو سکتے اور آدمی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا

(۱۷۶۵۵) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ وَقَالَ حَسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ . (بخاری ۶۸۵۳ - ابوداؤد ۲۲۳۵)

(۱۷۶۵۵) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے لعان کرنے والے خاندان بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فرمایا کہ تم دونوں کا حساب اللہ پر ہے۔

(۱۷۶۵۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا قُوَّةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا نَفَقَةَ . (ابوداؤد ۲۲۵۰ - طبرانی ۲۲۶۷)

(۱۷۶۵۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فیصلہ فرمایا کہ مرد پر عورت کے لئے نہ تو کھانے کا انتظام ہوگا اور نہ نفقہ۔

(۱۷۶۵۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُتَلَاعِنَانِ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .

(۱۷۶۵۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.

(۱۷۶۵۸) حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ.

(۱۷۶۵۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت کبھی ایک شہر میں جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

(۱۷۶۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ لعان کرنے والے مرد و عورت کے درمیان جدائی کر دیتے تھے اور ان کے پھر کبھی جمع نہ ہونے کے قائل تھے۔

(۱۷۶۶۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

(۱۷۶۶۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی سے لعان کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوں گے۔

(۱۷۶۶۲) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۶۶۲) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۶۶۳) حضرت طاووس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۴) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۶۶۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۶۶۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مرد و عورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتْ السَّنَةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.

(۱۷۶۶۶) حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شرعی طریقہ یہی رہا ہے کہ لعان کرنے والے مرد و عورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۷۶۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي رَجُلٍ لَا عَن نَّمْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إِذَا لَا عَن انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا .

(۱۷۶۶۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا پھر عدت میں اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب لعان کیا تو ان دونوں کے درمیان ہر طرح کا رشتہ ختم ہو گیا۔

(۱۹۱) مَنْ قَالَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ

جن حضرات کے نزدیک لعان کرنے والا مرد اپنے قول سے رجوع کرنے کے بعد عورت کو

پیام نکاح بھیج سکتا ہے

(۱۷۶۶۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي الْمُلَاعِنِ يَكْذِبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِبٌ .
(۱۷۶۶۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لعان کرنے والا مرد اپنے قول سے رجوع کر لے تو اس پر حد جاری ہوگی اور وہ نکاح کا پیام اس عورت کو بھیج سکتا ہے۔

(۱۷۶۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَالزَّرَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَرَدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

(۱۷۶۶۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لعان کرنے والے نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو اس پر حد جاری ہوگی، بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس کی بیوی اس کی طرف واپس لوٹادی جائے گی۔

(۱۷۶۷۰) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ ، فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ .
(۱۷۶۷۰) حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والے میاں بیوی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی تکذیب کر دے تو اس سے شادی کر سکتا ہے۔

(۱۹۲) مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنِينَ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ؟

اگر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو عورت کو مہر ملے گا یا نہیں؟

(۱۷۶۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّكَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبَعْدَ لَكَ .

(بخاری ۵۳۵۰۔ مسلم ۵)

(۱۷۶۷۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور اب مرد کا عورت پر کوئی حق نہیں۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرے لئے کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو عورت سے مباشرت کی حلت کے بدلے تیرا مال خرچ ہو گیا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو کسی قسم کا حق باقی نہیں رہا۔

(۱۷۶۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لَا مَالَ لَكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَيَّ أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَأَمْرَاتِي جَمِيعًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ أَمْرَةٌ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لَا شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَنَّتْ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : ذَهَبَتْ أَمْرَاتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الْفَسَاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْدِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَيَّ الْحَجَّاجُ قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : الْوَلَدَ قُلْتُ أُنْشِءُ قُلْتُهُ بِرَأْسِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَّغْتَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي الْعَجْلَانِ .

(بخاری ۵۳۳۹ - مسلم ۴)

(۱۷۶۷۲) حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، آدمی نے سوال کیا کہ میرے مال کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ تجھے کوئی مال نہیں ملے گا۔ پھر وہ آدمی ابو بردہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور عرض کیا کہ کیا میرا مال اور میری عورت دونوں گئے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ جس شخص نے تجھے لعان کا حکم دیا ہے اس نے کہا ہے کہ تیرے لئے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا اس نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں گیا۔ کہا کہ ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی اور مال دونوں گئے۔ کہا میں نے کہا کہ فاسقوں کو زنا پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اس پر تہمت لگاتا ہے پھر اس سے لعان کرتا ہے اور پھر اپنا مال لے لیتا ہے، یہ بات حجاج کی طرف لکھی گئی تو اس نے کہا اس نے سچ کہا۔ پھر ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں نے سمجھا کہ حجاج نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اپنی رائے سے کی ہے یا آپ تک پہنچی ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے بنو عجلان کی بہن کے بارے میں اسی کا فیصلہ فرمایا تھا۔

(۱۹۳) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَدِّقُ الرَّجُلَ

اگر عورت نکاح کا مہر خود ادا کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۶۷۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يُحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا أَيْ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ

رَجُلًا عَلَيَّ أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَبَيْدَهَا الْفُرْقَةُ وَالْجَمَاعُ ، فَقَالَ عَلِيُّ : خَالَفْتُ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتُ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبَيْدِكَ الْجَمَاعُ وَالْفُرْقَةُ ، وَلَكَ السُّنَّةُ .

(۱۷۶۷۳) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا کہ ایک عورت نے کسی آدمی سے اس شرط پر شادی کی کہ مہر عورت کے ذمے ہوگا اور جدائی اور جماع کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے سنت کی مخالفت کی اور معاملے کا ذمہ دار غیر اہل کو بنایا، مہر تجھ پر ہی ہوگا، جماع اور جدائی کا اختیار بھی تیرے پاس ہوگا، اور تیرے لئے ہی سنت ہے۔

(۱۷۶۷۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصُدَّقْنَ الرَّجَالَ .

(۱۷۶۷۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورتیں مردوں کو مہر نہیں دے سکتیں۔

(۱۹۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ أُخْتَهُ ، أَيْجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟

کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے؟

(۱۷۶۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ بِوَأَسْطَةِ فِكْرِهِتْ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتْ .

(۱۷۶۷۵) حضرت حماد بن ابی درداء رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ لڑکی اپنے نفس کی اپنے بھائی سے زیادہ حقدار ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر وہ اس کا بھائی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لڑکی کو اگر رشتہ ناپسند ہو تو وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے۔

(۱۷۶۷۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ : الْأَمْرُ إِلَى أَبِيهَا .

(۱۷۶۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں اپنی بہن کی شادی کرائی تو اس کا معاملہ اس کے باپ کے سپرد ہوگا۔

(۱۹۵) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو جن حضرات کے نزدیک وہ اسے دیکھ سکتا ہے

(۱۷۶۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : حَاطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَانظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا .

(ترمذی ۱۰۸۷۔ ابن ماجہ ۱۸۶۵)

(۱۷۶۷۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اسے دیکھ لو، یہ تمہارے رشتے کے دیر پا ہونے کا سبب بنے گا۔

(۱۷۶۷۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَحَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ لَكُنْتُ أَتَخَبُّ تَحْتِ الْكُرْبِ حَتَّى نَظَرْتُ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

(۱۷۶۷۸) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوائے تو اگر اس کے اس دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے دیکھ لے“ پس میں نے بنو سلمہ کی ایک لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام بھجوایا اور کھجور کی چھال کے نیچے چھپ کر میں نے اسے دیکھا اور پھر اس سے شادی کر لی۔

(۱۷۶۷۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْفَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (طبرانی ۵۰۰)

(۱۷۶۷۹) حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا پھر میں اس کی کھجوروں کی چھال میں چھپ کر اسے دیکھتا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ڈال دے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۶۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي أَبِي: اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا قَالَ: فَلَبِستُ وَتَهَيَّأتُ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَالَ: لَا تَدْهَبْ.

(۱۷۶۸۰) حضرت ابن طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ جاؤ اور اسے دیکھ لو۔ میں نے نئے کپڑے پہنے اور تیار ہو گیا تو میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ مت جاؤ۔

(۱۷۶۸۱) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(۱۷۶۸۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو شادی سے پہلے اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۷۶۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ .

(۱۷۶۸۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو شادی سے پہلے اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الاحزاب ۵۲]

(۱۷۶۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ يَطَارِدُ نَبِيَّةَ بِنْتَ الصَّحَّاحِ وَهِيَ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصْرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا لَقِيَ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خُطْبَةً امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا . (ابن حبان ۳۰۴۲)

(۱۷۶۸۳) حضرت سلیمان بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نبیہ بنت صحاح کو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ڈال دے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۶) قَوْلُهُ (فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ)

قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء ۱۲۷]

کی تفسیر

(۱۷۶۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .

(۱۷۶۸۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن میں تمہیں رغبت ہو۔

(۱۷۶۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .

(۱۷۶۸۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے تم اعراض کرتے ہو۔

(۱۷۶۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى

النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴿۱﴾ قَالَتْ: أَنْزَلْتُ فِي النِّسِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَنَشْرُكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرُكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ. (بخاری ۵۱۳۱۔ مسلم ۲۳۱۵)

(۱۷۶۸۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک آدمی کے پاس تھی اور اسکے مال میں شریک تھی، وہ آدمی اس سے شادی کرنے کو ناپسند کرتا تھا اور اس بات کو بھی ناپسند کرتا تھا کہ کوئی اور اس سے شادی کرے اور اس کے مال میں شریک ہو، وہ اسے شادی سے محروم رکھتا تھا نہ خود اس سے شادی کرتا تھا نہ کسی اور کو کرنے دیتا تھا۔

(۱۷۶۸۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حَجْرِهِ تَرَكَّةٌ بِهَا عَوَارٌ فَلْيُضْمَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ رَغْبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ.

(۱۷۶۸۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو تو اس سے شادی کر لے اور اگر وہ اس سے شادی کو ناپسند کرے تو کسی اور سے اس کی شادی کرادے۔

(۱۷۶۸۸) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَ: الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ، أَوْ عَوْرٌ فَلَا يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرْتَوْهَا.

(۱۷۶۸۸) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس عورت میں کوئی جسمانی عیب مثلاً لنگڑاپن یا بھینکا پن ہو تو اس عورت کو وارث بنانے سے پہلے اس کا نکاح نہ کرو۔

(۱۷۶۸۹) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ قَالَ: مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، وَكَانُوا لَا يُورَثُونَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۷۶۸۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میراث کے وہ احکام ہیں جو سورت کے شروع میں بیان کئے گئے۔ لوگ عورت کو وارث بنا لیں پہلے عورت کو وارث نہیں بناتے تھے۔

(۱۷۶۹۰) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فَقَالَ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيِّ رَغَبٌ عَنْ حَسَبِهَا، أَوْ حُسْنِهَا، شَكَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا:

﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقْرَمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ قَالَ: كَانُوا لَا يُورَثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَلَا تُكْبِرُ. (۱۷۶۹۰) حضرت ابومالک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت جب کسی ولی کے پاس ہوتی تو وہ اس کے خاندان اور حسن سے اعراض کرتے ہوئے نہ تو اس سے خود شادی کرتا اور نہ اسے کسی سے شادی کرنے دیتا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقْرَمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ کہ لوگ پہلے بڑے کو پھر اس سے چھوٹے کو وارث بناتے تھے۔

(۱۹۷) مَا ذَكَرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِنِينَ

بت پرست عورتوں سے نکاح کا بیان

(۱۷۶۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، يَعْنِي الصَّابِنِينَ. (۱۷۶۹۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بت پرستوں کے ذبیحہ اور ان سے نکاح کو ناجائز بتایا ہے۔

(۱۹۸) قَوْلُهُ تَعَالَى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)

قرآن مجید کی آیت ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۶۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ: مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ذَلِكَ أَذْنَى الْأَتَعُولُوا.

(۱۷۶۹۲) حضرت ابومالک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ وہ عورت جو تمہارے لئے حلال ہیں۔

(۱۷۶۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ.

(۱۷۶۹۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی آیت ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد حلال عورتیں ہیں۔

(۱۷۶۹۴) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْإِيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالَهُ فَيَمِيلُ عَلَى الْإِيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

(۱۷۶۹۳) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کے پاس کچھ عورتیں اور کچھ یتیم بچے ہوتے، اس کا مال ختم ہو جاتا تو وہ یتیموں کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

(۱۹۹) قَوْلُهُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ کی تفسیر

(۱۷۶۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَوْلُهُ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قَالَ : إِحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا .

(۱۷۶۹۵) حضرت عامرؓ قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی عورت کی پاکدامنی یہ ہے کہ وہ جنابت کا غسل کرے اور اپنی شرمگاہ کو پاک رکھے۔

(۱۷۶۹۶) حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قَالَ : الْعَفَافُ .

(۱۷۶۹۶) حضرت مجاہدؓ قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد پاکدامن عورتیں ہیں۔

(۲۰۰) فِي قَوْلِهِ (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ)

قرآن مجید کی آیت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ کی تفسیر

(۱۷۶۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قَالَ : ذِكْرُهُنَّ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ .

(۱۷۶۹۷) حضرت مجاہدؓ قرآن مجید کی آیت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرد کا عورت کو اپنے دل میں یاد کرنا ہے۔

(۱۷۶۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَرَبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قَالَ : فِي الْخُطْبَةِ .

(۱۷۶۹۸) حضرت حسنؓ قرآن مجید کی آیت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیام نکاح میں یاد کرنا ہے۔

(۲۰۱) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْلِمُهَا مَهْرَهَا

مہر کے معاملے میں عورت سے زیادتی کرنے کا وبال

(۱۷۶۹۹) أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرٍ هَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۷۶۹۹) حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عورت سے نکاح کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ عورت کا مہرا اپنے پاس رکھے گا تو وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن زنا کرنے والا شمار ہوگا۔

(۱۷۷۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أُمِّ هَمْدَانَ ، عَنْ عَمَّتَيْهَا ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرٍ أَجْبِرٍ .

(۱۷۷۰۰) حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے عورت کے مہر اور مزدور کی مزدوری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔

(۲۰۲) مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَكْتَابَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

جن حضرات کے نزدیک مکاتبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کو مہر بنا کر شادی کرنا جائز ہے

(۱۷۷۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا . (۱۷۷۰۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکاتبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کو مہر بنا کر شادی کرنا جائز ہے۔

(۲۰۳) (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا)

قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۷۰۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بِيَانِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا .

(۱۷۷۰۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۱۷۷۰۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مِهْلَبٍ ، عَنْ مِغْوِيلَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا . (۱۷۷۰۳) حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۱۷۷۰۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا . (۱۷۷۰۴) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۱۷۷.۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا .

(۱۷۷.۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۱۷۷.۶) حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا .

(۱۷۷.۶) حضرت ابومالک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۱۷۷.۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ : ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ : تَمِيلُوا .

(۱۷۷.۷) حضرت صحاح رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”تَعُولُوا“ سے مراد میلان ہے۔

(۲۰۴) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ؟

کیا مرض الموت میں نکاح کرنا جائز ہے؟

(۱۷۷.۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَعْثُهُ وَبِشْرَاؤُهُ .

(۱۷۷.۸) حضرت شعی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مریض کا شادی کرنا اور خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔

(۱۷۷.۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ .

(۱۷۷.۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا مریض کے لئے شادی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ثلث کے علاوہ میں جائز ہے۔

(۱۷۷.۱۰) حَدَّثَنَا عُقْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَنَهُ مِنْ بِنْتِ جَبْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ .

(۱۷۷.۱۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن ام الحکم رضی اللہ عنہما نے حالت مرض الموت میں جبری کی بیٹی سے ایک ثمن مال کے بدلے نکاح کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کیا اور جب حالت مرض میں ایک تہائی مال پر مہر کا ارادہ کیا تو اس نکاح کو درست قرار دیا گیا۔

(۱۷۷.۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ مُعَاوِيَةَ أُجَازَهُ .

(۱۷۷۱۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے جائز قرار دیا۔

(۱۷۷۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيْجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَجُوزُ .

(۱۷۷۱۳) حضرت عبد اللہ بن یزید باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو حالت مرض الموت میں شادی کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔

(۱۷۷۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِنَقُومِ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۷۷۱۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں درثناء کو نقصان پہنچانے کے لئے شادی کرے تو یہ درست نہیں اور اگر خدمت کے لئے شادی کرے تو جائز ہے۔

(۱۷۷۱۶) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ .

(۱۷۷۱۷) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں ثلث مال کے عوض شادی کرنا جائز ہے۔

(۱۷۷۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا .

(۱۷۷۱۹) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مریض کے شادی کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک تو ایک نئی چیز ہے۔

(۱۷۷۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ .

(۱۷۷۲۱) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں شادی کرنا درست نہیں ہے۔

(۱۷۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرْتَهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا .

(۱۷۷۲۳) حضرت خلیفہ بن غالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مرض الموت میں شادی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ وہ وارث بھی ہوگی اور مہر بھی لگی۔

(۱۷۷۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرْتَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ .

(۱۷۷۲۵) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حالت مرض الموت میں ایک عورت سے شادی کی، وہ اسے اپنا وارث بنانا چاہتے تھے۔ ان کے اور اس عورت کے درمیان ایک رشتہ تھا۔

(۲۰۵) قَوْلُهُ (فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ)

قرآن مجید کی آیت ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ﴾ کی تفسیر

(۱۷۷۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ مِثْلَ مَهْرِهَا .

(۱۷۷۱۹) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت مشرکین کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے خاوند کو مہر مثلی ادا کرو اور جب کوئی عورت ایسی قوم میں چلی جائے جس قوم اور مشرکین کے درمیان عہد نہ ہو اور مال غنیمت ہاتھ لگے تو ان کے خاوندوں کو غنیمت میں سے مہر مثلی ادا کرو۔

(۱۷۷۲۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ . (۱۷۷۲۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۶) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لَا يَفْعَلُ

اولاد کی شادی اچھی جگہ کرانے کا بیان

(۱۷۷۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ مَنِيعٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئُكُمْ (ابن عدی ۲۱۸۷)

(۱۷۷۲۱) حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے لئے اچھے رشتے تلاش کرو۔

(۱۷۷۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَتْ إِذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إِلَى أَدْنَى بَيْتِهِ .

(۱۷۷۲۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہا جب شادی کرتے تو اچھے گھر میں شادی کرتے۔

(۱۷۷۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبْدَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ سَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي مِطْلَةٍ لَهُ سَوْدَاءُ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوْ اتَّخَذْتَ امْرَأَةً هِيَ أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ اتَّخَذْتُ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اتَّخَذْتُ امْرَأَةً تَرَفَعُنِي .

(۱۷۷۲۳) حضرت عبداللہ بن خراش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ربذہ میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی اہلیہ کا رنگ کالا تھا، یا فرمایا کہ وہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بے حال تھیں، اپنے ایک کالے رنگ کے چھپرے میں تھے، ان سے کہا گیا کہ اے ابوذر! اگر آپ اس سے بہتر عورت سے شادی کر لیتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے نام و شہرت میں کمی کا سبب بنے مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے نام و نمود میں زیادتی کا سبب بنے۔

(۱۷۷۲۴) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَسْتُ أَبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُمْ أَنْكَحْتُ .

(۱۷۷۲۳) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں جاہلیت کی کوئی عادت باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس مسلمان سے شادی کر رہا ہوں اور کس سے شادی کر رہا ہوں۔

(۱۷۷۲۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يُخْطَبُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ .

(۱۷۷۲۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ اپنے سے کم تر لوگوں کو نکاح کا پیغام بھجواتے تھے۔

(۱۷۷۲۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدِ خَيْطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلَامًا فَانْتَفَى مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدِ خَيْطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هُوَ الَّذِي دَعَاكَ إِلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .

(۱۷۷۲۶) حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی کی۔ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن اس آدمی نے اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جس چیز نے تجھے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی پر مجبور کیا حالانکہ تو عرب کا ایک معزز آدمی ہے اسی چیز نے تجھے اس سے ہونے والے بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرنے پر ابھارا ہے۔ (یعنی شیطان نے تیرے دل میں وسوسے ڈالے ہیں)

(۲۰۷) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي

اگر کوئی مالکین اپنے غلام سے یہ کہے کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی

کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبْرُوكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعَيْقِكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ بِعَيْقِهِ ! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُيَيْدٍ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَعَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ .

(۱۷۷۲۷) حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام سے یہ کہے کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ وہ اسے آزاد کر دیتی۔ میں نے حضرت عبد اللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کے مثل بات فرمائی۔ میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ اور سلطان کی طرف سے قابل سزا عمل ہے۔

(۱۷۷۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَا : نَعَفَقَهُ وَلَا تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عَقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ .

(۱۷۷۲۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اسے آزاد کر دے لیکن شرط نہ لگائے اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور بادشاہ کی طرف سے سزا کا سبب ہے۔

(۲۰۸) فِي قَوْلِهِ ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۷۲۹) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ قَالَ : فِي النَّفَقَةِ .

(۱۷۷۲۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفقہ ہے۔

(۱۷۷۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ .

(۱۷۷۳۰) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرد کے مال اور جان سے عورت کا حصہ ہے۔

(۱۷۷۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ وَالْأَيَّامُ .

(۱۷۷۳۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفقہ اور ایام ہیں۔

(۲۰۹) قَوْلُهُ ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۷۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ دُرَيْسٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ .

(۱۷۷۳۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرد کا عورت کو اپنے دل میں یاد کرنا ہے۔

(۱۷۷۳۳) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ : الْحِطْبَةُ .

(۱۷۷۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیام نکاح ہے۔

(۲۱۰) مَنْ قَالَ النَّفْسَاءُ لَا تُزَوِّجُ حَتَّى تَطْهَرَ

کیا نفاس والی عورت پاک ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے؟

(۱۷۷۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ حَوْحَمَادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا لِلنَّفْسَاءِ أَنْ تُزَوِّجَ حَتَّى تَطْهَرَ .

(۱۷۷۳۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما کے نزدیک نفاس والی عورت کے لئے پاک ہونے سے پہلے نکاح کرنا درست ہے۔

(۱۷۷۳۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي النَّفْسَاءِ : لَا تُزَوِّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ .

(۱۷۷۳۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اور حضرت مسیب بن رافع رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نفاس والی عورت خون بند ہونے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔

(۱۷۷۳۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَادٍ قَالَا : فِي النَّفْسَاءِ : تُزَوِّجُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ .

(۱۷۷۳۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شادی کر سکتی ہے خواہ خون بند نہ ہو۔

(۱۷۷۳۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالِنِكَاحِ جَائِزٌ .

(۱۷۷۳۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما نفاس والی عورت کے نکاح کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے، لیکن اگر کر لے تو نکاح جائز ہے۔

(۲۱۱) مَا قَالُوا فِي النَّفْسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟

نفاس والی عورت کا خاوند کتنے دن تک اس سے جماع نہیں کر سکتا؟

(۱۷۷۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عَائِدَةَ بْنِ عَمْرٍو رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مِمَّنْ بَاعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتْ الطَّهْرَ

لِعَشْرِينَ لَيْلَةً فَأَعْتَسَلْتُ نَوْمًا جَاءَتْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: فُلَانَةٌ، فَقَالَ: أَوْلَيْسَ قَدْ نَفِستُ؟ قَالَتْ: إِذَا قَدْ رَأَيْتَ الطُّهْرَ، قَالَ: فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهَا مِنَ اللَّحَافِ وَقَالَ: لَا تَعْرُفِي عَن دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

(۱۷۷۳۸) حضرت عائذ بن عمرو رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی ہیں، یہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، ان کی ایک زوجہ کونفاس لاتی ہو، وہ بیس دن بعد پاک ہو گئیں، لہذا غسل کیا اور آکر اپنے خاوند کے لحاف میں ان کے ساتھ لیٹ گئیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ فُلانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم حالتِ نفاس میں نہیں تھی؟ زوجہ نے کہا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، انہوں نے ٹانگ کے ذریعے انہیں اپنے لحاف سے نکال دیا اور فرمایا کہ مجھے میرے دین کے بارے میں دھوکہ نہ دو، جب تک چالیس دن نہ گزر جائیں مت آنا۔

(۱۷۷۳۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ اشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النَّفَاسِ.

(۱۷۷۳۹) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیویوں سے فرمایا کہ نفاس کے دوران چالیس دن سے پہلے میری طرف مت جھانکنا۔

(۱۷۷۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ جَابِرٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ عُمَرَ، قَالَ: تَجْلِسُ النَّفْسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۱۷۷۴۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن تک شوہر سے دور رہے گی۔

(۱۷۷۴۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرَبُّصُ النَّفْسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرَبُّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

(۱۷۷۴۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن رکے گی، پھر غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مہینے رکے گی پھر وہ مستحاضہ کی طرح ہے۔

(۱۷۷۴۲) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجْلِسُ النَّفْسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَقَالَ: عَطَاءٌ: تَجْلِسُ عَادَتُهَا الَّتِي اعْتَادَتْ، وَلَا تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۱۷۷۴۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عادت کے بقدر رکے گی اور چالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔

(۱۷۷۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي عَوَّانَةَ، عَنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ يُونُسَ بْنِ مَاهَلِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَجْلِسُ النَّفْسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۱۷۷۴۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نفاس والی عورت چالیس دن تک رکے گی۔
 (۱۷۷۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ مُسَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَلْطِخُ عَلَى وُجُوهِهَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلْفِ . (ترمذی ۱۳۹۔ ابو داؤد ۳۱۵)

(۱۷۷۴۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں نساء چالیس دن تک رکا کرتی تھیں اور ہم اپنے چہروں پر نیلی سرخی کی وجہ سے درس نامی زرد بوٹی لگایا کرتی تھیں۔

(۲۱۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يَسْبِيهَا ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ

اگر آدمی کسی باندی کو خریدے یا قیدی بنائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۴۵) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيُّهَا؟ قَالَ : لَا ، وَقَرَأَ : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

(۱۷۷۴۵) حضرت عبید اللہ بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی باندی خریدے اور وہ حاملہ ہو تو کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی (ترجمہ) حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے دیں۔

(۱۷۷۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَا تَوَطَّأُ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَالِدِ ، أَسَىءَ قَالَهُ بَرَأِيَهُ ؟ أَوْ شَىءَ رَوَاهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُوطَاسٍ أَنْ تَوَطَّأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَانَلِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ .

(۱۷۷۴۶) حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شععی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے توستہ کی فتح کے دن فرمایا تھا کہ کسی حاملہ عورت سے جماع نہ کیا جائے اور مشرکین کی اولاد میں شراکت نہ کی جائے، کیونکہ پانی بچے میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی رائے سے کہی تھی یا رسول اللہ ﷺ سے روایت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اوطاس کی فتح کے دن فرمایا تھا کہ کسی حاملہ سے بچے کی پیدائش سے پہلے جماع نہ کیا جائے اور دوسری خواتین سے اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک ان کے رحم کا خالی ہونا معلوم نہ ہو جائے۔

(۱۷۷۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطَّأَ حَبْلَى .

(۱۷۷۴۷) حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی حاملہ سے وطی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۱۷۷۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . (احمد ۱/۲۵۶ - طبرانی ۱۴۰۹)

(۱۷۷۴۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۷۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تَجِيبٍ ، قَالَ : عَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرَبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا ، فَقَالَ : ابْنِي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِنَنَّ مَانَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . (احمد ۳/۱۰۸ - طبرانی ۳۴۸۳)

(۱۷۷۴۹) حضرت ابومرزوق رضی اللہ عنہ مولیٰ تجیب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت روفیع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مغرب کی طرف جنگ کی، ہم نے جربنامی ایک گاؤں کو فتح کیا تو حضرت روفیع رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ نے فتح خیبر کے دن فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پانی سے کسی دوسرے کی کھتی سیراب نہ کرے۔

(۱۷۷۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تَجِيبٍ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . (احمد ۱/۱۷۵ - طبرانی ۱۷۵۰)

(۱۷۷۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُوَطَّأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعُ ، أَوْ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ .

(۱۷۷۵۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حاملہ سے وضع حمل سے پہلے اور غیر حاملہ سے حیض کے ذریعے رحم کے صاف ہونے کا یقین ہونے سے پہلے وطی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَلَّةٍ وَقَتْمِ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَبْلَى فَلَا يَطْوُهَا حَتَّى تَضَعُ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَفْرُبُهَا حَتَّى تَحِيضَ .

(۱۷۷۵۲) حضرت سلمہ، حضرت قثم اور حضرت ناجیہ بن کعب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی حاملہ باندی خریدے تو وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ جماع نہ کرے۔ اور اگر غیر حاملہ خریدے تو اس کو حیض آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

(۱۷۷۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَّأَ الرَّجُلُ وِلْدَةً ، أَوْ

امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِّغَيْرِهِ .

(۱۷۷۵۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی کسی ایسی باندی یا عورت سے جماع کرے جس کے پیٹ میں کسی دوسرے کا بچہ ہو۔

(۱۷۷۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا فُيْحَتْ تُسْتَرُّ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُؤُا أَنْ لَا يَبْعَ أَحَدًا عَلَى امْرَأَةٍ حَبْلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَالِدِ .

(۱۷۷۵۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تسرّف ہو تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کچھ باندیاں لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط میں یہ حکم لکھ بھیجا کہ وضع حمل سے پہلے کوئی شخص کسی عورت سے جماع نہ کرے، مشرکین کی اولاد میں حصہ دار نہ بنے کیونکہ پانی بچے کو پورا کرتا ہے۔

(۱۷۷۵۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي غَزْوَةِ عَزَاةَا ؛ أَنْ لَا يَطَّأَ الرَّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ .

(۱۷۷۵۵) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک غزوہ میں ایک منادی سے اعلان کرایا کہ حاملہ سے وضع حمل تک اور غیر حاملہ سے حیض کے آنے تک جماع نہ کر دو۔

(۱۷۷۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ .

(۱۷۷۵۶) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر میں حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے جماع سے منع فرمایا تھا۔

(۱۷۷۵۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجْحَجٍ وَهِيَ عَلَى بَابِ حِجَابٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: أَيْلِمُ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ يَغْدُوهُ فِي بَصْرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِيئُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ .

(مسلم ۱۰۶۶۔ ابو داؤد ۲۱۳۹)

(۱۷۷۵۷) حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضور ﷺ ایک ایسی حاملہ عورت کے پاس سے گزرے جو قریب الولادت تھی (اور قیدی بنا کر لائی گئی تھی)، وہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا کہ یہ کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا وہ اس سے جماع کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں اس کے ساتھ جائے۔ وہ اس (سے پیدا ہونے

والے بچے) سے کیسے خدمت لے گا حالانکہ اس کی سماعت اور بصارت کو تقویت دے رہا ہے؟ وہ اس کا وارث کیسے ہوگا حالانکہ وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے؟

(۲۱۳) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ؟

اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے کسی لڑکی کا پردہ بکارت زائل کر دے تو اس پر کیا تاوان ہوگا؟

(۱۷۷۵۸) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ بَيْتِمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ : فَخَافَتْ امْرَأَتَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَعَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتْ امْرَأَتَهُ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا وَأَفْسَدَتْ عُدْرَتَهَا بِيَدِهَا ، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ، عَنْ مَا نَدَيْتِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ : دَعُ عَنْكَ فُلَانَةَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ : فَقَدْتُهَا قَالَ : فَانْطَلِقِ الرَّجُلَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ؟ مَا أَمْرُكَ؟ قَالَ : فَجَعَلْتُ لَا تَزِيدُ عَلَيَّ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ : فَانْطَلِقِي إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَارْسَلَنِي إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَيْسَنَ أَنْ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِي فِيهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ ذَقَّقَهَا وَالْعُقُورَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمَسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلَ طَحِينًا لَطَحَنْتُ قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ .

(۱۷۷۵۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک بیٹیم بچی تھی، وہ کھانا بھی اس کے ساتھ کھاتی تھی، آدمی کی بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آدمی اس سے شادی نہ کر لے، چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ آدمی کہیں گیا ہوا تھا تو اس عورت نے کچھ عورتوں کی مدد سے اس لڑکی کو باندھا اور اس کے پردہ بکارت کو زائل کر دیا، جب آدمی واپس آیا تو دسترخوان پر اس بیٹیم بچی کو نہ پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس کا تو ذکر ہی نہ کرو، آدمی نے وجہ پوچھی تو عورت نے بچی پر زنا کا الزام لگا دیا۔ آدمی اس بچی کے پاس آیا اور اس سے واقعہ کی تصدیق چاہی، بچی نے رونے کے علاوہ کوئی بات نہ کی، اس نے اصرار کیا تو بچی نے ساری بات بتا دی۔ وہ آدمی اس مقدمے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی بیوی کو اور باقی عورتوں کو بلا لیا اور ان سے سوال کیا، انہوں نے فوراً ساری بات کو تسلیم کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرنے کو کہا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہمت لگانے والی عورت پر حد جاری ہوگی اور پردہ بکارت کو زائل کرنے کا جرم مانہ اس عورت پر اور بچڑنے والی عورتوں پر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اونٹوں سے پسوائی کا کام لیا جاتا تو آج میں ان عورتوں کو اونٹوں کے نیچے پسو دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اونٹوں سے پسوائی کا کام نہیں لیا جاتا تھا۔

(۱۷۷۵۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ جَوَارَ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ : أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَقَالَتْ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الَّذِي زَعَمْتَ أَنَّهَا رَجُلٌ ، فَحَطَبَتِ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ ، فَرَوَّجَتْهَا ، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي رَوَّجَتْهَا ، فَأَخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعِيهِنَّ ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ، لِأَنَّهَا أُمَكْتُ مِنْ نَفْسِهَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا .

(۱۷۷۵۹) حضرت شعیب بن ہشیم فرماتے ہیں کہ چار زونعمر لڑکیاں کھیلنے کے لئے جمع ہوئیں، ایک نے کہا کہ وہ آدمی ہے، دوسری نے کہا کہ وہ عورت ہے، تیسری نے کہا کہ وہ عورت کا باپ ہے، چوتھی نے کہا کہ وہ آدمی کا باپ ہے۔ آدمی کے باپ کا کردار ادا کرنے والی نے عورت کے باپ کا کردار ادا کرنے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ جب شادی ہوگئی تو لڑکے کا کردار ادا کرنے والی لڑکی نے عورت کا کردار ادا کرنے والی بیٹی کے پردہ بکارت کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ سارا مقدمہ عبد الملک بن مروان کے پاس پیش کیا گیا۔ انہوں نے مہر کے برابر رقم چاروں لڑکیوں پر لازم کی اور عورت کا کردار ادا کرنے والی لڑکی کے حصے کو اٹھادیا۔ یہ فیصلہ عبد اللہ بن معقل مزنی رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آتا تو میں صرف پردہ بکارت کو زائل کرنے والی لڑکی پر تاوان کو لازم کرتا۔

(۱۷۷۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنْتٌ فَرَفَعْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَرَّعَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَدْفِهَا إِيَّاهَا .

(۱۷۷۶۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی انگلی سے ایک بیٹی کا پردہ بکارت زائل کر دیا اور کہہ دیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مقدمہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت پر پردہ بکارت کو زائل کرنے کا تاوان ہوگا اور تہمت لگانے کی وجہ سے اسی کوڑے پڑیں گے۔

(۱۷۷۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةَ كُنَّ بِالشَّامِ ، فَأَيُّسَرُونَ وَيَطْرُونَ وَلِعَبْنَ الْحَزْرَةَ ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةً الْأُخْرَى ، وَنَخَسَتْ الْأُخْرَى ، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَهُ بِنُ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بِنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ نَصِيبٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَعْقِلٍ : يَرَى مِنْ نَطْفِهَا إِلَى نَاحِيَّتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا .

(۱۷۷۶۱) حضرت شعیب بن ہشیم فرماتے ہیں کہ شام میں کچھ لڑکیاں کھیلنے کے لئے جمع ہوئیں، ایک لڑکی دوسری پر سوار ہوئی اور دوسری نیچے دب گئی جس کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا۔ یہ مقدمہ عبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور قبصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ ان دونوں نے فرمایا کہ ان سب لڑکیوں پر دیت واجب ہوگی اور

ایک کا حصہ اٹھالیا جائے گا۔ ابن معقل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیت صرف اس پر ہونی چاہئے جس نے اسے دیا ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہی ہونا چاہئے اور دیت کے بجائے پردہ بکارت کو زائل کرنے کا تاوان ہونا چاہئے۔

(۱۷۷۶۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ ، أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَامِ ، فَدَفَعْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَفَضَتْ عُدْرَتَهَا ، فَفَضَى لَهَا شُرَيْحٌ ، عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا .

(۱۷۷۶۳) حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لڑکیاں حمام میں تھیں، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا تو اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے مہر مثلی کا فیصلہ فرمایا۔

(۲۱۴) مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

دو آدمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہر ایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری

لائی گئی تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مِعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةٌ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ عَيَّرَهُمَا .

(۱۷۷۶۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہر ایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لائی گئی تو دونوں عورتوں کو مہر ملے گا اور مہر کے لیے خاندان سے رجوع کریں گے جس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے۔

(۱۷۷۶۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ .

(۱۷۷۶۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یونہی فرماتے ہیں۔

(۱۷۷۶۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا .

(۱۷۷۶۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یونہی فرماتے ہیں۔

(۱۷۷۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخْوَانُ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةٌ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةٌ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَفْرُبَهَا حَتَّى تَنْقُضَ عِدَّتَهَا ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطَنَهَا لِغَشْيَانِهِ إِيَّاهَا ، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْفَرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا .

(۱۷۷۶۶) حضرت خلاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو بھائیوں کا دو بہنوں سے نکاح ہوا، ہر ایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری عورت لائی گئی، یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا آپ نے ہر عورت کو اس کے اصل خاندان کی طرف واپس فرمایا اور حکم دیا کہ عدت گزارنے تک خاندان اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں۔ پھر آپ نے جماع کرنے والوں پر مہر کو لازم قرار دیا

اور تاوان اس شخص پر لازم کیا جس نے شادی کرائی تھی۔

(۲۱۵) مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

فاحشہ کی کمائی کی حرمت کا بیان

(۱۷۷۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (بخاری ۲۲۳۷- ترمذی ۱۲۷۶)

(۱۷۷۶۷) حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فاحشہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ. (مسلم ۱۱۹۹- ابوداؤد ۳۳۱۳)

(۱۷۷۶۸) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چھپنے لگانے والے کی کمائی بری ہے اور زنا کی کمائی بری ہے۔

(۱۷۷۶۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (احمد ۳/۳۰۸)

(۱۷۷۶۹) حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فاحشہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۷۰) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (ابویعلیٰ ۸۹۴- طبرانی ۲۷۴)

(۱۷۷۷۰) حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فاحشہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ يَقُولُ لِبَجَارِيَّتِهِ: اذْهَبِي فَايْبَعِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (مسلم ۲۶)

(۱۷۷۷۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول اپنی باندی سے کہتا تھا کہ جاؤ اور ہمارے لئے جسم فروشی کی کمائی لاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ

يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۱۷۷۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدَّرْهِمِ وَالِدَّرْهِمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَيْعَى .

(۱۷۷۷۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپسند قرار دیتے تھے کہ فاحشہ کی کمائی کی طرح ایک یا دو درہم پر نکاح کریں۔

(۱۷۷۷۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَيْعَى .

(۱۷۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فاحشہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأُمَّةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ

اگر آدمی ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت سے شادی کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۷۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمَّةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۷۷۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت سے شادی کرے تو آدمی اور باندی کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا تو اس صورت میں دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

(۱۷۷۷۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأُمَّةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَّ نِكَاحَهُمَا .

(۱۷۷۷۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عقد میں ایک آزاد اور ایک باندی سے نکاح کیا تو ان کا نکاح فاسد ہوگا۔

(۲۱۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَيْتَةُ أَتَاهَا

أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ

ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے شرعی ملاقات کی پھر وہ مر گیا۔ پھر اس بات

پر گواہی قائم ہو گئی کہ وہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔ اب کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ،

ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

(۱۷۷۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے شرعی ملاقات کی پھر وہ مر گیا، پھر اس بات پر گواہی قائم ہو گئی کہ وہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو مہر ملے گا لیکن میراث نہیں ملے گی۔

(۲۱۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟

ایک آدمی کسی عورت کا ولی ہو لیکن اس سے نکاح کرنا چاہے تو کیا کرے؟

(۱۷۷۷۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الزُّكَيْنِ ؛ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً ، وَهُوَ وَلِيُّهَا ، وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

(۱۷۷۷۷) حضرت زکین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک عورت کے ولی تھے، انہوں نے اس عورت کو پیام نکاح بھیجنا چاہا، ان کے ساتھ اس عورت کے کچھ ولی اور بھی تھے۔ انہوں نے ایک ولی کو حکم دیا کہ وہ ان کا نکاح اس عورت سے کرادیں۔

(۱۷۷۷۸) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مَعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعَدُولِ .

(۱۷۷۷۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ولی کا ارادہ ہو کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے تو اسے چاہئے کہ کسی آدمی کو عورت کا ولی بنا دے اور پھر عادل گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے نکاح کر لے۔

(۲۱۹) فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ

زبردستی کرائے گئے نکاح کا حکم

(۱۷۷۷۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ .

(۱۷۷۷۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبردستی کئے گئے شخص کا نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۷۷۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ .

(۱۷۷۸۰) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبردستی کئے گئے شخص کا نکاح نہیں ہوتا۔

(۲۲۰) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ

اگر مرد و عورت میں عاجل مہر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۷۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ

يَبْرَأ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَخْرُجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَذُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.

(۱۷۷۸۱) حضرت عبدالاعلیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے عورت سے عاجل اور آجل مہر کے عوض نکاح کیا، آدمی نے عورت سے شرعی ملاقات بھی کی لیکن عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ابھی عاجل مہر ادا نہیں کیا۔ تو حضرت عبدالاعلیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عاجل میں عورت کے لئے مہر کے نکالے جانے کی صورت یہ ہے کہ مرد پر اتنا مہر باقی رہ گیا ہے اور مرد کا عورت سے دخول کرنا عاجل سے بری ہوتا ہے۔

(۱۷۷۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَخْرُجُ عَلَيْهِ. (۱۷۷۸۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مرد سے عاجل مہر وصول کیا جائے گا۔

(۲۲۱) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشْكُ فِي وَكَلِدِهَا، مَا يَصْنَعُ؟

ایک آدمی کی کوئی بیوی یا باندی ہو لیکن اسے بچے میں شک ہو تو وہ کیا کرے؟

(۱۷۷۸۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْقَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَكَلِدِ لَهٗ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.

(۱۷۷۸۳) حضرت حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے بچے کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے قیافہ شناس کو بلوانے کا حکم دیا۔

(۱۷۷۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقَرِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَتْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الْأَدَى اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْتَ تَفْعُ عَلَيْهِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ، قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَالْحَقُّوهُ بِهِ، قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ.

(۱۷۷۸۳) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک باندی کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کرنے سے پہلے اسے فروخت کر دیا، پھر خریدنے والے کے پاس اس کا حمل ظاہر ہوا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے جماع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اقرار کیا، پھر پوچھا کہ کیا تم نے اس کے رحم کے صاف ہونے کا یقین کئے بغیر اسے بیچ دیا۔ انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ پھر انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلوایا، انہوں نے بچے کو دیکھا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بچہ قرار دیا، پھر اس باندی سے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی بہت اولاد ہوئی اور کسی نے اسے برا قرار نہ دیا۔

(۱۷۷۸۵) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشْكُ فِي وَكَلِدِهِ قَالَ: مُرَّةٌ

فَلْيَسْتَلِحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَمَرَ أَنْهُ أَصَابَ وَوَلِدَةً، أَوْ غَشِيَ الْحَقْنَ بِهِ وَلَدَهَا، وَسَأَلَتْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، فَقَالَ: مَرَّةٌ فَلْيَسْتَلِحِقْهُ.

(۱۷۷۸۵) حضرت عثمان بن اسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے بچے کے نسب کے بارے میں شک ہو تو حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اسے حکم نے بچے کو اپنا بچہ قرار دے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے کسی باندی سے جماع کیا ہے تو ہم بچے کو اسی کا قرار دیں گے۔ پھر میں نے اس بارے میں حضرت عکرمہ بن خالد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اسے حکم دو کہ بچے کو اپنا بچہ قرار دے۔

(۱۷۷۸۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: حَصَّنُوهُنَّ، أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشٍ أَحَدِكُمْ إِلَّا الْحَقْفَةَ بِهِ يَعْنِي السَّرَارِيَّ.

(۱۷۷۸۷) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم ان باندیوں کو پاکدامن سمجھو یا نہ سمجھو، ان میں سے کسی عورت نے اگر تم میں سے کسی کے بستر پر بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ اسی کا ہوگا۔

(۲۲۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْثُبُ بِذَكَرِهِ

مرد کا بلاوجہ آلہ تناسل کو ہاتھ میں لینا درست نہیں

(۱۷۷۸۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أبا عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْثُبُ بِذَكَرِي حَتَّى أَنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفْ أَفْ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزَّوْنِ وَنِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.

(۱۷۷۸۷) حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اے ابن عباس! میں اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور مجھے انزال ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا "اف، اف، اف! یہ زنا جیسا تو نہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کر لو۔"

(۱۷۷۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قِدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

(۱۷۷۸۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشت زنی کرنے والا اپنے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے۔

(۱۷۷۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ، عَنْ شَيْخٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخُصْخَصَةَ، فَقَالَ: ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

(۱۷۷۸۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ بدکاری کرنے

والا ہے۔

(۱۷۷۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْوَالِدَيْنِ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿۶﴾: فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ.

(۱۷۷۹۰) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا (ترجمہ) ”جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی باندیوں اور بیویوں کے کہیں شہوت پوری نہیں کرتے، اس بارے میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ جو لوگ اس حد سے تجاوز کریں تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں“ اس پر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو باندیوں اور بیویوں کے علاوہ کہیں شہوت پوری کریں تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں۔

(۲۲۳) مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشُّغَارِ

نکاحِ شغار (رشتے کے لین دین کے ساتھ) نکاح کرنا کیسا ہے؟

(۱۷۷۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّغَارِ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: الشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوْجِي ابْنَتِكَ حَتَّىٰ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوْجِي أَخْتِكَ حَتَّىٰ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي. (مسلم ۶۱ - ابن ماجہ ۱۸۸۳)

(۱۷۷۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاحِ شغار سے منع فرمایا ہے۔ ابن نمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نکاحِ شغار یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ تو اپنی بیٹی سے میری شادی کرادے میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرادیتا ہوں یا اپنی بہن سے میری شادی کرادے میں اپنی بہن سے تیری شادی کرادیتا ہوں۔

(۱۷۷۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الشُّغَارِ. (بخاری ۶۹۶۰ - مسلم ۵۸)

(۱۷۷۹۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاحِ شغار سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ.

(۱۷۷۹۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۷۷۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانُوا يُكْرَهُونَ الشُّغَارَ وَالشُّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.

(۱۷۷۹۴) سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف نکاحِ شغار کو ناپسند فرماتے تھے۔ شغار یہ ہے کہ آدمی کسی مرد کی شادی بغیر مہر

کے اس شرط پر کرائے کہ وہ اس کی شادی کرائے گا۔

(۱۷۷۹۵) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسَاغِرِينَ : يَقْرَأُ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ .

(۱۷۷۹۵) حضرت عطاءؓ نکاح شغار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا اور دونوں کو مہر ملے گا۔

(۱۷۷۹۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (ترمذی ۱۱۲۳ - ابو داؤد ۲۵۷۴)

(۱۷۷۹۶) حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے۔

(۱۷۷۹۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ . (مسلم ۶۳ - احمد ۳/۳۳۹)

(۱۷۷۹۷) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شغار سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۴) مَا قَالُوا فِي خُطْبِ النِّكَاحِ

نکاح کے خطبوں کا بیان

(۱۷۷۹۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلَاةِ فَالْتَّشَهُدُ ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَدِانُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِكَ . (ابو داؤد ۳۱۱۱ - احمد ۱/۳۳۲)

(۱۷۷۹۸) حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز اور حاجت کا خطبہ سکھایا۔ نماز کا خطبہ تشہد ہے اور حاجت کا خطبہ یہ ہے: (ترجمہ) تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے شرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر قرآن مجید کی تین آیات پڑھتے: (ترجمہ) اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔

(ترجمہ) اللہ سے ڈرو جس کے بارے میں اور صلہ رحمی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، بے شک اللہ تم پر تمہارا ہے۔
(ترجمہ) اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا..... یہ
خطبہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کا ارادہ کرو۔

(۱۷۷۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَزُوجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ .

(۱۷۷۹۹) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی ایک لڑکی کا نکاح اس حال میں
کر دیا ہے تھے کہ وہ بڑی سے گوشت اتار کر کھا رہے تھے۔

(۱۷۸۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ .

(۱۷۸۰۰) حضرت نصر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء رضی اللہ عنہما سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکاح کر دیا۔

(۱۷۸۰۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شَرِيحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيَتْ تِلْكَ الْحَاجَّةُ .

(۱۷۸۰۱) حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہما نے حضرت شریح رضی اللہ عنہما کی شادی کرائی لیکن خطبہ نہیں پڑھا اور
فرمایا کہ یہ ضرورت پوری ہو گئی۔

(۱۷۸۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْتُ ابْنَ ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟ نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ : لَا أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوْ ابْنَ عُمَرَ . (بيهقي ۱۳۷)

(۱۷۸۰۲) حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے
فرمایا کہ ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا بیٹا نکاح کا اہل ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے امر
﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ پر عمل کرتے ہوئے تمہاری شادی کرا دی۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے چلتے ہوئے ایک آدمی کا نکاح کرا دیا۔

(۲۲۵) مِنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

جن حضرات کے نزدیک عورت کا بالکل سیدھا لیٹ کر سونا مکروہ ہے

(۱۷۸۰۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلَاةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ

لَا تَدْعِينَ بَنَاتِي بَنَاتِي بَنَاتِي بَنَاتِي عَلَى ظُهُورِهِنَّ لِإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْظُرُ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.

(۱۷۸۰۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو بالکل سیدھا لٹ کر مت سونے دو کیونکہ جب تک وہ اس حالت میں رہتی ہیں شیطان ان میں رغبت کرتا رہتا ہے۔

(۱۷۸۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِهْرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.

(۱۷۸۰۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کا بالکل سیدھا لٹ کر سونا مکروہ ہے۔

(۲۲۶) فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُتَسَلَّمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟

اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے نکاح میں کوئی یہودی یا عیسائی عورت ہو اور وہ عورت دخول سے پہلے اسلام قبول کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

(۱۷۸۰۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَكَمْ يُسَلِّمُ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

(۱۷۸۰۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اسلام قبول کرے اور اس کا کوئی یہودی، عیسائی یا مجوسی خاوند ہو جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو تو جب تک دخول نہ کرے اسے کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۷۸۰۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا.

(۱۷۸۰۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۷۸۰۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور عورت کو آدھا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۰۸) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۰۸) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو آدھا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۰۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ هَرَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ

فَأَسْلَمَتْ ، وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.

(۱۷۸۰۹) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کافر مرد کے نکاح میں عیسائی عورت ہو اور وہ عورت اسلام قبول

کر لے جبکہ اس کا شوہر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی، اگر مرد نے دخول کیا ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا اور اگر دخول نہیں کیا تو عورت اسے حاصل شدہ مال واپس کرے گی۔

(۱۷۸۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
(۱۷۸۱۰) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو آدھا مہر ملے گا۔

(۲۲۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقْرَأُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ

اگر کوئی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۸۱۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقْرَأَ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .

(۱۷۸۱۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقرار کرے تو یہ درست نہیں۔

(۱۷۸۱۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِفْرَارَهُ .

(۱۷۸۱۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے ایسے اقرار کو درست قرار دیا۔

(۱۷۸۱۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إِفْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا .

(۱۷۸۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر مثلی کا اقرار کرنا درست ہے۔

(۱۷۸۱۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ .

(۱۷۸۱۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایسا اقرار درست ہے۔

(۱۷۸۱۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِفْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثٌ ، وَلَا يَجُوزُ

وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ .

(۱۷۸۱۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاوند کے لئے ایسا اقرار درست نہیں کیونکہ عورت اس کی وارث ہے اور وارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی۔

(۲۲۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

اگر مہر کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۸۱۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادٌ ، وَابْنُ

ذُكُوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرٍ وَمِثْلِهَا .

(۱۷۸۱۶) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کا قول معتبر ہوگا اور حضرت حماد اور حضرت ذکوان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا قول مہر مثلی سے کم کا ہو تو عورت کا قول معتبر ہوگا۔

(۱۷۸۱۷) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَانِهَا .

(۱۷۸۱۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا قول مہر مثلی سے کم کا ہو تو عورت کا قول معتبر ہوگا۔

(۱۷۸۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إِسْمَاعِيلِ

بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ ، أَوْ آجَلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا : الْبَيْتَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا .

(۱۷۸۱۸) حضرت سعید بن جبیر اور حضرت شعیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے عورت سے مہر آجل اور مہر عاجل کے بدلے نکاح کیا، پھر آدمی نے دخول کر لیا تو گواہی اس بات پر قائم ہوگی کہ اس نے مہر ادا کر دیا ہے۔

(۲۲۹) فِي الْمَرْأَةِ تَدْعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا

اگر کوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۸۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدْعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيْتَةُ .

(۱۷۸۱۹) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو قاضی اس سے گواہی مانگے گا۔

(۱۷۸۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بَيْنَتِهَا وَقَالَ حَمَادٌ : صَدَاقِ نِسَانِهَا .

(۱۷۸۲۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو گواہی لائے گی۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے مہر مثلی ملے گا۔

(۱۷۸۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْبَيْتَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ .

(۱۷۸۲۱) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گواہی مہر والوں پر یعنی عورت کے اولیاء پر ہوگی اور مرد کے اہل پر اس سے نکالا ہوا ہوگا۔

(۲۳۰) فِي الرَّجُلِ يَقْضِيُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟

اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

(۱۷۸۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْضِيُ

امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يَلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۷۸۲۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو مرد بیوی سے لعان کرے اور اسے نصف مہر ملے گا اور اگر اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو اسے پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لِأَعْنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۲۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو مرد اس سے لعان کرے اور اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لِأَعْنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۲۴) حضرت حسن اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو مرد اس سے لعان کرے گا اور اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.

(۱۷۸۲۵) حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۸۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۷۸۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۸۲۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لِأَعْنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۲۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو مرد اس سے لعان کرے گا اور اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۲۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۷۸۲۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا حمل ظاہر ہو تو اسے پورا مہر ملے گا۔

(۱۷۸۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۸۲۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو مرد اس سے لعان کرے گا اور اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۲۳۱) مَا قَالُوا فِي الْعُدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ

بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا بیان

(۱۷۸۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ .

(۱۷۸۳) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج کے مابین عدل سے تقسیم فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اے اللہ! یہ میری وہ تقسیم ہے جو میرے اختیار میں تھی اور جو میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔

(۱۷۸۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فَعَلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . (احمد ۶ / ۱۳۴ - ابن حبان ۳۲۰۵)

(۱۷۸۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج کے مابین عدل سے تقسیم فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اے اللہ! یہ میری وہ تقسیم ہے جو میرے اختیار میں تھی اور جو میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔

(۱۷۸۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَعَادًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمٍ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ .

(۱۷۸۲۲) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، وہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ ایک کی باری والے دن دوسری کے یہاں سے وضو بھی کر لیں یا دوسری کے پاس رہیں۔

(۱۷۸۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذِّیْ لَهُ امْرَأَتَانِ : يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى .

(۱۷۸۲۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو ایک کی باری والے دن دوسرے کے یہاں وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔

(۱۷۸۲۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِي الْحَزْمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقَبْلِ .

(۱۷۸۲۳) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دو بیویاں تھیں میں ان دونوں کے درمیان توجہ کرنے میں بھی عدل سے

کام لیتا تھا۔

(۱۷۸۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطَّيْبِ ، يَنْطَلِبُ لِهَذِهِ كَمَا يَنْطَلِبُ لِهَذِهِ .

(۱۷۸۳۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانے میں بھی بیویوں کے درمیان برابری سے کام لیں۔ ایک کے لئے بھی وہی خوشبو لگائیں جو دوسری کے لئے لگاتے ہیں۔

(۱۷۸۳۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانُوا لَيَسُونُ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفُضْلَةُ مِمَّا لَا يُكَالُ مِنَ السُّوْبِقِ وَالطَّعَامِ ، فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إِذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ كَيْلَهُ .

(۱۷۸۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف بیویوں کے درمیان برابری کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ستوا اور غلے وغیرہ میں سے وہ چیز جو بچ جاتی اور کیل میں نہ آسکتی تو اس کو ہتھیلیوں سے تقسیم کرتے۔

(۱۷۸۳۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَانَهُ أَنْ يَمْرَأَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَاحْلَلْنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ .

(بخاری ۱۹۸ - مسلم ۹۱)

(۱۷۸۳۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے دیکھ بھال کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام کے لئے باقی ازواج سے اجازت طلب کی۔ سب نے اجازت دے دی اور آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام پذیر ہو گئے۔

(۱۷۸۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بَعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدٌ شَقِيهٌ سَاقِطٌ . (ترمذی ۱۱۳۱ - ابوداؤد ۲۱۲۶)

(۱۷۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی خاطر مدارت دوسری سے بڑھ کر کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گر ہوگا۔

(۲۳۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمُرَاتَانِ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَّأُ إِحْدَاهُمَا
وَالْآخَرَى تَنْظُرُ

اگر کسی آدمی کی دو بیویاں یا دو باندیاں ہوں تو کیا دوسری کے سامنے ایک سے جماع کر سکتا ہے؟
(۱۷۸۳۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سِئَلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ
قَالَ: كَانُوا يَتَكَرَّهُونَ الْوُجُسَ وَهُوَ أَنْ يَطَّأُ إِحْدَاهُمَا وَالْآخَرَى تَرَى، أَوْ تَسْمَعُ.
(۱۷۸۳۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ایک کمرے میں ہوں تو ایک کے سامنے یا اس کے سنتے
ہوئے دوسری سے جماع کرنا طرہ ہے۔

(۱۷۸۴۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَنَامُ
بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

(۱۷۸۴۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی دو باندیوں کے درمیان سویا کرتے تھے۔
(۱۷۸۴۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمْتَيْنِ.
(۱۷۸۴۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو باندیوں کے درمیان سونے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَهْدِي إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَيَصَدَّقْهَا مَا لَهَا
مِنَ الصَّدَاقِ؟

ایک آدمی کو اس کی بیوی پیش کی گئی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں چھوا، مرد بھی اس
کی تصدیق کرتا ہے، کیا اس عورت کو مہر ملے گا؟

(۱۷۸۴۲) هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَزْرَةَ عَنْ شَرِيحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا،
وَأَقْرَبَتْ هِيَ بِذَلِكَ، فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَالزَّوْمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ: لَا أُصَدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا
أُصَدِّقُكَ لِنَفْسِكَ.

(۱۷۸۴۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو اس کی بیوی پیش کی گئی، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیوی سے
دخول نہیں کیا، عورت بھی اس کا اقرار کرتی ہے، تو عورت کو نصف مہر ملے گا اور اس پر عدت بھی لازم ہوگی۔ نیز یہ فیصلہ کرنے کے بعد
قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے نفس پر تیری تصدیق نہیں کرتا اور عورت کے نفس پر اس کی تصدیق نہیں کرتا۔

(۱۷۸۴۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَزِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْغَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ .

(۱۷۸۴۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ مرد پر پورا مہر لازم ہوگا عورت چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔

(۲۳۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَ شَهْرٌ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي

اگر ایک آدمی کسی شخص سے یہ کہے کہ جب فلاں مہینہ آئے گا تو میں اپنی بیٹی سے تیری شادی

کرادوں گا تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۷۸۴۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلَ الشَّعْبِيُّ رَجُلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِذَا مَضَى سَرَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ .

(۱۷۸۴۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی آدمی سے کہا کہ جب شوال کا مہینہ گزر جائے گا تو میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرادوں گا تو یہ نیکاح نہیں ہے۔

(۲۳۵) فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النِّفْقَةُ

اگر آقا غلام کو شادی کی اجازت دے تو نفقہ اسی پر لازم ہوگا

(۱۷۸۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النِّفْقَةُ .

(۱۷۸۴۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آقا غلام کو شادی کی اجازت دے تو نفقہ اسی پر لازم ہوگا۔

(۲۳۶) فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوْ ابْنَتِهَا

عورت کا اپنے بیٹے یا باپ کے ساتھ کھلے سر بیٹھنا کیسا ہے؟

(۱۷۸۴۶) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَحَسِرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلَا وَالِدٍ وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا .

(۱۷۸۴۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بیٹے، والد یا بھائی کے پاس کھلے سر نہیں بیٹھ سکتی، صرف خاوند کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔

(۱۷۸۴۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ

وَأُخْتَهُ شُعْبَةَ مِنَ الزَّوْجَاتِ.

(۱۷۸۳۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کی جلد کا اپنی ماں یا بہن کی جلد کو چھونا زنا کا ایک شعبہ ہے۔

(۲۳۷) فِي الْإِخْتِبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِأَمْرَاتِهِ، أَوِ الْمَرَأَةَ بِزَوْجِهَا

میاں بیوی کے لئے خلوت کی باتوں کو بیان کرنے کی ممانعت

(۱۷۸۴۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أَبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ بَسْتِرِي حَدَّثْتُ بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْتُ ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .

(۱۷۸۴۸) حضرت سلمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کروں، دروازہ بند کروں، پردہ لگا دوں اور پھر ان باتوں کو بیان کروں تو میرے لئے لوگوں سے ان باتوں کا بیان کرنا اور اس حالت میں لوگوں کا مجھے دیکھنا برابر ہے۔

(۱۷۸۴۹) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَزَةَ الْعُمَيْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ مَوْلَى لِأَبِي سُبْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا .

(مسلم ۱۲۳۔ ابوداؤد ۷۷۷۷)

(۱۷۸۴۹) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے اور وہ اس سے ضرورت پوری کرے پھر وہ اس کے راز کو افشا کر دے۔

(۱۷۸۵۰) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمِيَ أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِيهِ؟ وَعَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يَصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِمَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . (ابوداؤد ۳۰۱۵۔ احمد ۳/۵۳۰)

(۱۷۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کیسے درست ہے کہ تم مردوں میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کی تفصیل لوگوں کو بتائے یا تم میں سے کوئی عورت اپنے خاندان سے ملاقات کی تفصیل لوگوں کو بتائے۔ اس پر ایک سیاہ فام عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کہ جب مرد اور عورت یہ کرتے ہیں تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زشیطان کسی مادہ شیطانی سے ملتا ہے اور راستہ میں اس سے جناح کرتا ہے جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جبکہ لوگ دیکھ

رہے ہوتے ہیں۔

(۱۷۸۵۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوَّامٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ : كَانُوا إِذَا اتُّوا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنُوا عَنْهُ .

(۱۷۸۵۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں تو کناہیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔

(۲۳۸) مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامٍ مِنَ الْجَدْبِ

قط سالی کے دنوں میں نکاح کی ممانعت

(۱۷۸۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ لَا يُجِزُّ النِّكَاحَ فِي عَامٍ سَنَةِ يُعْنَى مَجَاعَةً .

(۱۷۸۵۲) حضرت حبیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما قط سالی کے دنوں میں نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

(۲۳۹) فِي الرَّجُلِ الْوَلِيُّ يَزُوجُ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ

اگر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے لیکن وہ راضی نہ ہو البتہ بعد میں راضی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۷۸۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ .

(۱۷۸۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے لیکن وہ راضی نہ ہو البتہ بعد میں راضی ہو جائے تو پرانا نکاح درست نہیں نیا کرنا ہوگا۔

(۲۴۰) فِي الرَّجُلِ يُقْرُّ بَوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا

(۱۷۸۵۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بَوَلَدَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .

(۱۷۸۵۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۱۷۸۵۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بَوَلَدَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .

(۱۷۸۵۵) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۱۷۸۵۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَهُ ، أَوْ هُنَّ بِهِ ، أَوْ لَمْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْهُ .

(۱۷۸۵۶) حضرت شریح بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۱۷۸۵۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بِالْوَلَدِ طَرَفَةً عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .

(۱۷۸۵۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے برابر بھی بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۱۷۸۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بَابِنَ لَهُ قَدْ أَقْرَبَ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنُؤُهُ بِهِ وَأَقْرَبَ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحُ : الزُّمُ وَلَكَ قَالَ عَامِرٌ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ .

(۱۷۸۵۸) حضرت مجالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی ایک بچہ لے کر آیا جس کا پہلے اقرار کر چکا تھا اب انکار کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے گواہی دی کہ یہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کی مبارک باد بھی دی تھی، آدمی نے اس بات کا اقرار کیا تو حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

(۱۷۸۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ الرَّجُلُ بَوْلِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ .

(۱۷۸۵۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا۔

(۱۷۸۶۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَعَبِيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقْرَبَ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكُرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۷۸۶۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حمل کا اقرار کیا تو اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے عدت میں غلطی لگی تھی۔

(۱۷۸۶۱) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُعْرَبْ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقْرَبَ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ .

(۱۷۸۶۱) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی بیوی یا باندی کا حمل ظاہر ہو تو وہ وضع حمل کے بعد اقرار سے پہلے انکار کر سکتا ہے، اور اگر اس نے حمل کا اقرار کیا اور پھر وضع حمل کے بعد اس کا انکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

(۱۷۸۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بَوْلِيهِ ثُمَّ نَفَاهُ لِرَمَّةٍ .

(۱۷۸۶۲) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے بچے کا اقرار کیا پھر نفی کرے تو پھر بھی بچہ اسی کا ہوگا۔

(۱۷۸۶۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا انْقَمَى الرَّجُلُ مِنْ وُلْدِهِ لِأَعْنِ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَالزُّقُ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا .

(۱۷۸۶۳) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے بچے کا اقرار کیا پھر نفی کرے تو پھر بھی بچہ اسی کا ہوگا۔

(۱۷۸۶۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا انْقَمَى الرَّجُلُ مِنْ وُلْدِهِ لِأَعْنِ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَالزُّقُ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا .

(۱۷۸۶۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنے بچے کا انکار کیا تو بیوی اگر زندہ ہو تو لعان کرے گا اور اگر مر چکی ہو تو اس پر حد جاری ہوگی اور بچہ اسی کا ہوگا، اگر وہ بچہ باندی کا بچہ ہو تو غلام ہوگا۔

(۱۷۸۶۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَقْرَبَ بَوْلِيهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَالِدُ بِالْإِقْرَارِ وَيَلْأَعْنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ .

(۱۷۸۶۳) حضرت حماد اور حضرت حکم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر آدمی بچے کا اقرار کرنے کے بعد پھر انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر حد جاری ہوگی۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقرار سے بچہ لازم ہو گیا اور وہ لعان کرے گا، انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۷۸۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقْرِئُ بَوْلِيهِ ثُمَّ يَنْتَهِي مِنْهُ قَالَ : يَلْأَعْنُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَلْزَمُ الْوَالِدُ بِقِضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۸۶۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے بچے کا اقرار کیا پھر اس کا انکار کیا تو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق لعان کرے گا، اور رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کے مطابق بچہ اسی کا ہوگا۔

(۱۷۸۶۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مِعْبِرَةَ ؟ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقْرَبَ بَوْلِيهِ لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَرَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ : لَيْسَ بِإِنْكَارِهِ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ .

(۱۷۸۶۶) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی باندی سے اپنے کسی بچے کا اقرار کیا۔ پھر وہ مرد بن گیا اور اس نے اس کی شادی کرادی پھر اس نے انکار کر دیا تو یہ انکار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ بچہ اسی کا ہوگا۔

(۱۷۸۶۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا .

(۱۷۸۶۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بچے کا انکار کر سکتا ہے خواہ وہ مرد بن چکا ہو۔

(۱۷۸۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَرَوَّجَهَا وَأُمَّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ رَوَّجَهَا : هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمْتُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ : رَوَّجْتَنِي أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضْرَبَ رَأْسَهُ بِالذَّرَّةِ وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَالِدُ وَلِذَلِكَ .

(۱۷۸۶۸) حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند، اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ حاملہ تھی، اس کے خاوند نے کہا کہ یہ ایک باندی تھی، میں اس کے ساتھ دل لگی کرتا تھا، جب کہ عورت کا کہنا تھا کہ میرے ماں باپ نے اس سے میری شادی کی ہے اور یہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ سب کرتا تھا جو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا اس آدمی کے سر پر مارا اور فرمایا کہ یہ تیری بیوی ہے اور بچہ تیرا ہی ہے۔

(۲۴۱) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ (إِذَا أَحْصِنَ)

قرآن مجید کی آیت ﴿إِذَا أَحْصِنَ﴾ کی تفسیر

(۱۷۸۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : ﴿إِذَا أَحْصِنَ﴾ قَالَ : إِذَا أَحْصَنَّتْهُنَّ الْبُعُولَةُ .

(۱۷۸۶۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِذَا أَحْصِنَ﴾ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ شادی کے ذریعہ پاک ہو جائیں۔

(۱۷۸۷۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا : ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ﴾ يَقُولُ : إِذَا تَرَوُجْنَ .

(۱۷۸۷۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِذَا أَحْصِنَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا شادی کرنا ہے۔

(۲۴۲) مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا؟

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کے بارے میں کہ وہ غلام تھے یا آزاد؟

(۱۷۸۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا .

(۱۷۸۷۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے خاوند آزاد تھے۔

(۱۷۸۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

(۱۷۸۷۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے خاوند آزاد تھے۔

(۱۷۸۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ .

(۱۷۸۷۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کے وقت ان کے خاوند آزاد تھے۔

(۱۷۸۷۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

(۱۷۸۷۴) حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے خاوند غلام تھے۔

(۱۷۸۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا .

(۱۷۸۷۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے خاندان غلام تھے۔

(۱۷۸۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ .

(۱۷۸۷۶) حضرت عمرہ رضی اللہ عنہما ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے خاندان ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا نام مغیث تھا اور وہ بنو مخزوم کی شاخ بنو مغیرہ کے غلام تھے۔

(۱۷۸۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتَّبِعُهَا وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَصَّاهَا كَمَا تَخْتَارُهُ فَلَمْ تَخْتَرَهُ يُعْنَى زَوْجَ بَرِيرَةَ .

(۱۷۸۷۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے خاندان بنو مغیرہ کے ایک سیاہ فام غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہے جب وہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے اور ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہ رہے ہوتے تھے، وہ انہیں راضی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما نے انہیں اختیار نہیں کیا۔

(۱۷۸۷۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ زَوْجَ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ .

(۱۷۸۷۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے خاندان ایک سیاہ فام غلام تھے۔

(۱۷۸۷۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ .

(۱۷۸۷۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کو آزاد کیا گیا تو حضور ﷺ نے انہیں اختیار دیا (کہ اپنے نکاح کو باقی رکھیں یا ختم کر دیں) ان کے خاندان آزاد تھے۔

(۱۷۸۸۰) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجَ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

(۱۷۸۸۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے خاندان آزاد تھے۔

(۲۴۲) مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ؟

حسن کس چیز کا نام ہے؟

(۱۷۸۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ .

(۱۷۸۸۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سفیدی آدھا حسن ہے۔

(۱۷۸۸۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثَلَاثَ الْحُسْنِ .

(۱۷۸۸۳) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک تہائی حسن عطا ہوا تھا۔

(۱۷۸۸۴) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ . (احمد ۳/۱۳۸ - حاکم ۵۷۰)

(۱۷۸۸۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا ہوا تھا۔

(۲۴۴) فی مباحثۃ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ

آدمی کا آدمی کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا درست نہیں

(۱۷۸۸۶) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الطَّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَكَدَّهُ أَوْ الْوَالِدَةُ وَكَدَّهُ .

(ابوداؤد ۳۰۱۵ - احمد ۲/۳۲۵)

(۱۷۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں نہ لیٹے، البتہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ لیٹ سکتا ہے۔

(۱۷۸۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَإِثْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ أَجَلَ أَنْ تَصْفَهَا لِزَوْجِهَا . (بخاری ۵۲۳۰ - ابوداؤد ۲۱۳۳)

(۱۷۸۸۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک لحاف میں نہ لیٹے کہ بعد میں اپنے خاوند کے سامنے اس کی صفات کا تذکرہ کرے۔

(۱۷۸۹۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الصَّخَاكِيِّ بْنِ عُمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ . (ترمذی ۲۷۹۳ - ابوداؤد ۳۰۱۳)

(۱۷۸۹۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔

(۱۷۸۹۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْهَمْدِيُّ

عَنْ أَبِي الْحَصِينِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِيِّ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رِيحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، وَمُعَاكَمَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ .

(ابوداؤد ۳۰۳۶۔ احمد ۱۳۳ / ۳)

(۱۷۸۸۷) حضرت ابوریحانہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اس طرح لیٹے کہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔

(۱۷۸۸۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي شَهَابٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا . (حاکم ۲۸۷۔ احمد ۳۳۸ / ۳)

(۱۷۸۸۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے۔ حضرت ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس عمل پر حد جاری ہونی چاہئے۔

(۱۷۸۸۹) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ . (احمد ۳۱۳ / ۱۔ ابن حبان ۵۵۸۲)

(۱۷۸۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے۔

(۲۴۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَاذِنُ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى أُخْتِهِ

آدمی اپنی ماں یا بہن کے یہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے

(۱۷۸۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْتَاذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْحَبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً . (بیہقی ۹۷)

(۱۷۸۹۰) حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے ان سے اجازت طلب کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم انہیں عریاں دیکھنا پسند کرو گے؟

(۱۷۸۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ ، عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُونُكَ .

(۱۷۸۹۱) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ایسی چیز دیکھنی پڑ سکتی ہے جو تمہیں پسند نہ ہو۔

(۱۷۸۹۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .

(۱۷۸۹۳) حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اجازت طلب کرو۔

(۱۷۸۹۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانَهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا .

(۱۷۸۹۵) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ ہر وقت ایسی حالت میں نہیں ہوتیں جس میں دیکھنا تمہیں پسند ہو۔

(۱۷۸۹۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتُ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إِلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مَرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيَهُنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلَتْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ .

(۱۷۸۹۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اور ان کی کچھ بیٹیاں مکہ میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ میں جب بھی ان کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت طلب کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہاں اور آپ نے انہیں بغیر اجازت جانے کی اجازت نہ دی۔

(۱۷۸۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمَّكَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا .

(۱۷۸۹۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو خواہ وہ بوڑھی ہوں۔

(۱۷۹۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ .

(۱۷۹۰۱) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ اپنی ماؤں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو۔

(۱۷۹۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أُخِيهِ وَعَلَى أُخْتِهِ .

(۱۷۸۹۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ، اپنی بیٹی، اپنے بھائی اور اپنی بہن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔

(۱۷۸۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .

(۱۷۸۹۸) حضرت زہری اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

(۱۷۸۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ صَلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ .

(۱۷۸۹۹) حضرت صلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آدمی اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

(۱۷۹۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا يَعْنِي عَلَى أُمِّهِ .

(۱۷۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

(۱۷۹۰۱) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيْسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا .

(۱۷۹۰۱) حضرت جعفر بن برقان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آدمی اپنی ماں اور بہن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اجازت طلب کرو۔

(۱۷۹۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمَّكَ .

(۱۷۹۰۲) حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اجازت طلب کرو۔

(۱۷۹۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .

(۱۷۹۰۳) حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا بھائی اجازت لے کر آئے گا۔

(۲۶۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟

کیا آدمی اپنی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟

(۱۷۹۰۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرَ النَّاسِ الْإِذْنَ وَإِنِّي أَمْرٌ جَارِيَتِي هَذِهِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ .

(۱۷۹۰۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ باندی کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لوگوں نے تو بہت زیادہ اجازت مانگنا شروع کر دی ہے، میں اپنی باندی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اجازت لے کر میرے پاس آئے۔

(۱۷۹.۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْتِذَانِ فِي السَّاعَاتِ ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾.

(۱۷۹۰۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے معاملے میں شیطان لوگوں پر غالب آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾

(۱۷۹.۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: كَانَ أَهْلًا يَعْلَمُونَ أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ: فَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا جَاءَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فَلَانَ؟

(۱۷۹۰۶) حضرت محمد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں سلام کرنا سکھایا کرتے تھے، ہم میں سے جب کوئی آتا تو السلام علیکم کہتا اور ساتھ کہتا کہ فلاں داخل ہو جائے؟

(۱۷۹.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّسَاءِ: ﴿لَيْسَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

(۱۷۹۰۷) حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿لَيْسَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۷۹.۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿لَيْسَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

(۱۷۹۰۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿لَيْسَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ منسوخ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

(۱۷۹.۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الْإِذْنِ، فَقَالَ: اسْتِذْنِ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.

(۱۷۹۰۹) حضرت قاسم رضی اللہ عنہما سے اذن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر پردے والی چیز سے اجازت طلب کرو پھر اس کے بعد وہ چکر لگانے والا ہے۔

(۲۴۷) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۹۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

(۱۷۹۱۰) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عدت کا گزر جانا ہے۔

(۱۷۹۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ .

(۱۷۹۱۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عدت کا گزر جانا ہے۔

(۱۷۹۱۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ : لَا تَوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَنْزَلْتُكَ حِينَ تَنْقِضِي عِدَّتَكَ .

(۱۷۹۱۲) حضرت ابو مالک قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عدت میں ان سے یہ وعدہ نہ کرو کہ میں تیری عدت گزرنے کے بعد تجھ سے شادی کروں گا۔

(۲۴۸) (واہجروہن فی المصاحج)

قرآن مجید کی آیت ﴿واہجروہن فی المصاحج﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۷۹۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ قَالَ : لَا تَقْرُبِيهَا .
(۱۷۹۱۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے قریب مت جاؤ۔

(۱۷۹۱۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : قَوْلُهُ ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ قَالَ : لَا يَصَاحِبُهَا .
(۱۷۹۱۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت لیٹو۔

(۱۷۹۱۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الصَّحْحِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ قَالَ : إِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَصَاحِجِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا .

(۱۷۹۱۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب عورت لینے میں مرد کی اطاعت کرے تو وہ اسے مار نہیں سکتا۔

(۱۷۹۱۶) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُقْسِمٍ : قَوْلُهُ ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلَا تَقْرُبُ فِرَاشَهَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلَامُ وَقَالَ جَمِيعًا :

﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ ضَرْبٌ غَيْرٌ مَبْرُوحٍ.

(۱۷۹۱۶) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت مقسم رضی اللہ عنہما سے قرآن مجید کی آیت ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت مقسم رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: ہجر مضع سے مراد اس کے بستر کے قریب نہ جانا اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد بات کرنا ہے۔ جبکہ ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ کے بارے میں دونوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ایسی مارے جو زخم نہ ڈالے۔

(۱۷۹۱۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قَالَ : ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ غَيْرَ مُؤَلَّرٍ.

(۱۷۹۱۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی مارے جو زخم نہ ڈالے۔

(۲۴۹) مَا قَالُوا فِي الْإِسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ

دورانِ صحبت پردہ کرنے کا بیان

(۱۷۹۱۸) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْفَهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ.

(۱۷۹۱۸) حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم بیوی سے جماع کرو تو پردہ ڈال لو۔

(۱۷۹۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ إِذَا تَجَرَّدَ الْعَبْرِيُّ. (طبرانی ۷۶۸۳- بزار ۱۳۳۸)

(۱۷۹۱۹) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جماع کرو تو پردہ ڈال لو اور اونٹوں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جاؤ۔

(۲۵۰) مَا قَالُوا فِي الرِّضَاعِ بِلَبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالتَّصْرَانِيَّةِ وَالْفَاجِرَةِ

یہودیہ، نصرانیہ یا فاحشہ کے دودھ سے رضاعت ثابت ہونے کا بیان

(۱۷۹۲۰) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْفَهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يَرْضَعَ نَصْرَانِيًّا.

(۱۷۹۲۰) حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسلمان کو نصرانی کا رضاعی بھائی بننے سے منع کیا ہے۔

(۱۷۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبِ أَبِي الْهَدَيْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْحَمْرَ .

(۱۷۹۲۱) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہودیہ یا نصرانیہ کسی بچے کو دودھ پلا میں، فرمایا کہ یہ شراب پیتی ہیں۔

(۱۷۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ .

(۱۷۹۲۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کوئی عورت بدکاری کے ذریعے اترنے والا دودھ کسی بچے کو پلائے۔

(۱۷۹۲۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ .

(۱۷۹۲۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زانیہ کی رضاعت یا مجوسیہ کے دودھ میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۵۱) بَابُ كِرَاهِيَةِ أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا

ایک عورت کو دوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکروہ ہے

(۱۷۹۲۴) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَصِفْنِي لِأَزْوَاجِكُنَّ .

(۱۷۹۲۴) حضرت عائشہ بنتی منصف عورتوں سے فرمایا کرتی تھیں کہ اپنے خاوندوں کے سامنے میرا وصف بیان نہ کرو۔

(۲۵۲) مَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا

اگر آدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھر اس سے شادی کر لی تو رجم کے خالی ہونے کا

یقین کے بغیر جماع کر سکتا ہے

(۱۷۹۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا .

(۱۷۹۲۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھر اس سے شادی کر لی تو رجم کے خالی ہونے کا یقین کے بغیر جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۹۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا .

(۱۷۹۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھر اس سے شادی کر لی تو رجم کے خالی ہونے کا یقین کے بغیر جماع کر سکتا ہے۔

(۱۷۹۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْأُمَّةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبِرْ نَهَا .
(۱۷۹۲۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھر اس سے شادی کر لی تو رحم کے خالی ہونے کا یقین کے بغیر جماع کر سکتا ہے۔

(۲۵۳) مَنْ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

کسی کے پیام نکاح پر پیام نکاح نہ بھیجا جائے

(۱۷۹۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

(مسلم ۵۰۔ ابو داؤد ۲۰۷۴)

(۱۷۹۲۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیام نکاح پر پیام نکاح نہ بھیجے اور اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔

(۱۷۹۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . (مسلم ۵۲۰۔ ترمذی ۱۱۳۳)

(۱۷۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیام نکاح پر پیام نکاح نہ بھیجے۔

(۲۵۴) مَا ذَكَرَ فِي الزَّوْنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

زنا کی مذمت کا بیان

(۱۷۹۳۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

(۱۷۹۳۰) حضرت ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔

(۱۷۹۳۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . (طبالسی ۸۴۳۔ احمد ۳ / ۳۵۲)

(۱۷۹۳۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۷۹۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ قَالَ : يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِتَنْ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۱۷۹۳۲) حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زنا کار لوگ اپنی شرمگاہوں کی بدبو سے پہچانے جائیں گے۔

(۱۷۹۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزُّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤْخَذُ وَلَا يَكَادُ تَقَامُ حُدُودُهُ .

(۱۷۹۳۳) حضرت مسروق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ سب سے زیادہ زنا کا شکار ہوتے ہیں وہ شہوت ہے، اس کی کوئی بو نہیں کہ پکڑا جاسکے اور حدود قائم کی جاسکیں۔

(۱۷۹۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ .

(۱۷۹۳۴) حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل جنت کے اکثر گناہ عورتوں میں ہیں۔

(۱۷۹۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِيُعْلَمَانِيهِ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ زَوْجَانَهُ ، لَا يَزْنِي مِنْكُمْ الزَّانِي إِلَّا تَرَعَّ اللَّهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رُدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ .

(۱۷۹۳۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو تم میں سے پاکدامنی چاہتا ہے تو ہم اس کی شادی کرادیتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے اور پھر چاہتا تو لوٹا دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے تو نہیں لوٹاتا۔

(۱۷۹۳۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الْإِيمَانُ نَزَهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الْإِيمَانُ فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ .

(۱۷۹۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان گناہوں سے روکنے والا وصف ہے، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے اور جو نفس کو ملامت کرتا ہے تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔

(۱۷۹۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

(بخاری ۵۰۹۶ - مسلم ۲۰۹۷)

(۱۷۹۳۷) حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لئے اپنے بعد عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔

(۱۷۹۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرٌ مِنْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَأَنَّ كُفْرٌ مِنْ بَيْعٍ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ .

(۱۷۹۳۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوگوں کا کفر عورتوں کی وجہ سے تھا اور آئندہ بھی کفر عورتوں کی وجہ سے ہوگا۔

(۱۷۹۳۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

(۱۷۹۳۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔

(۱۷۹۴۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيَّةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . (بخاری ۲۳۷۵۔ مسلم ۱۰۰)

(۱۷۹۴۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۵۵) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ

خصی آدمی سے شادی کرنے کا بیان

(۱۷۹۴۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ إِلَيْهِ خَصِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلَمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۷۹۴۱) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ خصی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی جبکہ عورت کو اس کا علم نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۷۹۴۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْكِحُ الْخَصِيَّ حُرَّةً مُسْلِمَةً .

(۱۷۹۴۲) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خصی کسی مسلمان آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔

(۲۵۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمْ ابْنَتُهُ

اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرانی پھر خاوند مر گیا لیکن بیٹی کو علم نہیں تھا

(۱۷۹۴۳) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمْ ابْنَتُهُ

بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرْتِ وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : تَرْتِ .

(۱۷۹۳۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی پھر خاندان مر گیا لیکن بیٹی کو علم نہیں تھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وارث ہوگی۔

(۲۵۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُوقُ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا

شب زفاف کے دن آدمی کا اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے پاس لے جانا

(۱۷۹۴۴) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا .

(۱۷۹۳۳) حضرت داود بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما خود اپنی بیٹی کو ان کے خاوند کے پاس لے کر گئے۔

(۲۵۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ أُمَّهُ

آدمی کا اپنی والدہ کی شادی کرانا

(۱۷۹۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ابْنَهَا أَنْ يَزُوجَهَا

فَكَرَهُ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ عَدَا أَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ

فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يَكْثِرْ ثُمَّ أَحَدَّ بِيَدِ ابْنَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَتَمَةَ بِنْتُ هِشَامٍ

يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتُهَا ، فَرَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .

(۱۷۹۳۵) حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہما ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری شادی کرادے،

بیٹے نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ساری بات عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ

میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس عورت سے مختصر بات چیت کی پھر اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ

کر فرمایا کہ تم اس کی شادی کرادو، اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے! اگر حنتمہ بنت ہشام (حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی

والدہ) مجھ سے شادی کرانے کا کہتیں تو میں ضرور ان کی شادی کرادیتا۔ پس آدمی نے اپنی والدہ کی شادی کرادی۔

(۱۷۹۴۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلِهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ حَشَّةٌ نَسَبَتْ مِنَ

الْأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ اسْلَمَ فَإِنَّكَ إِنْ اسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ

مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللہ قَالَتْ: يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا .

(۱۷۹۳۶) حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اور اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو پیام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ! کیا تم نہیں جانتے کہ جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک محض ایک لکڑی ہے جو زمین سے اگتی ہے اور اسے فلاں جھشی نے اگا یا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا واقعی بات تو یوں ہی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر تمہیں اس سے شرم کیوں نہیں آتی، تم اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام کو قبول کرنا ہی میرا امر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سوچنے کے لئے وقت مانگا پھر آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے انس اٹھو اور ابو طلحہ سے میرا نکاح کرادو۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کرادیا۔

(۲۵۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقْبَلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ

آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو پیار کر سکتا ہے

(۱۷۹۴۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَرِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَعَاذِيهِ قَبَلَ فَاطِمَةَ . (بخاری ۳۶۲۳۔ مسلم ۹۷)

(۱۷۹۴۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی غزوہ سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیار کیا کرتے تھے۔

(۱۷۹۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَلَ رَأْسَ عَائِشَةَ .

(۱۷۹۴۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر پر پیار دیا۔

(۱۷۹۴۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ فَقَبَلَ رَأْسَهَا . (ترمذی ۱۱۷۲۔ دارمی ۲۷۸۲)

(۱۷۹۴۹) حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے بارے میں اپنی بہن سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے اچھا مشورہ دیا تو انہوں نے اپنی بہن کے سر پر پیار دیا۔

(۲۶۰) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

جن عورتوں کے خاوند شہر میں موجود نہ ہوں ان سے مرد ملاقات کے لئے نہیں جا سکتے

(۱۷۹۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ .

(۱۷۹۵۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ان عورتوں سے ملاقات کے لئے جایا جائے جن کے خاوند شہر میں نہیں ہیں۔

(۱۷۹۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ : حَمُومَهَا ؟ أَلَا إِنَّ حَمُومَهَا الْمَوْتُ .

(۱۷۹۵۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار! کوئی شخص غیر محرم عورت سے ملاقات نہ کرے، اور اگر دیور یا جیٹھ کے بارے میں پوچھو تو میں کہوں گا کہ وہ تو موت ہیں۔

(۱۷۹۵۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . (بخاری ۳۰۰۶ - مسلم ۳۲۳)

(۱۷۹۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار! کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو۔

(۱۷۹۵۳) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ . (مسلم ۱۹ - ابن حبان ۵۵۸۷)

(۱۷۹۵۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے گھر میں رات نہ رہے الا یہ کہ وہ اس کا خاوند ہو یا محرم رشتہ دار۔

(۱۷۹۵۴) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَاكُمْ وَاللَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْحَمُومُ ؟ فَقَالَ : الْحَمُومُ الْمَوْتُ . (بخاری ۵۲۳۲ - مسلم ۲۱)

(۱۷۹۵۴) حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! دیور یا جیٹھ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو موت ہے۔

(۱۷۹۵۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذُكْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ أَجْهِنَّ .

(۱۷۹۵۵) حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خادم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا

(ترمذی ۲۷۷۹ - احمد ۲/۲۰۳)

(۱۷۹۵۵) حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خادم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا

کہ ان سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی اجازت طلب کریں جب اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنی ضرورت کی بات کی تو خادم نے حضرت عمرو بن لُحیہ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم عورتوں سے ان کے خاندانوں کی اجازت کے بغیر ملاقات کریں۔

(۱۷۹۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ ، عَنْ تَيْمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نَهَيْنَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ .

(۱۷۹۵۶) حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم عورتوں سے ان کے خاندانوں کی اجازت کے بغیر ملاقات کریں۔

(۲۶۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوَصَفَاءِ

خادموں اور باندیوں کے عوض شادی کرنے کا بیان

(۱۷۹۵۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا .

(۱۷۹۵۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی عورت سے اس بات پر شادی کرے کہ اسے اتنے خادم دے گا۔

(۱۷۹۵۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتِ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوَصَفَاءِ وَالْوَصَانِفِ .

(۱۷۹۵۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خادمہ باندیوں اور غلاموں کے عوض شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۶۲) مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوِّفُ وَيُطَافُ بِهَا

چھوٹی بچیوں کا بناؤ سنگھار کر کے مردوں کے سامنے آنا

(۱۷۹۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَاسَمِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوِّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا تَنْصِيدُ بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ .

(۱۷۹۵۹) بنو زید اللہ کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک باندی کو بناؤ سنگھار کر کے اس کے ساتھ باہر آئیں اور فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم قریش کے نوجوانوں کا شکار کریں گے۔ (مراد یہ تھم یکہ بچی کی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار اس کے رشتہ ازدواج میں آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ راویہ کے مہجول ہونے کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے)

(۱۷۹۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زَيَّنَتْ قَالَ: فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حَجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبُرْكَاتِ.

(۱۷۹۶۰) حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی ایک سنوری ہوئی بچی کو لے کر حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے اسے بلایا، اس کی طرف دیکھا، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے برکت کی دعا دی۔

(۱۷۹۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاجِهِ قَالَ قَالَ: عُمَرُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحْسِنَ الْجَارِيَةَ فَلْيَزَيِّنْهَا وَلْيَطْوِفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللَّهِ.

(۱۷۹۶۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اپنی بچی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اسے تیار کرے اور باہر لائے، اللہ تعالیٰ کا رزق اس کے لئے آئے گا۔ (یعنی اس کی شادی ہو جائے گی)

(۲۶۳) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْرَهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لَا تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ

ناپسندیدہ مردوں سے عورت کی شادی کرانا مکروہ ہے

(۱۷۹۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: عُمَرُ: لَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.

(۱۷۹۶۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پستہ قد اور بد شکل آدمیوں سے نکاح کرنے پر مجبور نہ کرو کیونکہ جو تم پسند کرتے ہو اسے وہ بھی پسند کرتی ہیں۔

(۲۶۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

ارضِ حرب میں شادی کرنا درست نہیں

(۱۷۹۶۳) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَكَدَّهُ فِيهِمْ.

(۱۷۹۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسندیدہ خیال فرماتے تھے کہ آدمی ارضِ حرب میں شادی کرے اور اپنے بچے کو وہیں چھوڑے۔

(۱۷۹۶۴) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ: فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

فَيُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ.

(۱۷۹۶۳) حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ایسے رومی عیسائیوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے جو عہد میں نہ ہوں۔ حضرت محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیدی آدمی کا شادی کرنا مکروہ ہے۔

(۲۶۵) مَنْ قَالَ لَا يُحْصِنُ الرَّجُلُ نِكَاحَ الْحَرَامِ

نَا جَا زَ نِكَاحِ آدَمِيِّ كَوَحْصِنَ نَهَيْسَ بِنَاتَا

(۱۷۹۶۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحْصِنُ الرَّجُلُ نِكَاحَ الْحَرَامِ .

(۱۷۹۶۵) حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز نکاح آدمی کو محسن نہیں بناتا۔

(۱۷۹۶۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا يُحْصِنُ الرَّجُلُ نِكَاحَ الْحَرَامِ .

(۱۷۹۶۶) حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز نکاح آدمی کو محسن نہیں بناتا۔

(۲۶۶) مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ

خِضَابِ كَيْ ذَرِيَعَةِ نَقْشِ بِنَانِ كَا حَكْمِ

(۱۷۹۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ نَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ : سَمِعْتُ عُمَرَ

يُنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ .

(۱۷۹۶۷) حضرت عمر رحمہ اللہ نے خضاب کے ذریعے نقش و نگار بنانے اور اس سے انگلیوں کے کناروں کو رنگنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۹۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّيَّةٌ قَالَتْ : كُنْتُ أَقِينُ الْعُرَانِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ

الْخِضَابِ ، فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ .

(۱۷۹۶۸) حضرت امیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں مدینے میں دلہنوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خضاب

کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر نقش نہ بنائے جائیں۔

(۱۷۹۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّقْشِ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ .

(۱۷۹۶۹) حضرت عمر رحمہ اللہ نے خضاب کے ذریعے نقش و نگار بنانے اور اس سے انگلیوں کے کناروں کو رنگنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۶۷) مَا قَالُوا فِي الْخُلُوقِ لِلرِّجَالِ

مَرْدُونَ كَلَيْ خُلُوقِ كَا اسْتِعْمَالِ كَيْسَا هَيْ؟

(۱۷۹۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةٍ قَالَ :

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزُّعْفَرَانِ ، فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَادْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ ، قَالَ : فَعَسَلْتَهُ ثُمَّ غَسَلْتَهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ .

(ترمذی ۲۸۱۶۔ احمد ۱۷۱/۳)

(۱۷۹۷۰) حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گذرے میں نے زعفران لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے یعلیٰ! کیا تمہاری بیوی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے دھولو، اسے دھولو اور پھر دوبارہ مت لگانا۔ میں گیا، میں نے اسے دھویا، پھر دھویا اور پھر دوبارہ کبھی نہ لگایا۔

(۱۷۹۷۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ ، عَنِ الرَّكَّابِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نِسَاءَ اللَّهِ كَرَّةَ الصُّفْرَةِ يَعْنِي الْخُلُوقَ . (ابوداؤد ۳۲۱۹۔ ابویعلیٰ ۵۰۷۳)

(۱۷۹۷۱) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے زرد رنگ کے استعمال کو مردوں کے لئے ناپسند قرار دیا ہے۔

(۱۷۹۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَعُّفِ . (مسلم ۱۶۲۳۔ ابوداؤد ۳۱۷۶)

(۱۷۹۷۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۹۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا ، فَقَالَ : خَطُّ خَطِّ ، وَرُسُ وَرُسُ . (عبدالرزاق ۱۸۰۳۸)

(۱۷۹۷۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سواد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے زرد رنگ لگایا ہوا تھا آپ نے ان سے فرمایا کہ اس میں دوسرا رنگ ملاو، اس میں دوسرا رنگ ملاو، ورس کا استعمال کرو، ورس کا استعمال کرو۔

(۱۷۹۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْرُبُ الْمَلَابِغَةَ مُتَّصِمًا بِخُلُوقِ .

(۱۷۹۷۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتے اس شخص کے پاس نہیں جاتے جس نے خلو ق نامی زرد خوشبو لگا رکھی ہو۔

(۱۷۹۷۵) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خُلُوقٍ قَالَ : فَنظَرُ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ لِعَسَلِهِ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أَعْتَبَ هَذَا .

(۱۷۹۷۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب بصرہ آئے تو قیس بن عباد کو دیکھا انہوں نے زرد بوٹی لگا رکھی تھی۔ حضرت اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو وہ گئے اور اسے دھو کر آگئے۔ حضرت اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتنی

جلدی بچھنے والا ہے!

(۱۷۹۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ دَعَى إِلَى عُرْسٍ بَلِيلٍ

فَادَّهَنَ بَدَنَهُ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَعَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَعَسَلَهَا بِصَابُونٍ.

(۱۷۹۷۶) حضرت یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ایک رات ایک شادی میں بلایا گیا، وہاں انہوں نے ایک خوشبو لگائی جس میں زردی تھی، صبح ان کی داڑھی میں زردی تھی۔ انہوں نے اسے دھویا لیکن وہ صاف نہ ہوئی، انہوں نے پھر اسے صابن سے دھویا۔

(۱۷۹۷۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ الْخِرَاسِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَمَسَحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ: انْطَلِقْ فَأَغْسِلْ عَنْكَ هَذَا، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَأَغْسِلْ عَنْكَ هَذَا، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرُبُ جِنَاةَ كَافِرٍ وَلَا جُنْبٍ وَلَا مُتَّصِمًا بِخُلُقٍ. (مسندہ ۳۳۱)

(۱۷۹۷۷) حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے کوئی ایسی چیز لگادی جس میں زردی ملی ہوئی تھی۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور مجھے خوش آمدید بھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے دھو کر آؤ۔ میں گیا میں نے اسے دھویا لیکن اس کا اثر باقی رہ گیا۔ میں آیا میں نے سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور مجھے خوش آمدید بھی نہ کہا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ اور اسے دھو کر آؤ۔ میں گیا میں نے اسے دھویا پھر میں آیا میں نے سلام کیا تو آپ ﷺ نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ فرشتے کافر کے جنازے، جنسی اور زورورنگ لگانے والے مرد کے پاس نہیں جاتے۔

(۲۶۸) مِنْ رِخْصِ فِي الْخُلُقِ لِلرِّجَالِ

جن حضرات کے نزدیک مردوں کے لئے خلوک کے استعمال کی گنجائش ہے

(۱۷۹۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضْتَمًّا بِالْخُلُقِ كَأَنَّهُ عَرُجُونَ.

(۱۷۹۷۸) حضرت نعمان بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے خلوک جیسا رنگ لگا رکھا تھا۔

(۱۷۹۷۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ بْنُ أَبِي سَأْسَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خُلُقٍ مِنْ وَصَحٍ كَانَ بِهِ.

(۱۷۹۷۹) حضرت ابان بن کثیر نیشلمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازوؤں کے درمیان کسی عذر کی وجہ سے خلوق لگا رکھی تھی۔

(۲۶۹) من قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

بچہ باپ کا ہوگا

(۱۷۹۸۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . (بخاری ۲۳۲۱ - مسلم ۱۰۸۱)

(۱۷۹۸۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ . (احمد ۲۵ - ابویعلیٰ ۱۹۹)

(۱۷۹۸۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . (مسلم ۱۰۸۱ - ترمذی ۱۱۵۷)

(۱۷۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجْرُ .

(ابوداؤد ۲۳۶۸ - احمد ۱۷۹/۲)

(۱۷۹۸۳) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا اور زانی کے لئے پتھر ہیں۔

(۱۷۹۸۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشَ ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . (ترمذی ۲۱۳۰ - ابوداؤد ۲۳۶۹)

(۱۷۹۸۴) حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعُ الْحَبَشِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .

(۱۷۹۸۵) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . (بخاری ۶۷۵۰ - احمد ۳۸۶/۲)

(۱۷۹۸۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَنَمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .

(۱۷۹۸۷) حضرت عمرو بن خارجه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۱۷۹۸۸) حَدَّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُعِيقَةَ ، عَنْ أَبِي وَإِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . (ابو یعلیٰ ۵۱۲۶ - ابن حبان ۳۱۰۳)

(۱۷۹۸۸) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

(۲۷۰) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتَزَوَّجُ امْرَأَتَهُ ؟

اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرزمین میں چلا جائے تو کیا اس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟

(۱۷۹۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

أَتَزَوَّجُ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ .

(۱۷۹۸۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی

سرزمین میں چلا جائے تو کیا اس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟ ایک نے فرمایا ہاں اور دوسرے نے فرمایا نہیں۔

(۲۷۱) مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ ، وَمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ

باکرہ عورتوں سے نکاح کی فضیلت

(۱۷۹۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ

النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَقْوَامًا وَأَصْحُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ .

(۱۷۹۹۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باکرہ عورتوں سے نکاح کو ترجیح دو کیونکہ ان کی گفتگو زیادہ شیریں ہوتی ہے، زیادہ بچے پیدا

کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہیں۔

(۱۷۹۹۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :

تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقْلُ جَبًا وَأَشَدُّ وَدًّا .

(۱۷۹۹۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باکرہ عورتوں سے شادی کرنے کو ترجیح دو، کیونکہ یہ تھوڑے پر گزارا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔

(۱۷۹۹۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَإِنَّكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلَاقًا أَفِيحَ أَرْحَامًا . (سعيد بن منصور ۵۱۳- عبد الرزاق ۱۹۳۳)

(۱۷۹۹۳) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکیوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دو کیونکہ وہ زیادہ شیریں گفتگو والی ہوتی ہیں، اچھے اخلاق والی ہوتی ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔

(۱۷۹۹۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ نَيْبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا بَلْ نَيْبًا قَالَ : فَهَلَّا جَارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ .

(ابوداؤد ۲۰۴۱- بیہقی ۳۵۱)

(۱۷۹۹۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری شادی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے باکرہ سے شادی کی یا ثیبہ سے؟ میں نے کہا ثیبہ سے، آپ نے فرمایا کہ باکرہ سے کیوں نہیں کی وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی اور تم اس کے ساتھ۔

(۱۷۹۹۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ الْعُدَيْيِّ ، عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَيْكَ امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : نَيْبًا نَكَحْتَ أَمْ بِكْرًا؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتُهَا وَهِيَ نَيْبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَا تَزَوَّجْتُهَا جَارِيَةً تَلَاعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَتَلَ أَبِي مَعَكَ يَوْمَ كَدَا وَكَذَا وَتَرَكَ جَوَارِيًا لَهُ فَكَرِهْتَ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً ، فَتَزَوَّجْتَ نَيْبًا تَفْضَعُ قَمْلَ إِحْدَاهُنَّ ، وَتَخِيضُ دِرْعَ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تَحَرَّقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّكَ نِعَمًا رَأَيْتَ . (مسلم ۵۵- احمد ۳/ ۳۵۸)

(۱۷۹۹۳) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر! کیا تمہاری بیوی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ثیبہ سے شادی کی یا باکرہ سے؟ میں نے کہا کہ ثیبہ سے شادی کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کرتے تاکہ تم اس سے دل لگی کرتے۔ میں نے کہا کہ میرے والد فلاں جنگ میں آپ کی معیت میں جام شہادت نوش کر گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک اور نوجوان کو لانا پسند نہ کیا۔ میں نے ایک ثیبہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی جوؤں بھی نکالے اور اگر ان کا کپڑا پھٹ جائے تو اسے بھی سی دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے صحیح بات سوچی۔

(۲۷۲) مَا قَالُوا فِي الْأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ

نکاح میں برابری کرنے کا بیان

(۱۷۹۹۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلَّا أَنِّي لَا أَبَالِي إِلَيَّ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُمْ أَنْكَحْتُ .

(۱۷۹۹۵) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں جاہلیت کی عادات میں سے کوئی باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں نکاح کرتے اور کراتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ کس مسلمان سے کر رہا ہوں اور کس سے نکاح کروا رہا ہوں۔

(۱۷۹۹۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ .

(۱۷۹۹۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عربی کسی باندی سے شادی کرے۔

(۱۷۹۹۷) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأَوْتِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيَسْتَعْدِيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ .

(۱۷۹۹۷) حضرت محمد بن عبد اللہ بن کثیر بن صلت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مولیٰ نے ایک عربی عورت سے شادی کی، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آل کثیر کا مولیٰ اسی کے راستے پر چل پڑا ہے۔

(۱۷۹۹۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا مَنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ .

(۱۷۹۹۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حسب والی عورتوں کو صرف ان کے برابر کے مردوں سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

(۱۷۹۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَيَّ سَلْمَانَ أَخْتَاهُ فَابِي وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بَقِيرَةٌ .

(۱۷۹۹۹) حضرت عمرو بن ابی قرہ کندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ ان کی بہن سے شادی کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی بقیہ نامی ایک مولاہ سے شادی کر لی۔

(۱۸۰۰۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَا نُؤْمَهُمْ وَلَا نُنِكَحُ نِسَاءَهُمْ .

(۱۸۰۰۰) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی امامت بھی نہیں کریں گے اور ان کی عورتوں سے شادی بھی نہیں کریں گے۔

(۱۸۰۰۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ .

(۱۸۰۰۱) حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی اور مولیٰ نسب میں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۱۸۰۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْكُفْرِ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لَا .

(۱۸۰۰۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح میں برابری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ برابری دین اور منصب میں ہوتی ہے، میں نے پوچھا مال میں ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔

(۲۷۳) فِي الْغَيْرَةِ ، وَمَا ذَكَرَ فِيهَا

غیرت کا بیان

(۱۸۰۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ شَقِيقٍ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَّنَ .

(مسلم ۳۳ - بخاری ۷۴۰۳)

(۱۸۰۰۳) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔

(۱۸۰۰۴) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمِيٍّ ، عَنِ زَائِدَةَ ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمَنْ أَجَلُ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَّنَ . (بخاری ۷۴۱۶ - مسلم ۱۷)

(۱۸۰۰۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں سعد رضی اللہ عنہ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔

(۱۸۰۰۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْعِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّبِيَّةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْعِضُ اللَّهُ

فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ. (احمد ۵/ ۳۳۵۔ دارمی ۲۲۲۶)

(۱۸۰۰۵) حضرت ابن عثیم النصارى رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غیرت کی ایک قسم ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ایک قسم ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ غیرت ہے جو شکر اور نافرمانی میں ہو اور جو غیرت اللہ کو ناپسند ہے یہ وہ غیرت ہے جو شکر و نافرمانی کے بغیر ہو۔

(۱۸۰۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَحْبَبُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إِنَّكَ لَا تَمُرِينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبَ بِكَ. (ترمذی ۱۱۷۳۔ ابن حبان ۵۵۹۸)

(۱۸۰۰۲) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو گھر میں رکھو کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تارتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو جس کے پاس سے بھی گذرتی ہے اسے متاثر کر دیتی ہے۔

(۱۸۰۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرَىٰ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.

(۱۸۰۰۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو سادہ رکھ کے ان کی مدد کرو، کیونکہ جب ان کے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں اور زینت عمدہ ہوتی ہے تو انہیں باہر نکلنا پسند ہوتا ہے۔

(۱۸۰۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظَفْرُهَا.

(۱۸۰۰۸) حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی ہر چیز پردہ ہے حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی۔

(۱۸۰۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي عُيُورٌ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عُيُورًا ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ لَا يَغَارُ إِلَّا مَنُكُوسُ الْقَلْبِ.

(۱۸۰۰۹) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت غیرت والا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیرت والے تھے اور غیرت صرف وہ شخص نہیں کرتا جو دیوث یا منحث ہو۔

(۲۷۴) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَرَأَ اللَّعَانَ الزُّرْقَ بِهِ الْوَلَدُ

جب لعان ختم کر دیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا

(۱۸۰۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَمَطْرَفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا دَرَأَ اللَّعَانَ الزُّرْقَ بِهِ الْوَلَدُ

(۱۸۰۱۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لعان ختم کر دیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا۔

(۱۸.۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ وَشَلَّةٍ .

(۱۸.۱۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸.۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانَ الْوَلَدِ

بِالْوَالِدِ .

(۱۸.۱۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لعان ختم کر دیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا۔

(۲۷۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟

اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟

(۱۸.۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ : إِذَا زَنَى

الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا .

(۱۸.۱۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی یا

اسکی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔

(۱۸.۱۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا آتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرَمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا وَإِذَا

آتَى ابْنَتَهَا حَرَمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا .

(۱۸.۱۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی اور اگر اس

کی بیٹی سے زنا کیا تو اس کی ماں حرام ہو جائے گی۔

(۱۸.۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَ :

لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا .

(۱۸.۱۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس کے لئے

حلال نہیں ہے۔

(۱۸.۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْبِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

أُمَّهَا قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا .

(۱۸.۱۶) حضرت عبد اللہ بن مسیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آدمی نے ایک باندی سے زنا کیا

تو کیا اس کی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں کر سکتا۔

(۲۷۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ

لِلابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟

ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر وہ مر گیا یا طلاق دے دی، جبکہ اس آدمی کی

پہلے سے ایک بیٹی تھی، کیا آدمی کے بیٹے کے لئے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟

(۱۸۰۱۷) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

(۱۸۰۱۷) حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر وہ مر گیا یا طلاق دے دی، جبکہ اس آدمی کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، آدمی کے بیٹے کے لئے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے۔

(۱۸۰۱۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۱۸۰۱۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۸۰۱۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۱۸۰۱۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔

(۱۸۰۲۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۱۸۰۲۰) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔



کِتَابُ الطَّلَاقِ

(۱) مَا قَالُوا فِي طَلَّاقِ السَّنَةِ مَا هُوَ، مَتَى يُطَلَّقُ؟

طلاق سنت کیا ہے؟ یہ طلاق کب دی جائے؟

(۱۸۰۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكَيْعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ قَالَ فِي غَيْرِ جَمَاعٍ .
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ قرآن مجید کی آیت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہیں اس حال میں طلاق دو کہ وہ پاک ہوں اور اس طہر میں ان سے جماع نہ کیا ہو۔

(۱۸۰۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعٍ .
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اسے اس حال میں طلاق دے کہ وہ پاک ہو اور اس طہر میں اس سے جماع نہ کیا ہو۔

(۱۸۰۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَاتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلَّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا . (ابن ماجہ ۳۰۱۷ - ابن حبان ۳۲۶۵)

(۱۸۰۲۳) حضرت حمید بن عبد الرحمن جمیریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا کہ کوئی شخص نے کہا کہ میں نے طلاق دیا ہے اور اس سے جماع نہ کیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے ناراض

ہوئے ہیں۔ حضرت ابوموسیٰؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے شادی کی! میں نے طلاق دے دی! یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ عورت کی اس کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ (کہ اس کے لئے عدت کو شمار کرنا آسان ہو)

(۱۸۰۲۴) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ قَالَ : فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .

(۱۸۰۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت کو اس کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ (کہ اس کے لئے عدت کو شمار کرنا آسان ہو)

(۱۸۰۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ، يُعْنَى عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهَّرَتْ ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجِعَهَا ، وَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا .

(۱۸۰۲۵) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر حد کا سامنا کرنا پڑے تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دینے کے بعد اور اس طہر میں طلاق دینے کے بعد جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، نادم نہ ہو، وہ انتظار کرے اور اسے عدت کے شروع میں طلاق دے، پھر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے اور اگر اسے رخصت ہی کرنا چاہے تو رخصت کر دے۔

(۱۸۰۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : طَلَّاقُ السَّنَةِ فِي قَبْلِ الْعِدَّةِ ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ .

(۱۸۰۲۶) حضرت حسنؓ اور شیبہؓ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عدت کے شروع میں طلاق دی جائے، وہ اسے اس حال میں طلاق دے کہ وہ پاک ہو اور اس سے جماع نہ کیا ہو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو اسے جب چاہے طلاق دے۔

(۱۸۰۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ .

(مسلم ۱۰۹۳۔ مالک ۵۳)

(۱۸۰۲۷) حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمرؓ نے اس بات کا تذکرہ حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ رجوع کر لیں، پھر عورت پاک ہو، پھر اسے حیض آئے، پھر جب پاک

ہو تو چاہے تو جماع سے پہلے اسے طلاق دے دے اور چاہے تو روک لے، کیونکہ عدت وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔
 (۱۸۰۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاتَى عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعٍ .

(۱۸۰۲۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ رجوع کر لیں، پھر پاک ہونے کے بعد جماع سے پہلے طلاق دے دیں۔
 (۱۸۰۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا . (مسلم ۵- ابو داؤد ۲۱۷۴)

(۱۸۰۲۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ رجوع کر لیں، پھر پاک ہونے کی حالت میں یا حاملہ ہونے کی حالت میں طلاق دے دیں۔

(۱۸۰۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا فِي طَهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدْ فِيهِ بِبِتْلَاقِ الْحَيْضَةِ .

(۱۸۰۳۰) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے طہر میں طلاق دی جس میں جماع کیا تھا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔
 (۱۸۰۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَّانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلْسَّنَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا .

(۱۸۰۳۱) حضرت شععی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حالت طہر میں طلاق دی تو کچھو کہ طلاق سنت دی خواہ اس سے جماع کیا ہو۔
 (۱۸۰۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعٍ .

(۱۸۰۳۲) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اسے حالت طہر میں بغیر جماع کے طلاق دے۔

(۱۸۰۳۳) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا .
 (۱۸۰۳۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اسے حالت طہر میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔

(۱۸۰۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ اِبْرِيْسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا كَلَّفَكَ رَجُلٌ طَلَاقَ السَّنَةِ فَنَدِمَ .

(۱۸۰۳۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت دینے والا کبھی نادیم نہیں ہوتا۔

(۱۸۰۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلَاقُ السَّنَةِ فِي قَبْلِ الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ

(۱۸۰۳۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت بغیر جماع کے طہر سے پہلے ہوتی ہے۔

(۲) مَا يَسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السَّنَةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟

طلاق کا مستحب طریقہ کیا ہے؟

(۱۸۰۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِي الْاُحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ اَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيَطْلُقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيضٍ .

(۱۸۰۳۲) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح معنی میں طلاق دینا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ صرف ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دے اور تین حیض گزرنے دے۔

(۱۸۰۲۷) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجْبِرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : طَلَاقُ السَّنَةِ أَنْ يَطْلُقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعٍ ، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَنْقِضِيَ عِدَّتَهَا .

(۱۸۰۳۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو بغیر جماع کے طہر میں طلاق دے پھر اس کی عدت گزرنے دے۔

(۱۸۰۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ اَبِي فَلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السَّنَةِ : أَنْ يَطْلُقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا .

(۱۸۰۳۸) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے دے پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ بائند ہو جائے۔

(۱۸۰۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطْلِقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيضٍ .

(۱۸۰۳۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر حد جاری ہو تو کوئی آدمی بیوی کو طلاق دینے کے بعد شرمندہ نہ ہو، وہ عورت کو ایک طلاق دے دے اور پھر اسے تین حیض آنے تک چھوڑے رکھے۔

(۱۸۰۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُهَيَّبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيضٍ .

(۱۸۰۴۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ آدمی بیوی کو ایک طلاق دے پھر تین حیض تک اسے چھوڑے رکھے۔

(۱۸۰۴۱) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ بِنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي طَلَاقِ السَّنَةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا .

(۱۸۰۴۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی بیوی کو طلاق دے اور پھر عدت گزرنے تک اسے چھوڑے رکھے۔

(۱۸۰۴۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي قُرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا بَالَ رِجَالٌ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِأَمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَهِيَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ .

(۱۸۰۴۲) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے اہل کے پاس چلی جا! اور پھر وہ اسے اس کے اہل میں طلاق دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے سختی سے منع کیا۔

(۳) مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ، كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟

حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے گی؟

(۱۸۰۴۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَضَعَ .

(۱۸۰۴۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق دے دے، پھر وضع حمل تک اسے چھوڑے رکھے۔

(۱۸۰۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتُ .

(۱۸۰۴۴) حضرت ابن ابی ذنب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے حاملہ کی طلاق کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سارا اس کا وقت ہے۔

(۱۸۰۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ .

(۱۸۰۴۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے۔

(۱۸۰۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَضَعَ. (حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ حاملہ کو ایک طلاق دے دے پھر وضع حمل تک اسے چھوڑے رکھے۔)

(۱۸۰۴۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: تَطْلُقُ الْحَامِلُ بِالْأَهْلِيَّةِ. (حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کو چاند کے اعتبار سے طلاق دی جائے گی۔)

(۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

اگر حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۰۴۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلَا تَعْتَدُ بِهَا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ. (حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔)

(۱۸۰۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِهَا. (حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِهَا. (حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِهَا. (حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِهَا. (حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَعْتَدُ بِهَا. (حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔)

(۱۸۰۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِهَا .

(۱۸۰۵۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِهَا .

(۱۸۰۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ .
(۱۸۰۵۵) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۶) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِهَا .

(۱۸۰۵۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ .

(۱۸۰۵۷) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ ، وَخَلَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ .

(۱۸۰۵۸) حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت خلّاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۰۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِهَا .

(۱۸۰۵۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۵) مَنْ كَانَ يَرَىٰ أَنْ تَعْتَدَ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا

جن حضرات کے نزدیک اس حیض کو بھی عدت میں شمار کیا جائے گا

(۱۸۰۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَانِهَا .

(۱۸۰۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حیض بھی تین حیضوں میں سے ایک ہے۔

(۱۸۰۶۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ .

(۱۸۰۶۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حیض کو بھی عدت میں شمار کیا جائے گا۔

(۶) مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ

جن حضرات کے نزدیک حالتِ حیض میں دی گئی طلاق معتبر ہے

(۱۸۰۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ :

فَمَهٌ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ .

(۱۸۰۶۲) حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آپ حالتِ حیض میں

دی گئی طلاق کا اعتبار کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں!

(۱۸۰۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ

امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ

وَاسْتَحَمْتُ ؟

(۱۸۰۶۳) حضرت یونس بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تھی۔ ان سے

کسی نے پوچھا کہ آپ نے حیض میں دی گئی طلاق کا اعتبار کیا تھا انہوں نے فرمایا اگر مجھے نادانی یا لا چاری کا سامنا تھا تو مجھے کس

چیز نے منع کیا؟

(۷) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟

اگر ہر طہر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شمار کب سے ہوگا؟

(۱۸۰۶۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ

الرَّجُلُ أَنْ يَطْلُقَهَا ثَلَاثًا لِلنِّسَةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلْقِهَا .

(۱۸۰۶۳) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق سنت دینا چاہے تو اسے ہر طہر میں ایک طلاق دے اور آخری طلاق کے بعد والے حیض سے عدت شمار کرے۔

(۱۸۰۶۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ .

(۱۸۰۶۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد ایک اور حیض کی عدت عورت پر لازم ہوگی۔

(۱۸۰۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَطْوَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعَدَّتْهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يَرَا جَعَهَا .

(۱۸۰۶۶) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ ہر حیض سے پہلے عورت کو طلاق دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے، ان کے مطابق یہ عمل عورت کی عدت کو بڑھا دیتا ہے، اس صورت میں ان کے نزدیک عدت پہلی طلاق سے شمار کی جائے گی اگر درمیان میں رجوع نہ کیا ہو۔

(۱۸۰۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يَرَا جَعَهَا .

(۱۸۰۶۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، ایک مہینے بعد پھر دوسری طلاق دے تو اس کی عدت پہلی طلاق سے ہوگی جب تک رجوع نہ کیا ہو۔

(۱۸۰۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ أَوَّلِ طَلَّاقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجِعَةً .

(۱۸۰۶۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ہر حیض پر ایک طلاق دی تو عدت پہلی طلاق سے شمار کی جائے اگر رجوع نہ کیا ہو۔

(۱۸۰۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً ، وَتَعْتَدُ حَيْضَةَ أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ . قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .

(۱۸۰۶۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حائضہ ہو اور ایک طلاق واقع ہو تو تین کے بعد ایک اور حیض عدت گزارے گی۔ حضرت وکیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عمل بھی یہی ہے۔

(۱۸۰۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُ مِنْ آخِرِ طَلَّاقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَا يُعْجِبُنَا ذَلِكَ .

(۱۸۰۷۰) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خلاس بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد سے عدت شروع کرے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں۔

(۸) مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ، إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ؟

طلاق کے بعد بیوی سے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان

(۱۸۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.

(۱۸۰۷۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کیا تو اس پر گواہ بنائے۔

(۱۸۰۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهَدَ؟ قَالَ: يُشْهَدُ إِذَا عَلِمَ.

(۱۸۰۷۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر رجوع کر لیا لیکن اسے گواہ بنانے کا علم نہیں تھا تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب معلوم ہو تب گواہ بنالے۔

(۱۸۰۷۳) حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةٍ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ؟

(۱۸۰۷۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر رجوع پر گواہ بنائے بغیر اس سے جماع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے مغیرہ! تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو کسی قوم کی عورت کے ساتھ یہ کرے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو!

(۱۸۰۷۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ النَّبَلِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهَدَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَكْفُرُهُ ذَلِكَ تَأْتِمًا، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.

(۱۸۰۷۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور طلاق پر گواہ بنائے لیکن رجوع کرے تو رجوع پر گواہ نہ بنائے اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں میں انکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

(۱۸۰۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَعُشَاهَا وَلَمْ يُشْهَدَ، قَالَ: غَشِيَانَهُ لَهَا مَرَّاجَعَةً، فَلْيُشْهَدَ.

(۱۸۰۷۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے پھر اس سے جماع کر لے اور کسی کو گواہ نہ بنائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو عورت سے جماع کرنا ہی رجوع ہے اب گواہ بنالے۔

(۱۸۰۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلِيمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ طَاوُوسٍ، قَالُوا: الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهَدَ.

(۱۸۰۷۶) حضرت ابراہیم، حضرت شعبی اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جماع رجوع ہے، اب گواہ بنالے۔

(۱۸۰۷۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ : أَمُرُوا أَنْ يُشْهَدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ .

(۱۸۰۷۷) حضرت صحاح پریشید قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ طلاق اور رجوع پر گواہ بنائیں۔

(۱۸۰۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهَدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا .

(۱۸۰۷۸) حضرت حکم پریشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے رجوع کرے لیکن اس پر گواہ نہ بنائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے رجوع پر گواہ بنانے چاہئیں۔

(۱۸۰۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ .

(۱۸۰۷۹) حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ جدائی اور رجوع گواہوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(۱۸۰۸۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَّتْ وَقَدْ عَشِيهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : عَشِيَانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ .

(۱۸۰۸۰) حضرت حکم پریشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر عدت گزرنے کے بعد اس نے قسم کھائی کہ وہ عدت میں اس سے جماع کر چکا ہے تو اس کا جماع کرنا رجوع ہے۔

(۱۸۰۸۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۸۰۸۱) حضرت ابراہیم پریشید سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۰۸۲) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهَدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهَدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهَدَ عَلَى مَا صَنَعَ .

(۱۸۰۸۲) حضرت عمران بن حصین پریشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس پر گواہ نہ بنائے اور رجوع کرے اور اس پر بھی گواہ نہ بنائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بغیر شرعی طریقے کے طلاق دی اور شرعی طریقے کے بغیر رجوع کیا اسے چاہئے کہ اس پر گواہ بنائے۔

(۹) بَابُ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ

اپنے دل میں رجوع کرنے کا حکم

(۱۸۰۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .

(۱۸۰۸۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا کہ یہ ایک طلاق بائنا ہوگی۔ یہی قناتہ رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے۔

(۱۸۰۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۰۸۴) حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں رجوع کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱۰) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتَدْخُلُ وَلَا

يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهَدُ عَلَيَّ رَجْعَتُهَا إِذَا عَلِمَ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس

گھر میں داخل ہوئی لیکن آدمی کو علم نہیں تھا تو اسے جب علم ہو تو رجوع پر گواہ بنانا ضروری ہے

(۱۸۰۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،

فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخَلَّاسٍ

قَالُوا : إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَيَّ مُرَاجَعَتُهَا .

(۱۸۰۸۵) حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق

ہے، وہ عورت اس گھر میں داخل ہوگئی لیکن مرد کو علم نہ تھا۔ اسے کئی مہینوں بعد پتہ چلا تو اس بارے میں حضرت حسن، حضرت سعید اور

حضرت خلّاس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب اسے علم ہو تو اپنے رجوع پر گواہ بنائے۔

(۱۸۰۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ،

فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْبُعْدَةِ فَعَشِيَانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .

(۱۸۰۸۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے

ایک طلاق ہے، اگر وہ داخل ہوئی اور مرد کو علم نہیں تھا، اب اگر عدت میں آدمی نے اس سے جماع کیا تھا تو جماع کرنا رجوع ہے

اور اگر نہیں کیا تھا تو عورت کو ایک طلاق بائنا ہو جائے گی۔

(۱۱) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

جن حضرات کے نزدیک ایک نشست میں تین طلاقیں دینا مکروہ ہے، لیکن یہ واقعہ ہو جائے گی

(۱۸۰۸۷) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَيْمٌ بَرٍّ ، وَحُرْمَتٌ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

(۱۸۰۸۷) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۸۰۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّ عَمَّتَكَ عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْذَمَهُ اللَّهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .

(۱۸۰۸۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ اسے رسوا کرے، اب اس کے پاس کوئی چار نہیں۔

(۱۸۰۸۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْ جَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۰۸۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی تھیں، آپ نے اسے سزا دی اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۸۰۹۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدٍ مُخْتَلِفَةٍ .

(۱۸۰۹۰) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینا چاہے تو کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مختلف نشستوں میں اسے طلاق دے۔

(۱۸۰۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو سَبَّاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ .

(۱۸۰۹۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔

(۱۸۰۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ .

(۱۸۰۹۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔

(۱۸۰۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَنْكَلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَفْعَدٍ وَاحِدٍ .

(۱۸۰۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے والے کو سزا دیتے تھے۔

(۱۲) مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ

جن حضرات کے نزدیک تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں

(۱۸۰۹۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعِدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُعَبِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۸۰۹۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں اور انہیں اس پر کسی قسم کی مذمت کا سامنا نہ ہوا۔

(۱۸۰۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۱۸۰۹۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۸۰۹۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا .

(۱۸۰۹۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔

(۱۳) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِئَةً ، أَوْ الْفَا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک جملے میں سو یا ہزار طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۰۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سَعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ : قَالُوا : قَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُقْفُوا عَلَيْكَ ، بَأَنْتَ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَانِوَهْنَ عُدْوَانٌ .

(۱۸۰۹۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے مرتبہ طلاق دے دی ہے! انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے لوگوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تجھ پر رحم کریں، وہ تین طلاقوں کے بعد ہی بائس ہوگئی تھی، باقی طلاقیں گناہ ہیں۔

(۱۸۰۹۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حَرَمْتُهَا ثَلَاثًا ، وَسَعَةً وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ .

(۱۸۰۹۸) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ

عورت تین طلاقوں سے حرام ہو جائے گی اور ستانوے طلاقیں گناہ ہیں۔

(۱۸۰۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : ابْنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِنْهُ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَايَرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ .

(۱۸۰۹۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے باندہ ہوگئی تھی باقی معصیت ہیں۔

(۱۸۱۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ ، أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْفَأْ ، فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ الْعَبُّ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالذَّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۱۰۰) حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بہت زیادہ لمبی مزاج کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں، اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو مزاج کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر کوڑا مارا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۸۱۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : ابْنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْفَأْ ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَافْسِمُ سَايَرُهُنَّ بَيْنَ لِسَانِكَ .

(۱۸۱۰۱) حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے ہی باندہ ہوگئی تھی اور باقی طلاقیں اپنی دوسری بیویوں کے درمیان تقسیم کر دے۔

(۱۸۱۰۲) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْهُ مَرَّةً ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَسِينُ مِنِّي بِثَلَاثٍ ، هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَعَلَيْكَ وَزُرُّ سَبْعَةَ وَتَسْعِينَ .

(۱۸۱۰۲) حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابن عباس! میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں، میں نے یہ ایک ہی جملے میں دی ہیں، کیا وہ تین طلاقوں کے ذریعے مجھ سے باندہ ہوگئی جبکہ وہ ایک ہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے ذریعے تجھ سے باندہ ہوگئی اور تجھ پر ستانوے طلاقوں کا گناہ ہے۔

(۱۸۱۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : ابْنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْفَأْ ، أَوْ مِنْهُ ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَايَرُهُنَّ وَزُرُّ ، اتَّخَذَتْ آيَاتِ اللَّهِ هُزْرًا .

(۱۸۱۰۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار یا سو طلاقیں دے دی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائند ہوگئی ہے اور باقی گناہ ہیں، تو نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا۔

(۱۸۱۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ معاويةَ بْنِ أَبِي نَحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحْرَمُنَهَا عَلَيْكَ ، وَسَبْعَةٌ وَتَسْعُونَ عُدْوَانَ .

(۱۸۱۰۳) حضرت معاویہ بن ابی نجیح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے تجھ پر حرام ہوگئی اور باقی ستانوے گناہ ہیں!

(۱۸۱۰۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سِئِلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحْرَمُنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتَسْعُونَ فَضْلٌ .

(۱۸۱۰۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے وہ حرام ہو جائے گی اور ستانوے زائد ہیں۔

(۱۸۱۰۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً مَرَّةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتَسْعُونَ يُحَابِسُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۱۸۱۰۶) حضرت سعید مقبری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائند ہوگئی ہے اور ستانوے طلاقوں کا قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہوگا۔

(۱۸۱۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ : إِنِّي طَلَقْتُهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَاوَرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ .

(۱۸۱۰۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائند ہوگئی اور باقی اسراف اور معصیت ہیں۔

(۱۸۱۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفُضْلِ بْنِ دَلْهِيمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ الْعُجُوزُ .

(۱۸۱۰۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں تو انہوں نے فرمایا کہ بڑھیا تجھ سے جدا ہوگئی۔

(۱۸۱۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : ابْنِي طَلَّقَ امْرَأَتِي الْفَأُ؟ قَالَ : الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَأَقْسَمُ سَائِرُهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ .

(۱۸۱۰۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقوں نے اسے تجھ پر حرام کر دیا اور باقی کو اپنی دوسری بیویوں میں تقسیم کر دے۔

(۱۴) مَنْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ

جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”تجھے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق“ تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ ، فَطَلَّقْتَهَا عَدَدَ النُّجُومِ ، قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلَاقِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ بَيَّنَّ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهُ لَا تَلْبَسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَتَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ .

(۱۸۱۱۰) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کچھ بات چیت بڑھ گئی اور میں نے اسے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے طلاق کا لفظ کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، جو اس سے استفادہ کرے تو اس کے لئے وضاحت ہو جاتی ہے اور جو اسے اپنے لئے مشکل بنا لے، ہم اس کے لئے مشکل بنا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم! اپنے نفوس کو ایسی مشکل میں نہ ڈالو جسے تمہاری طرف سے ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ معاملہ وہی ہے جو تم کہتے ہو، معاملہ وہی ہے جو تم کہتے ہو۔

(۱۸۱۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا .

(۱۸۱۱۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ساری دنیا کی عورت کا مالک بننے کے بعد انہیں کہا کہ تمہیں ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق ہے تو سب حرام ہو جائیں گی۔

(۱۸۱۱۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ؟ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ .

(۱۸۱۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے جوزاء ستارے کا سراہی کافی ہے۔

(۱۵) الرَّجُلُ يَقُولُ يَوْمَ أَنْزَوْجٍ فَلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا

اگر ایک آدمی نے کہا کہ ”جس دن میں فلائی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق“ جن حضرات

کے نزدیک اس جملہ کی کوئی حیثیت نہیں

(۱۸۱۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِّيُّ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . (ترمذی ۱۱۸۱ - احمد ۲ / ۲۰۷)

(۱۸۱۱۳) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

(۱۸۱۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ ، عَنْ سَمِعِ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَقَ قَبْلَ مِلْكٍ . (عبد الرزاق ۱۱۳۵۵)

(۱۸۱۱۴) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق نکاح کے بعد اور آزادی ملکیت کے

بعد ہوتی ہے۔

(۱۸۱۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا طَلَّاقَ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ . (ابوداؤد ۲۸۶۵ - عبد الرزاق ۱۱۳۵۵)

(۱۸۱۱۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

(۱۸۱۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ،

وَلَا عَتَقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

(۱۸۱۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے اور آزادی ملکیت کے بعد ہوتی ہے۔

(۱۸۱۱۷) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا

بَعْدَ نِكَاحٍ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ . (حاکم ۴۱۹)

(۱۸۱۱۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوگا تبھی طلاق ہوگی۔

(۱۸۱۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا

أَبَالِي تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ .

(۱۸۱۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں عورت سے شادی کروں یا اپنا ہاتھ اس

ستون پر رکھوں، یعنی یہ حلال ہے۔

(۱۸۱۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ؛ قَالَ : لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ . (بیہقی ۳۱۹)

(۱۸۱۱۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۱۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

(۱۸۱۲۰) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے طلاق اور ملکیت سے پہلے آزادی نہیں ہوتی۔

(۱۸۱۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۱۲۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جس دن میں فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۱۲۲) حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تَذَكَّرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَّاقًا .

(۱۸۱۲۲) حضرت خلف بن خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے منصور رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر آدمی کسی عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ جس دن میں اس سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اسے کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۸۱۲۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَتِيمَةَ يَقُولُ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ .

(۱۸۱۲۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے کہ آدمی یہ کہے کہ جس دن فلاں عورت سے میری شادی ہو اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۱۲۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۱۲۳) حضرت عطاء اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۱۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ .

(۱۸۱۲۵) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس دن فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں، طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

(۱۸۱۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۶) حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۱۲۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۷) حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

(۱۸۱۲۸) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قِيلَ لَهُ: ذَكَرْنَا لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ، أَمْرًا سَمَوَهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ:

هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَرَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدًا؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ يَحْيَى: وَبَلَّغَنِي أَنَّ

عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

(۱۸۱۲۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک انصاری سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم فلاں عورت کو

پیام نکاح بھجوا رہے ہو؟ ان انصاری نے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ

میرے خیال میں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہما بھی اسی بات کے قائل تھے۔

(۱۸۱۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ؛ قَالَ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

(۱۶) فِي رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَنْزَوْتُ فُلَانَةَ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

اگر ایک آدمی نے کہا کہ ”میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے تین

طلاقیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُوسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ

الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۳۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، میں نے اس بارے میں قاسم بن عبد الرحمن سے سوال

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں۔

(۱۸۱۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،

وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَيَمِي طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيْكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟

(۱۸۱۳۱) حضرت حسن بن روح رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب، حضرت مجاہد اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس بات کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے مثال سے بات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ کیا سیلاب بارش سے پہلے آسکتا ہے۔

(۱۸۱۳۲) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ ، فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ . (سعید بن منصور ۱۰۲۸)

(۱۸۱۳۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو۔

(۱۸۱۳۳) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . (حضرت محمد بن کعب اور حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔)

(۱۷) مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتْ

جن حضرات کے نزدیک ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر طلاق کو کسی وقت کے ساتھ

جوڑ دیا جائے تو اس وقت طلاق ہو جاتی ہے

(۱۸۱۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ يَرُونَهُ جَانِزًا عَلَيْهِ .

(۱۸۱۳۴) حضرت قاسم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اس طلاق کو جائز سمجھتے تھے۔

(۱۸۱۳۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكْفَتْ عَنْهَا .

(۱۸۱۳۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت سے دور رہے۔

(۱۸۱۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَقَّتْ وَقَعَ .

(۱۸۱۳۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب طلاق کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْزَوْتُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَنْزَوُجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ .

(۱۸۱۳۷) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے ہوئے جس عورت سے بھی شادی کروں اسے طلاق ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بیوی کے ہوتے ہوئے جس عورت سے بھی شادی کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۱۳۸) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ كُلَّ امْرَأَةٍ يَنْزَوُجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرْتِيَةٍ يَتَسَرَّى فِيهَا حُرَّةٌ ، جَازًا عَلَيْهِ .

(۱۸۱۳۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ آدمی نے اس عورت کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کی تو اسے طلاق اور اگر کوئی باندی اس کے پاس آئی تو وہ آزاد تو یہ شرط درست ہوگی۔

(۱۸۱۳۹) حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .

(۱۸۱۳۹) حضرت حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح واقع ہوگا تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۴۰) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْزَوْتُ عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هَذَا وَقْتُ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ .

(۱۸۱۴۰) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے اگر میں نے کسی عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہے تو جب بھی یہ کسی سے نکاح کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۱۴۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَظَلَةَ قَالَ : سِئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَنْزَوْتُ فَلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ .

(۱۸۱۴۱) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جس دن فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو اس نے کہا ہے اسی طرح ہوگا۔

(۱۸۱۴۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَنْزَوْتُ فَلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سِئِلَ عَمْرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَنْزَوْتُ فَلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمِّي ؟ قَالَ : لَا يَنْزَوُجُهَا حَتَّى يَكْفُرَ .

(۱۸۱۴۲) حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ جس دن میں فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اس سے شادی

کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں یہ کہے کہ جس دن میں فلاں عورت سے شادی کروں اس دن وہ میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کفارہ دینے سے پہلے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔

(۱۸۱۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ وَقَّتْ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : أَعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا .

(۱۸۱۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو کہا کہ اگر وہ اس سے شادی کریں تو اسے طلاق ہے پھر اس بارے میں انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے پہلے طلاق کا بتا دو پھر اس سے شادی کرو۔ (۱۸۱۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقُ الْبَيْتَةِ ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجَهَا .

(۱۸۱۴۳) حضرت عمر بن حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت قاسم، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور حضرت ابو بکر بن عمرو رضی اللہ عنہم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان سب نے فرمایا کہ وہ اس سے شادی نہ کرے۔

(۱۸۱۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِيَ النُّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ .

(۱۸۱۴۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اس سے شادی کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۱۴۶) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ اتَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إِنْ عَاكِرِمَةَ بَزَعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرِيْمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

(۱۸۱۴۶) حضرت سوید بن نجیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جریمہ ابن عباس کے مولیٰ ہیں۔

(۱۸) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَا يُوقَّتُ وَقْتًا

اگر کسی آدمی نے کہا کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق اور کوئی وقت مقرر نہ کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۴۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَنْزَوِّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْجِحْ وَلَمْ أَسْرَ .

(۱۸۱۴۷) حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں اگر کسی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے اور اگر کوئی باندی خریدوں تو وہ آزاد ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو نہ شادی کرتا اور نہ کوئی باندی خریدتا۔

(۱۸۱۴۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۱۴۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۱۴۹) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۸۱۴۹) حضرت زہری رضی اللہ عنہ اور حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں منقول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جس عورت سے میں شادی کروں تو اسے طلاق ہے وہ اس بات کو لازم قرار دیتے تھے۔

(۱۸۱۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ تَطْلُقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ .

(۱۸۱۵۰) حضرت عبدالملک بن سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کے تم مالک نہیں اسے طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

(۱۹) فِي الرَّجُلِ يَنْزَوِّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَطْلُقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

فَلَا تَأْتِيَنَّهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۱) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۵۲) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باکرہ کو ایک طلاق دی تو وہ بائٹہ ہو جائے گی اور اگر وہ اسے دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَكْرًا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ثَلَاثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةً ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٍ وَكُنْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تَبِيْنُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باکرہ بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ باکرہ کو تین کا کیا مطلب، اس کے لئے تو ایک ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، تم قاضی ہو مفتی نہیں، ایک طلاق اسے بائٹہ بنا دے گی اور تین طلاقیں اسے حرام کر دیں گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرے۔

(۱۸۱۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۴) حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۵) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سَأَلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَّأَهَا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۶) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دیدے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک دوسرا خاوند اس سے شادی کر کے ملاقات نہ کر لے یہ پہلے کے لئے حلال نہیں۔

(۱۸۱۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زُرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا .

(۱۸۱۵۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس عورت کے درجہ میں ہے جس سے دخول کیا ہو۔

(۱۸۱۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ بِمِثْلِهِ .

(۱۸۱۵۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۱۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبَاسِ بْنِ بَكَّيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۵۹) حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۰) حضرت معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَلِّقْ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهِيَ كَذَلِكَ .

(۱۸۱۶۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد دخول سے پہلے عورت کو تین طلاقیں دے دے تو اگر اس نے ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کر لے اور اگر الگ الگ دی ہیں تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۸۱۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۴) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۵) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيبِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۷) حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ .

(۱۸۱۶۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۱۶۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۱۶۹) حضرت عبیدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۲۰) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتُ بِالْأُولَى وَالْآخِرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

(۱۸۱۷۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہی باندہ ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس بات کا قائل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ۔

(۱۸۱۷۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لَامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتُ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ الْاِثْنَانِ .

(۱۸۱۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہی باندہ ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔

(۱۸۱۷۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتُ بِالْأُولَى ، وَالْآخِرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۱۷۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہی باندہ ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔

(۱۸۱۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جِلَّاسٍ ، قَالَ : بَانَتُ بِالْأُولَى .

(۱۸۱۷۳) حضرت خلاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہی باندہ ہو جائے گی۔

(۱۸۱۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَادٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَرِئْتَانِ لَيْسَتْ بِشَىْءٍ .
 (۱۸۱۷۳) حضرت حکم بن بَشِیْمٍ اور حضرت حماد بن بَشِیْمٍ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہی باندھ ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔
 (۱۸۱۷۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .
 (۱۸۱۷۵) حضرت شعیب بن بَشِیْمٍ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۸۱۷۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بِالْأُولَى .
 (۱۸۱۷۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے، اگر اس نے یہ تین طلاقیں الگ الگ دے دیں تو وہ پہلی طلاق سے ہی باندھ ہو جائے گی۔

(۲۱) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

اگر آدمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی

(۱۸۱۷۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
 (۱۸۱۷۷) حضرت طاووس بن بَشِیْمٍ اور حضرت عطاء بن بَشِیْمٍ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۱۸۱۷۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ : إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسِنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ إِمَارَةً عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ ، فَأَجَارَهُنَّ عَلَيْهِ . (مسلم ۱۰۹۹ - ابو داؤد ۲۱۹۳)

(۱۸۱۷۸) حضرت طاووس بن بَشِیْمٍ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوصہبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا

تھوڑا سا وقت دو: تین طلاقیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے طلاق دینے کو معمول ہی بنا لیا ہے تو انہوں نے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا۔

(۱۸۱۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۱۷۹) حضرت طاوس، حضرت عطاء اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔

(۲۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ؟

فَيَقُولُ نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخِرُ، فَيَقُولُ طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ

اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر اسے ایک آدمی ملے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھر ایک اور آدمی ملے وہ

بھی یہی سوال کرے تو آدمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعِينَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَلَقِيَهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهِ آخِرُ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۱۸۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر اسے ایک آدمی ملے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھر ایک اور آدمی ملے وہ بھی یہی سوال کرے تو آدمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو اگر ان کو جواب دینے میں اس نے پہلی طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق ایک ہی رہے گی۔

(۱۸۱۸۱) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخِرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ.

(۱۸۱۸۱) حضرت ابن معقل رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر اسے ایک آدمی ملے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھر ایک اور آدمی ملے وہ بھی یہی سوال کرے تو آدمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو اگر ان کو جواب دینے میں اس نے پہلی طلاق کی نیت کی تھی اور طلاق ایک

ہی رہے گی۔

(۱۸۱۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فُلُوقَى ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى .

(۱۸۱۸۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، راستے میں اسے ایک آدمی ملا اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ایک اور آدمی ملا اس نے بھی یہی سوال کیا تو اس نے پھر ہاں کہا۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۱۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَقِيَهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۱۸۱۸۳) حضرت عبد ربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، راستے میں اسے ایک آدمی ملا اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ایک اور آدمی ملا اس نے بھی یہی سوال کیا تو اس نے پھر ہاں کہا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دونوں مرتبہ ہاں کہنے میں پہلی طلاق کی نیت تھی تو کچھ لازم نہیں۔

(۱۸۱۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقُ الْبَيْتَةِ ، فَقَالَ حَمَادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَهَا فَلَا بَأْسَ .

(۱۸۱۸۴) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اگر شخص اسے سمجھانے کے لئے دوبارہ کہا تو ایک ہی طلاق ہوگی۔

(۱۸۱۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ؟ قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدَى ، فَمِثْلُ ذَلِكَ .

(۱۸۱۸۵) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر اس نے ایک کی نیت کی ہو تو ایک ہوگی، اور اگر بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر تو بھی یہی حکم ہے۔

(۱۸۱۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعِمْرَانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ، ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : بَأْسٌ مِنْهُ .

(۱۸۱۸۶) حضرت عقبہ بن ابی عزیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں۔ پھر اس سے کسی آدمی نے سوال کیا تو کیا تو اپنی بیوی کو اتنی اتنی یعنی تین یا چار طلاقیں دے دیں اور آدمی نے جواب میں کہا ہاں تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عورت بائند ہو جائے گی۔

(۲۳) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ اِلَى سَنَةٍ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا؟

اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق کب واقع ہوگی؟

(۱۸۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : اَنْتِ طَالِقٌ اِلَى سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ .

(۱۸۱۸۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۸۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ اَنَّهُ كَانَ لَا يُوجَلُّ فِي الطَّلَاقِ .

(۱۸۱۸۸) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو مومجل نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۸۱۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ اَنَّهُ كَانَ لَا يُوجَلُّ فِي الطَّلَاقِ .

(۱۸۱۸۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو مومجل نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۸۱۹۰) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : اِذَا طَلَّقَ اِلَى اَجَلٍ وَقَع .

(۱۸۱۹۰) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص مدت کے لئے طلاق دی تو اسی وقت واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۹۱) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُ يَوْمَ قَالَ .

(۱۸۱۹۱) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت طلاق دی اسی وقت سے عدت شروع ہو جائے گی۔

(۲۴) مَنْ قَالَ لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الْاَجَلُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی

(۱۸۱۹۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مِغْوِرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ وَقَّتْ فِي الطَّلَاقِ وَقْنَا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ .

(۱۸۱۹۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی۔

(۱۸۱۹۳) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَتَّى يَجِيءَ الْاَجَلُ .

(۱۸۱۹۳) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی۔

(۱۸۱۹۴) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِلَىٰ أَجَلِهِ .

(۱۸۱۹۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی۔

(۱۸۱۹۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا أَهْلَلْتُ شَهْرًا كَذَا وَكَذَا ، فَأَمْرَأَتِي طَالِقٌ إِلَيَّ رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ : أَرَىٰ أَنَّهُمَا طَالِقٌ إِلَىٰ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَىٰ ، وَتَحِلُّ لَهُ لَهَا دُونَ ذَلِكَ .

(۱۸۱۹۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب فلاں مہینہ آئے تو میری بیوی کو طلاق تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مقررہ مدت آئے گی بھی طلاق واقع ہوگی اس وقت تک عورت حلال ہے۔

(۱۸۱۹۶) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُكَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَىٰ الْخَوْلِ .

(۱۸۱۹۶) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک سال بعد آزاد ہے۔

(۲۵) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ اَعْتَدِي ، مَا يَكُونُ ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۸۱۹۷) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اَعْتَدِي ، قَالَ : هِيَ تَطْلِقُكَ إِذَا عَسَى الطَّلَاقُ .

(۱۸۱۹۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۹۸) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِقُكَ .

(۱۸۱۹۸) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۱۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اَعْتَدِي وَاحِدَةً .

(۱۸۱۹۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۲۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۸۲۰۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک

طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۲۰۱) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الْأُولَى ؟ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ اعْتَدَى ، اعْتَدَى .

(۱۸۲۰۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے اور ایک ہی طلاق کی نیت کی تو کیا حکم ہے؟ ان دونوں نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر یہ کہا کہ عدت شمار کر، عدت شمار کر، تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۸۲۰۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : اعْتَدَى ، اعْتَدَى ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۲۰۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، عدت شمار کر اور ایک کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۱۸۲۰۳) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اعْتَدَى ، اعْتَدَى ، يَنْوِي ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۲۰۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شمار کر، عدت شمار کر اور تین کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۲۶) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ اعْتَدَى ثَلَاثًا ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ ”عدت شمار کر“ تو کیا حکم ہے

(۱۸۲۰۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : اعْتَدَى ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۲۰۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ ”عدت شمار کر“ تو وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

(۱۸۲۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۲۰۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۷) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْتَدِي ، وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَعْتَدِي

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شمار کر، تجھے طلاق ہے عدت

شمار کر، تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۰۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْتَدِي ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَأَعْتَدِي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ .

(۱۸۲۰۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شمار کر، تجھے طلاق ہے عدت شمار کر، تو دو طلاقیں واقع ہوں گی۔

(۲۸) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ

مجنون کی طلاق کا حکم

(۱۸۲۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ .

(۱۸۲۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

(۱۸۲۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ .

(۱۸۲۰۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

(۱۸۲۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسُكْرَانَ طَلَاقٌ .

(۱۸۲۰۹) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجنون اور نشہ میں مبتلا کی طلاق درست نہیں۔

(۱۸۲۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِرُ يَمِينُهُ .

(۱۸۲۱۰) حضرت ہارون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے مجنون کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ سلطان اس میں غور فکر کرے گا اور گواہی طلب کرے گا کہ اس نے طلاق دی ہے اور قسم کا انتظار کرے گا۔

(۱۸۲۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ .

(۱۸۲۱۱) حضرت عمر و رضیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضیہ سے مجنون کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی درست نہیں۔

(۱۸۲۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۸۲۱۳) حضرت زہری رضیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں، جب وہ صحیح ہو جائے تو اس کی طلاق درست ہے۔

(۲۹) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُعْتَوَةِ

ناقص العقل (معتوہ) کی طلاق کا حکم

(۱۸۲۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمُعْتَوَةِ .

(۱۸۲۱۵) حضرت علی رضیہ فرماتے ہیں کہ ناقص العقل کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ .

(۱۸۲۱۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۲۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمُعْتَوَةِ .

(۱۸۲۱۹) حضرت علی رضیہ فرماتے ہیں کہ ناقص العقل کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَفِيفِيُّ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مُعْتَوٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَمْرٍو أَنْ تَعْتَدَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مُعْتَوٌ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ اللَّهَ اسْتَنْسَى لِمُعْتَوٍ طَلَاقًا ، وَلَا غَيْرَهُ .

(۱۸۲۲۱) حضرت نافع رضیہ فرماتے ہیں کہ مجبر بن عبدالرحمن رضیہ نے اپنی بیوی کو ناقص العقل ہو جانے کی حالت میں طلاق دی تو حضرت ابن عمر رضیہ نے ان کی بیوی کو عدت گزارنے کا حکم دیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تو ناقص العقل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضیہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل یا کسی اور کی طلاق کو مستثنیٰ قرار دیا ہو۔

(۱۸۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُعْتَوٍ ، وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ .

(۱۸۲۲۳) حضرت شعبی رضیہ فرماتے ہیں کہ ناقص العقل اور بچے کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْمُعْتَوَةُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، جَازَ .

(۱۸۲۲۵) حضرت ابراہیم رضیہ فرماتے ہیں کہ جب ناقص العقل شخص نے افاقہ کی حالت میں طلاق دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۲۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : طَلَقَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
(۱۸۲۱۹) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱۸۲۲۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ .
(۱۸۲۲۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ .
(۱۸۲۲۱) حضرت صحاح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱۸۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ .
(۱۸۲۲۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱۸۲۲۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمُعْتَوَةِ .
(۱۸۲۲۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کے علاوہ ہر ایک کی طلاق جائز ہے۔

(۱۸۲۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُعْتَوَةٍ طَلَاقٌ .
(۱۸۲۲۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

(۳۰) مَا قَالُوا فِي الذِّي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلَّقُ

جس شخص کو موتہ (بے ہوشی اور جنون کا دورہ) ہو اس کی طلاق کا حکم کیا ہے؟

(۱۸۲۲۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ فِي الذِّي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَحَدِهَا إِيَّاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .
(۱۸۲۲۵) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو موتہ (بے ہوشی اور جنون کا دورہ) ہو اس کی طلاق کوئی چیز نہیں

جب اسے افاقہ ہو تو اس کی طلاق جائز ہے۔

(۱۸۲۲۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ .
(۱۸۲۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۲۲۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الذِّي تُصِيبُهُ الْخَطَرَةُ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلَّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ : لَا يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لِرَمَّةٍ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ .
(۱۸۲۲۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر پاگل پن کا دورہ ہو اور وہ طلاق دے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ حضرت

(۱۸۲۲۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر پاگل پن کا دورہ ہو اور وہ طلاق دے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ حضرت

قادر ہو پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے خرید و فروخت کی تو اس کا اعتبار ہوگا لیکن اگر حالت جنون میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔
(۱۸۲۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ لَمَّا مَضَى الْمَضَابِ الَّذِي يُصَيِّبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعِاقَبُهُ جَائِزٌ .
(۱۸۲۲۸) حضرت شعس بن شیبہ اس شخص کے بارے میں جسے جنون وغیرہ کا دورہ پڑا ہو فرماتے ہیں کہ اس کا طلاق دینا اور آزاد کرنا درست ہے۔

(۱۸۲۲۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجْزُ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .
(۱۸۲۲۹) حضرت قتادہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ جنون کی دو قسمیں ہیں، اگر جنون سے افاقہ نہ ہوتا ہو تو طلاق جائز نہیں اور اگر افاقہ ہو جاتا ہے تو افاقہ کی حالت کی طلاق درست ہے۔

(۳۱) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِرِوَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ

کیا مجنون اور معتوہ کا ولی ان کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟

(۱۸۲۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو : إِذَا عَبَتِ الْمَجْنُونُ بِأَمْرَائِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَرِوَيْهِ .
(۱۸۲۳۰) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن شیبہ کی کتاب میں تھا کہ جب مجنون اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہو تو اس کا ولی عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔

(۱۸۲۳۱) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَرِوَيْهِ الْمَوْسُوسِ ، وَلَيْسَتْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ .

(۱۸۲۳۱) حضرت عطاء بن شیبہ فرماتے ہیں کہ مجنون کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے لیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔

(۱۸۲۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى رِوَيْهِ .

(۱۸۲۳۲) حضرت سعید بن مسیب بن شیبہ فرماتے ہیں کہ مغلوب العقل اور معتوہ کی طلاق درست نہیں، اس کی طرف سے اس کا ولی طلاق دے گا۔

(۱۸۲۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا مَجْنُونًا ، لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَرِوَيْهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : لَا ، إِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلَاهَا اللَّهُ بِالْبَلَاءِ ، فَلْتَنْصِرْ .

(۱۸۲۳۳) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ایسے مجنون کی بیوی جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو کیا اس کی طرف سے ولی عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا، اس عورت کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اسے چاہئے کہ صبر کرے۔

(۱۸۲۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاُقٌ وَوَلِيِّهِ .
(۱۸۲۳۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجنون وغیرہ کے ولی کی طلاق درست نہیں۔

(۲۲) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يَخَافُ أَنْ يَقْتَلَ امْرَأَتَهُ

ایسے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ اپنی بیوی کو مار ڈالے گا؟
(۱۸۲۳۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتَلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنْ أَجْلَهُ سَنَةً يَتَدَاوَى .
(۱۸۲۳۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ ایسے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ اپنی بیوی کو مار ڈالے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک سال تک علاج معالجہ کی مہلت دو۔

(۲۲) مَا قَالُوا فِي طَلَاُقِ الصَّبِيِّ

بچے کی طلاق کا حکم

(۱۸۲۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاُقُ الصَّبِيِّ .
(۱۸۲۳۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بچے کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۳۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاُقُ الصَّبِيِّ .
(۱۸۲۳۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَطَلَاُقُهُ جَائِزٌ . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ طَلَاُقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ .

(۱۸۲۳۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو نماز اور روزے کی تمیز ہو جائے تو اس کی طلاق درست ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۳۹) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَزَّ طَلَاُقُكَ .

(۱۸۲۳۹) حضرت اسماعیل بن عمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نابالغ بچہ تھا، میں نے طلاق دے دی اور اس بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے نماز یاد کر لی ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں تو تمہاری طلاق جائز ہے۔

(۱۸۲۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ بُيِّنٌ أَنْ يَجْتَمِعَا .

(۱۸۲۴۰) حضرت علی بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی بچہ تین طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اسے اس بات کی سمجھ نہ ہوئی کہ تین طلاقوں سے جدائی ہو جاتی ہے تو میں اسے کچھ نہ سمجھتا۔

(۱۸۲۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا الصَّبِيَانَ النِّكَاحَ .

(۱۸۲۴۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کو پوشیدہ رکھو۔

(۱۸۲۴۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

(۱۸۲۴۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۲۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اُكْتُمُوا الصَّبِيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمُبْرَسِمِ وَالْمَعْتَوِ .

(۱۸۲۴۳) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کو پوشیدہ رکھو۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر طلاق جائز ہے سوائے معتوہ اور ایسے شخص کی طلاق جسے برسم ہو یعنی ایسی بیماری میں جس میں انسان الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔

(۱۸۲۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِنْتُ الصَّبِيِّ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ .

(۱۸۲۴۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی آزادی اور نکاح اور کسی دوسری چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۱۸۲۴۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النَّسَاءُ كَثِيرٌ .

(۱۸۲۴۵) حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں۔

(۱۸۲۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ .

(۱۸۲۴۶) حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں۔

نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں اور عورتیں بہت ہیں۔

(۱۸۲۴۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكْتُمُونَ لَهُمُ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَبْعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ . قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا .

(۱۸۲۴۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے اور نکاح کو ان سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ کہیں ان کی زبان پر طلاق جاری نہ ہو جائے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ ان کی زبان پر آ بھی جاتا تو اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۸۲۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۲۴۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۱۸۲۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ .

(۱۸۲۴۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے بچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ درست نہیں۔

(۳۴) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُبْرَسَمِ ، وَالَّذِي يَهْدِي

برسم نامی بیماری کے شکار اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کی طلاق کا حکم

(۱۸۲۵۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرِ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنَّا فِي عَزَاةٍ ، فَبَرَسَمَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : مَا أَعْلَمَنِي ، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيلًا ، وَلَا كَثِيرًا ، وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَتَيْتُهُ .

(۱۸۲۵۰) حضرت یونس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شامی شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، کہ ہمارے ایک ساتھی کو الٹی سیدھی باتیں کرنے والی بیماری ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ جب اسے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ یہ بات کی تھی، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی تھوڑی یا زیادہ بات کی ہو اور میں نہیں جانتا۔ ہم میں سے ایک سوار کسی ضرورت کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب اس نے ضرورت پوری کر لی تو اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(۱۸۲۵۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ .

(۱۸۲۵۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۲۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : طَلَّاقُ الْمُبْرَسِمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْدِي ، وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۲۵۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برسم نامی بیماری کے شکار جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، اور بخارزدہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو ان دونوں کی طلاق اور مجنون کا نکاح معتبر نہیں۔

(۱۸۲۵۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصُّحَّاحِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَّاقُ الْمُبْرَسِمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ .

(۱۸۲۵۳) حضرت صحاح رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ برسم کا شکار اور مغلوب العقول کی طلاق ان کے مرض میں درست نہیں۔

(۱۸۲۵۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلَّاقِ الْمُبْرَسِمِ الَّذِي يَهْدِي وَلَا يَعْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لَا طَلَّاقَ لَهُ ، وَلَا عِتَاقَ لَهُ مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ .

(۱۸۲۵۴) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برسم کے شکار شخص جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو اور اسے اپنی باتوں کی سمجھ نہ ہو تو اس کی طلاق اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں۔

(۱۸۲۵۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ (ح) وَعَنْ شَرِيكِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَّاقُ الْمُبْرَسِمِ .

(۱۸۲۵۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برسم کا شکار شخص کی طلاق معتبر نہیں۔

(۱۸۲۵۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَّاقُ الْمُبْرَسِمِ ، أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَسْوَى .

(۱۸۲۵۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برسم کا شکار شخص کی طلاق معتبر نہیں، نیز وہ شخص جس پر نشے کے علاوہ کوئی آفت آئے اور اس کی عقل کو خراب کر دے۔

(۱۸۲۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَّاقِ الْمُبْرَسِمِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ دُونَ كَانُ يَعْقِلُ فَطَلَّاقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانُ لَا يَعْقِلُ فَطَلَّاقُهُ لَا يَجُوزُ .

(۱۸۲۵۷) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان سے برسم کے شکار شخص کی طلاق کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ اس میں گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اگر تو اسے سمجھ ہے تو اس کی طلاق جائز ہے اور اگر اسے سمجھ نہیں تو اس کی طلاق جائز نہیں ہے۔

(۲۵) مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكَرَانِ

نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کا حکم

(۱۸۲۵۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَلَاقُ السَّكَرَانِ جَائِزٌ .

(۱۸۲۵۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۵۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ .

(۱۸۲۵۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكَرَانِ .

(۱۸۲۶۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

(۱۸۲۶۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ .

(۱۸۲۶۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے لیکن اسے کوڑے پڑیں گے۔

(۱۸۲۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۶۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : طَلَاقُ السَّكَرَانِ جَائِزٌ .

(۱۸۲۶۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنبَسَةَ ؛ أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ

طَلَاقَ السَّكَرَانِ وَجَلَدَهُ .

(۱۸۲۶۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کو درست قرار دیا اور اسے کوڑے لگوائے۔

(۱۸۲۶۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرَمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارِي لِي سَكَرَانَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ

أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أَصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ ، فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضَرْبَ لَمَانِينَ .

(۱۸۲۶۵) حضرت عبدالرحمن بن حرملة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی،

پھر مجھے کہا کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کروں۔ ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی

کرا دی جائے اور آدمی کو اسی کوڑے پڑیں گے۔

(۱۸۲۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۶۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ .

(۱۸۲۶۷) حضرت ميمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكَرَانِ .

(۱۸۲۶۸) حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۶۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، قَالَا :

طَلَاقُهُ جَائِزٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۱۸۲۶۹) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۱۸۲۷۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْيُحْرِيَّتِ ، عَنْ أَبِي لَيْبِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أجازَ طَلَاقَ

السَّكَرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ .

(۱۸۲۷۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی گواہی پر نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کو واقع قرار دیا۔

(۱۸۲۷۱) حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ، أَوْ اُعْتَقَ جَارَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

(۱۸۲۷۱) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص نے جب کسی کو طلاق دی یا غلام کو آزاد کیا تو یہ واقع ہے اور حد قائم ہوگی۔

(۱۸۲۷۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ .

(۱۸۲۷۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے، البتہ اس پر حد جاری ہوگی۔

(۱۸۲۷۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللَّهِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ

بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۷۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مغلوب العقل ہو جانے والے (جیسے مجنون یا معتوہ وغیرہ) کی طلاق

نہیں ہوتی اور شیطان کی طرف سے مغلوب العقل ہونے والے (جیسے شرابی وغیرہ) کی طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۲۷۴) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيحٍ ، قَالَ : طَلَاقُ السَّكَرَانِ جَائِزٌ .

(۱۸۲۷۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست ہے۔

(۳۶) مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ السَّكَرَانِ جَائِزًا

جن حضرات کے نزدیک نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست نہیں

(۱۸۲۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ

طَلَّاقِ السُّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَّاقَهُ، وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.

(۱۸۲۷۵) حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے میں بتلا اور مجنون کی طلاق کو واقع قرار نہیں دیتے تھے جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما اس واقع قرار دیتے تھے اور نئے باز پر حد جاری کرتے تھے۔

(۱۸۲۷۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالُوا: لَيْسَ بِجَائِزٍ.

(۱۸۲۷۶) حضرت جابر بن زید، حضرت عکرمہ، حضرت عطاء اور حضرت طاؤس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نئے میں بتلا شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۷۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَّاقِ السُّكْرَانِ.

(۱۸۲۷۷) حضرت قاسم رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما نے میں بتلا شخص کی طلاق کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

(۱۸۲۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ.

(۱۸۲۷۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے میں بتلا شخص کی طلاق کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

(۱۸۲۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ.

(۱۸۲۷۹) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ نے میں بتلا شخص کی طلاق کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

(۳۷) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، وَيَقُولُ عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي

اگر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو مراد

لیا تھا تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ السَّمِيطِ السُّدُوسِيِّ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالُوا لِي: لَا نَزْوُجُكَ

حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا:

أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، كَانَتْ تَحْتِي فَلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، فَطَلَّقْتُهَا، فَمَا هَذِهِ فَلَمْ أَطَلِّقْهَا،

فَاتَيْتُ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنَ نُؤَيْرٍ وَهُوَ يَرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقُلْتُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ،

فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: رَيْبُهُ.

(۱۸۲۸۰) سمیط سدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک تم

اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، ہم نکاح نہیں کریں گے، میں نے اسے تین طلاقیں دے دیں، انہوں نے میری شادی کرا دی، شادی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی تو میرے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بیوی کو طلاق نہیں دی تھی؟ میں نے کہا کہ دی تھی۔ میرے نکاح میں فلانہ بنت فلان تھی میں نے اس کو طلاق دی تھی اس کو نہیں دی تھی۔ پھر میں شقیق بن مجزاة کے پاس آیا وہ حضرت عثمان غنیؓ کے پاس جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین سے اس بارے میں سوال کرنا، انہوں نے سوال کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۲۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ أَمْرَأَيْهِ عَلَى وَسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ رَحْمًا ، فَقَالَ لِأَمْرَأَيْهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي الْوَسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا .

(۱۸۲۸۱) حضرت طاووس سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک بچے پر بیٹھا تھا، آدمی نے اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے نکیہ کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو کیا حکم ہے؟ حضرت طاووسؓ نے فرمایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۲۸۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ .

(۱۸۲۸۲) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ طلاق سے جو نیت ہو وہی ہوتا ہے۔

(۱۸۲۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِأَمْرَأَيْهِ : فَقَدْ أَعْتَقْتُكَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ طَلَاقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ .

(۱۸۲۸۳) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگی۔

(۱۸۲۸۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ .

(۱۸۲۸۴) حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ طلاق سے جو نیت ہو وہی ہوتا ہے۔

(۱۸۲۸۵) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَعْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةً ، وَقَدْ وَكَّدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : أَرَدْتِ بِمَا قُلْتِ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبْنَاهَا مِنْكَ .

(۱۸۲۸۵) حضرت ابو شامہؓ بیان کرتے ہیں کہ کنانہ بن نعیم بن نعبؓ کے نکاح میں ایک عورت تھی، جس کے لطن سے زمانہ جاہلیت میں ان کی اولاد بھی ہوئی تھی، کنانہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرے پیٹ سے اوپر کا حصہ آزاد ہے، وہ عورت جھڑالے کر حضرت ابوموسیٰؓ کے پاس آئی۔ حضرت ابوموسیٰؓ نے آدمی سے پوچھا کہ کیا تو نے طلاق کی نیت کی تھی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اسے تجھ سے جدا کر دیا۔

(۱۸۲۸۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقُهُ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۸۲۸۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ تو آزاد ہے تو ایک طلاق پڑ جائے گی اور وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ عَيْسَى بْنِ حِطَّانٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ صَبْرَةَ الْحَنْفِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَذَ نَوَآةً ، فَقَالَ : نَوَآةٌ طَالِقٌ ، نَوَآةٌ طَالِقٌ ، ثَلَاثًا ، قَالَ : فَرَفَعَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : مَا نَوَيْتُ ؟ ، قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۲۸۷) حضرت عیسیٰ بن حطان کہتے ہیں کہ ریان بن صبرہ حنفی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی مسجد میں بیٹھا تھا، اس نے ایک گٹھلی پکڑی اور تین مرتبہ کہا کہ گٹھلی کو طلاق ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۸۲۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : حَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مَرْءٌ فَلْيُؤَافِسِنِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، مَا نَوَيْتُ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۲۸۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تیری رسی تیری گردن پر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ موسم حج میں مجھے ملے۔ وہ آدمی موسم حج میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۴۸) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ قَدْ أَذْنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، تو شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذْنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ أَهْوَى مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا .

(۱۸۲۸۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، تو شادی کر لے تو اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ کچھ نہیں، یہ بات حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ طلاق ہو جاتی۔

(۱۸۲۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يَجْلِسُكَ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى .
(۱۸۲۹۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے گھر سے نکل جا! تو میرے گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ تو میری بیوی نہیں ہے! یہ تین مرتبہ کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن یہ ایک مرتبہ ہوگا اور اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۳۹) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۹۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، قَالَ : بَيْتُهُ .

(۱۸۲۹۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۲۹۲) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۱۸۲۹۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ؟ قَالَا : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۸۲۹۳) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۲۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَخْرُجِي ، اسْتَبْرِي ، اذْهَبِي ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، فَهِيَ تَطْلِقُهُ ، إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ .

(۱۸۲۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ نکل جا، پردہ کر لے، چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو ایک طلاق پڑے گی اگر طلاق کی نیت کی ہو۔

(۱۸۲۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعَدُّ هَذَا شَيْئًا .

(۱۸۲۹۵) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو کچھ نہیں سمجھتا۔

(۴۰) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكَ ، أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ
اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا یا مجھے تجھ پر کوئی حق نہیں
تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۹۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكَ ، قَالَ : زَيْتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَيْتَ ثَلَاثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ .

(۱۸۲۹۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے تین کی نیت کی ہو! انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا ہی ہے۔

(۱۸۲۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فَصِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ ، فَهِيَ تَطْلِقُكَ بَانِنَةً .

(۱۸۲۹۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا تجھ پر کوئی حق نہیں تو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔

(۱۸۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِنْهُ .

(۱۸۲۹۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۴۱) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے

اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے

(۱۸۲۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ

بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عِقَالٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۲۹۹) حضرت ابراہیم، حضرت عامر، حضرت مصعب بن سعد، حضرت ابو مالک اور حضرت عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے۔

(۴۲) فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَّاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ

اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۰۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ .

(۱۸۳۰۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھی تو یہ واقعہ ہو جائے گی۔

(۱۸۳۰۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَّاقَ
امْرَأَتِهِ عَلَى وَسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيِّ ، فَرَأَاهُ طَلَّاقًا .

(۱۸۳۰۱) حضرت علی بن حکم بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے تکیے پر اپنی بیوی کے لئے طلاق لکھی۔ اس بارے میں حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے طلاق قرار دیا۔

(۱۸۳۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَّاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ ،
فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَّاقٌ .

(۱۸۳۰۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق لکھی، پھر نادم ہوا اور خط کو روک لیا تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر روک لیا تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر جانے دیا تو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۳۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَّاقِهَا ، ثُمَّ يَدُّوْهُ لَهَا أَنْ
يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ .

(۱۸۳۰۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے نام طلاق لکھی، پھر اسے خیال آیا کہ اس خط کو روک دے، تو اگر وہ تکلم نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر خط بیوی کی طرح بھیج دیا تو جس دن سے خط اسے ملے اسی دن سے وہ عورت عدت شمار کرے گی۔

(۱۸۳۰۴) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا آتَاكَ
كِتَابِي هَذَا فَانْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ : أَمَا بَعْدُ فَانْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ

طالِقٌ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ : هِيَ طَالِقٌ .

(۱۸۳۰۴) حضرت حماد روایت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ جب میرا یہ خط تمہارے پاس آئے تو تمہیں طلاق ہے، اگر خط اس کے پاس نہ پہنچا تو طلاق نہ ہوگی، اور اگر خط میں لکھا: اما بعد! تمہیں طلاق ہے۔ تو اگر خط نہ بھی پہنچے تو طلاق ہو جائے گی۔

(۴۳) الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُ ؟

اگر کسی نابالغ بچی کو طلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟

(۱۸۳۰۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : تَعْتَدُ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاصَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورَ ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاصَتْ بَعْدَ مَا مَضَتْ الشُّهُورُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . (۱۸۳۰۵) حضرت حسن روایت سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی نابالغ بچی کو طلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گی، اگر مہینے ختم ہونے سے پہلے اسے حیض آجائے تو وہ عدت کو حیض کے اعتبار سے دوبارہ شروع کرے گی، اگر مہینے پورے ہونے کے بعد اسے حیض آیا تو اس کی عدت مکمل ہوگی۔

(۱۸۳۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاصَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ .

(۱۸۳۰۶) حضرت ابراہیم روایت فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے نابالغ بچی کو طلاق دے دی تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی، اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے اسے حیض آگیا تو اس کی عدت منہدم ہوگئی اب وہ نئے سرے سے حیض کے اعتبار سے عدت پوری کرے۔

(۱۸۳۰۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِنَّمَا حَاصَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

(۱۸۳۰۷) حضرت جابر بن زید روایت سے سوال کیا گیا کہ ایک نابالغ لڑکی کو اس کے خاوند نے دخول کے بعد طلاق دے دی، اس نے دو مہینے پچیس دن کی عدت گزار لی تھی کہ اسے حیض آگیا، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب وہ تین مہینے عدت کے گزارے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۴۴) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ، وَالَّتِي قَدْ أَيَسَتْ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

اگر مرد کے نکاح میں ایسی عورت ہو جسے عدم بلوغت یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو

آدمی اسے کیسے طلاق دے؟

(۱۸۳۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، أَوْ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.

(۱۸۳۰۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے نکاح میں ایسی عورت ہو جسے عدم بلوغت یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو آدمی اسے جب چاہے طلاق دے دے۔

(۱۸۳۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْبَتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهْلَالِ.

(۱۸۳۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو یہ بات پسند تھی کہ ایسی عورت کو چاند نکلنے پر طلاق دی جائے جسے حیض نہ آتا ہو۔

(۱۸۳۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهْلَةِ.

(۱۸۳۱۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو چاند کے حساب سے طلاق دے۔

(۱۸۳۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ غُرَّةِ الْإِهْلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتُهَا.

(۱۸۳۱۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے نکاح میں ایسی عورت ہو جسے عدم بلوغت یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو آدمی اسے طلاق دینا چاہے تو چاند کی پہلی کو اسے طلاق دے دے پھر عدت پوری ہونے تک طلاق نہ دے۔

(۴۵) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيَقُولُ إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ، وَلَا يُسَمَّى

اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کہے کہ تم میں سے ایک کو طلاق ہے،

کسی کا نام نہ لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَكَهْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ؟ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى آيَتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۸۳۱۲) حضرت معمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اور وہ کہے کہ اس کی ایک بیوی کو طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جس پر چاہے ہاتھ رکھ لے۔ حضرت معمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت

حسن بریضید بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۸۳۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ .

(۱۸۳۱۳) حضرت ابو جعفر بریضید فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ایسا کہنے کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرعہ اندازی کرائی تھی۔

(۱۸۳۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَى شَيْئًا

فَهُوَ مَا سَمَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ .

(۱۸۳۱۴) حضرت قتادہ بریضید اور حضرت شعیب بریضید فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی ایک کا نام لیا تو اسی کو طلاق ہوگی اور اگر نام نہ لیا تو

سب کو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۳۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِيَنِي سَعِدٌ سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ :

لَكَ مَا نَوَيْتَ .

(۱۸۳۱۵) حضرت حسن بریضید سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۳۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ،

وَلَهُ نِسْوَةٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ

شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الْإِبْلَاءُ وَالظَّهَارُ .

(۱۸۳۱۶) حضرت ابراہیم بریضید فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کہے کہ اس کی ایک بیوی کی تین طلاق تو اگر کسی

کی نیت کی تھی تو اسے طلاق ہوگی اور اگر کسی کی نیت نہیں کی تو ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے۔ ایسا اور ظہار کا بھی یہی حکم ہے۔

(۱۸۳۱۷) حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَّادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْنِيِّ ، قَالَ : سِئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ

نِسْوَةٍ ، فَطَلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ : هِيَ

هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ هِيَ ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : بَيْنَ مِنْهُ جَمِيعًا .

(۱۸۳۱۷) حضرت ابو جعفر بریضید سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کی چار بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی نے اسے جھانکا تو اس نے

کہا کہ تجھے طلاق ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو ہر ایک کہنے لگی کہ وہ دوسری تھی، وہ اسے پہچان بھی نہ سکا کہ وہ کون سی تھی تو کیا

حکم ہے؟ حضرت ابو جعفر بریضید نے فرمایا کہ سب اس سے جدا ہو جائیں گی۔

(۴۶) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ

اگر آدمی ان شاء اللہ کہہ کر طلاق دے لیکن اگر طلاق سے ابتداء کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شَرِيحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَشْوِيَةِ

وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَيْثُ ، أَوْ لَمْ يَحْنُتْ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنُتْ لَمْ يَفْعَ عَلَيْهِ .

(۱۸۳۱۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے طلاق یا عتاق کا تذکرہ کر کے ان شاء اللہ کہا تو طلاق اور عتاق واقع ہو جائیں گے، خواہ وہ قسم توڑ دے یا باقی رکھے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قسم نہیں توڑی تو پھر واقع نہیں ہوں گے۔

(۱۸۳۱۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أُخْرَهُ ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ .

(۱۸۳۱۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت شععی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا مقدم اور مؤخر کرنا ایک جیسا ہے، جب اسے کلام کے ساتھ ملا کر لائے۔

(۱۸۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ : لَهُ نُبْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أُخْرَهُ .

(۱۸۳۲۰) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو مقدم کرے یا مؤخر اس کا ان شاء اللہ کہنا باقی رہے گا۔

(۱۸۳۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ نُبْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أُخْرَهُ .

(۱۸۳۲۱) حضرت زہری رضی اللہ عنہ اور عتاق کے استثناء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طلاق کو مقدم کرے یا مؤخر اس کا ان شاء اللہ کہنا باقی رہے گا۔

(۱۸۳۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ، حَيْثُ ، أَوْ لَمْ يَحْنُتْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحًا .

(۱۸۳۲۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق سے ابتداء کرے تو واقع ہو جائے گی حائث ہو یا نہ ہو اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شریح نہیں جانتے۔

(۱۸۳۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : آتَيْتُ امْرَأَتِي طَرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتِ بِهِذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ نَلَاغًا غَيْرِكَ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۲۳) حضرت سعید زبیدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو اپنی بیوی کے پاس بہت دیر سے آیا تو وہ مجھے کہنے لگی تم میرے پاس اس وقت صرف اس لئے آئے ہو کہ تمہاری کوئی اور بیوی بھی ہے، میں نے کہا کہ اگر میری کوئی اور بیوی ہو تو اس کو طلاق ہے، میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس جملے میں کوئی حرج نہیں۔

(۴۷) مَا قَالُوا فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

طلاق میں استثناء کا بیان

(۱۸۳۲۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْإِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ .
(۱۸۳۲۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما طلاق میں استثناء کے قائل تھے۔

(۱۸۳۲۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا :
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ نُبْيَاهُ .

(۱۸۳۲۵) حضرت عطاء، حضرت طاوس، حضرت مجاہد، حضرت نخعی اور حضرت زہری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں ایسا ایسا نہ کروں تو ان شاء اللہ تجھے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابل لحاظ ہوگا۔

(۱۸۳۲۶) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : لَهُ نُبْيَاهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ .

(۱۸۳۲۶) حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان شاء اللہ تجھے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابل لحاظ ہوگا۔ حضرت حکم رضی اللہ عنہما بھی یوں ہی فرماتے ہیں۔

(۱۸۳۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِبَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : ذَهَبَتْ مِنْهُ .

(۱۸۳۲۷) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان شاء اللہ تجھے طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۳۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لَامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاءُ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان شاء اللہ تجھے طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اس کے استثناء کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۱۸۳۲۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ . (دارقطنی ۹۳ - بیہقی ۳۶۱)

(۱۸۳۲۹) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا

کہ تجھے ان شاء اللہ طلاق ہے تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو ان شاء اللہ آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا۔

(۴۸) مَنْ لَمْ يَرَ طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ شَيْنًا

جن حضرات کے نزدیک طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی

(۱۸۲۲۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَّاقٌ .

(۱۸۳۳۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے اور زبردستی کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكَيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ شَيْنًا .

(۱۸۳۳۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ الْغَاهُ .

(۱۸۳۳۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسی طلاق کو لغو قرار دیا۔

(۱۸۲۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَائِبِ ، مَوْلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ شَيْنًا .

(۱۸۳۳۳) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْنًا .

(۱۸۳۳۴) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ .

(۱۸۳۳۵) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق اور عتاق کا اعتبار نہیں۔

(۱۸۲۲۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ شَيْنًا .

(۱۸۳۳۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۲۲۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْنًا . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ

عَطَاءٌ : الشَّرْكَ أَكْبَرُ مِنَ الطَّلَاقِ .

(۱۸۳۳۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک طلاق سے بڑھ کر ہے۔

(۱۸۲۲۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَّاقِ الْمُكْرَهَةِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۳۸) حضرت عطاء بن یشیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

(۱۸۳۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا .

(۱۸۳۳۹) حضرت ضحاک بن یشیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے شخص کی طلاق اور عتاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۱۸۳۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : الْخَطَأُ ، وَالنَّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ . (عبدالرزاق ۱۱۳۱۶ - سعید بن منصور ۱۱۳۵)

(۱۸۳۴۰) حضرت حسن بن یشیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تین چیزوں کو معاف کر دیا: غلطی، بھول اور وہ کام جس پر تم مجبور کئے گئے۔

(۱۸۳۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ صَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ .

(۱۸۳۴۱) حضرت محمد بن عبدالرحمن بن یشیہ فرماتے ہیں کہ ایک عامل نے ایک شخص پر تشدد کیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن یشیہ کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے اس طلاق کو درست قرار نہیں دیا۔

(۱۸۳۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نُوَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ .

(ابوداؤد ۲۱۸۷ - احمد ۶/۲۷۶)

(۱۸۳۴۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زبردستی دی گئی طلاق اور آزادی کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۴۹) مَنْ كَانَ يَرَى طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ جَائِزًا

جو حضرات مجبور کئے گئے شخص کی طلاق کو درست سمجھتے تھے

(۱۸۳۴۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَّاقَ الْمُكْرَهَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ .

(۱۸۳۴۳) حضرت سیار بن یشیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی بن یشیہ سے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق کو درست نہیں سمجھتے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھ پر جھوٹ گھرتے ہیں۔

(۱۸۳۴۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلَّاقُ الْمُكْرَهَةِ جَائِزٌ .

(۱۸۳۴۴) حضرت ابراہیم بن یشیہ فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۳۴۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
(۱۸۳۳۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔
(۱۸۳۴۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ.

(۱۸۳۳۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۳۴۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَاهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
(۱۸۳۳۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۳۴۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ؛ إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
(۱۸۳۳۸) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۳۴۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَنْدِيْقِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ، لَأَجَزَتْ طَلَاقُهُ.

(۱۸۳۳۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے سر پر تلوار رکھی جائے اور پھر وہ طلاق دے دے تو میں اس طلاق کو واقع قرار دے دوں گا۔

(۱۸۳۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعِتَاقِ، أَوْ الطَّلَاقِ قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازًا، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللَّصُوصُ لَمْ يَجْزُ.

(۱۸۳۵۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو طلاق یا عتاق پر مجبور کیا گیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر سلطان نے مجبور کیا تو درست ہے اور اگر چوروں نے مجبور کیا تو درست نہیں۔

(۵۰) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أُمْرَاتَانِ، فَيَنْهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي

لَمْ يَنْهَ، فَقَالَ فَلَانَةٌ خَرَجَتْ؟ أَنْتِ طَالِقٌ

ایک آدمی کی دو بیویاں ہو، وہ ایک کو نکلنے سے منع کرے، لیکن دوسری بیوی نکلے جسے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کو منع کیا تھا لہذا وہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟

تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۵۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أُمْرَاتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ،

فَخَرَجَتْ الَّتِي لَمْ يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاها أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَ : فُلَانَةٌ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تَطْلُقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى .

(۱۸۳۵۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے سے منع کرے، لیکن دوسری بیوی نکلتے جسے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کو منع کیا تھا لہذا وہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کی نیت کی ہے اسے طلاق ہوگی۔

(۱۸۳۵۲) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَطْلُقَانِ جَمِيعًا ، تَطْلُقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَّتِهِ إِبَّاهَا ، وَتَطْلُقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ .

(۱۸۳۵۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے سے منع کرے، لیکن دوسری بیوی نکلتے جسے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کو منع کیا تھا لہذا وہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کو طلاق ہو جائے گی، جس کا نام لیا اسے اس کے نام کی وجہ سے اور دوسری کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ تجھے طلاق ہے۔

(۱۸۳۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتَ فَانْتِ طَالِقٌ ، فَاسْتَعَارَتْ امْرَأَةً فَبَايَعَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَفْعُ طَلَاقُهُ عَلَيَّ امْرَأَتِهِ .

(۱۸۳۵۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نکلی تجھے طلاق ہے۔ اس کے بعد کسی عورت نے اس کی بیوی کے کپڑے مانگے اور پہن کر باہر جانے لگی، اس کے خاوند نے دیکھ کر کہا کہ تو باہر نکل گئی۔ لہذا تجھے طلاق ہے تو یہ طلاق اس کی بیوی کو ہو جائے گی۔

(۱۸۳۵۴) حَدَّثَنَا عَمْرٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَبَايَعَهَا فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۵۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ وہ باہر نہیں نکلتی گی۔ لیکن اس کی کوئی دوسری بیوی باہر نکلی، اسے کسی نے کہا کہ وہ تیری بیوی ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ وہ ہے جسے نکلنے سے منع کیا تھا اور اس نے اسے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔

(۱۸۳۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرْيَدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُلَانَةٌ ، قَالَ : إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتْ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا .

(۱۸۳۵۵) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک باہر نکلی اور اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ فلانی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے طلاق ہے، حالانکہ جس کا نام لیا گیا یہ وہ نہیں تھی۔ تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے

نے فرمایا کہ دونوں کو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۳۵۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أَوْ مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى ، قَالَ : تَطْلُقُ الْيَتَى سَمَى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ .

(۱۸۳۵۶) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی بیویاں یا دو باندیاں تھیں۔ اس نے ایک کو بلایا اور کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ اسے دوسری نے جواب دیا تو اسے طلاق ہوگی جس کا اس نے نام لیا، اگر اپنے غلام سے کہا تب بھی یہی حکم ہے۔

(۵۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ

اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا“ تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : زَيْنَتُهُ . (۱۸۳۵۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہا کہ ”اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا“ تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۳۵۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ .

(۱۸۳۵۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا“ تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں، اگر غصے میں تھا اور طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۳۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعَدُّ هَذَا شَيْئًا .

(۱۸۳۵۹) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا تو ایک طلاق ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتا۔

(۱۸۳۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أُخْرُجِي ، الْحَقِي بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلَاقَ ؟ قَالَا : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۳۶۰) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نکل جا، اپنے گھر والوں سے مل جا اور اس نے طلاق کی نیت بھی کی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی اور وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۵۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۲۶۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ : يَبْنِكُنَّ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيْقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ . قَالَ : هِيَ تَطْلِيْقَةٌ تَامَةٌ .

(۱۸۳۶۱) حضرت حارث عکلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اور وہ ان سے کہے کہ تمہارے درمیان تین طلاقیں، تو ان میں سے ہر ایک تین طلاقوں کے ساتھ باندھ ہو جائے گی، اور اگر آدمی نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی تو وہ پوری ایک طلاق شمار کی جائے گی۔

(۱۸۳۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : يَبْنِكُنَّ تَطْلِيْقَةً ، قَالَ : لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۳۶۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی چار بیویاں ہوں اور کہے کہ تم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو سب کو ایک ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۳۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَاهُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ ؟ قَالَ : هِيَ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۳۶۳) حضرت اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۳۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : يَبْنِكُنَّ تَطْلِيْقَةً ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۳۶۴) حضرت حماد رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اور وہ کہے کہ تم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہر ایک کو ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۳۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۳۶۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے آدھی یا ایک تہائی طلاق ہے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

(۵۳) فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

اگر کوئی شخص دل میں بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَّادَةَ بْنِ أَوْقَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلَ بِهِ . (بخاری ۲۵۲۸ - مسلم ۲۰۲)

(۱۸۳۶۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ ان تکلم نہ کریں یا اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔

(۱۸۳۶۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ يُسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ .

(۱۸۳۶۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دل میں طلاق دینا کوئی چیز نہیں۔ ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سے سوال نہ کیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔

(۱۸۳۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۶۸) حضرت اسماعیل بن آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص بیوی کو دل میں طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دل میں کی گئی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۱۸۳۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۳۶۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۳۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۷۰) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۱۸۳۷۱) حَدَّثَنَا عَمْرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ .

(۱۸۳۷۱) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۳۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ الْعَتَاقِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۷۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر دل میں طلاق دی یا آزاد کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۵۷) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی

طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۷۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فِيهَا وَاحِدَةً بَانِنَةً .

(۱۸۳۷۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی طلاق دے دے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

(۱۸۳۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ .

(۱۸۳۷۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی جو کرے گا وہی نائذ ہوگا۔

(۱۸۳۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلَّقَ عَنِّي فَلَانَةٌ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، إِنْ طَلَّقَ جَائِزًا .

(۱۸۳۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ جاؤ اور میری طرف سے فلائی عورت کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جائز ہے، اگر اس نے طلاق دی تو جائز ہے۔

(۱۸۳۷۹) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

(۱۸۳۸۰) حضرت عامر سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی تین طلاق دے دے تو کیا حکم ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک طلاق ہوگی، اس نے عورت کا معاملہ آدمی کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ہی دیا تھا۔

(۱۸۳۸۱) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ ، فِيهَا وَاحِدَةً بَانِنَةً .

(۱۸۳۸۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے، پھر وہ دوسرا آدمی طلاق دے دے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

(۱۸۳۷۸) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ أُخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فِثْنَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .

(۱۸۳۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طلاق کا معاملہ اسی کے سپرد کرے، اس کے بھائی یا باپ یا کسی اور کے سپرد کر دے تو مختار شخص جو بھی کرے وہ نافذ ہوگا۔ اگر ایک طلاق دی تو ایک، دو دیں تو دو، اور اگر تین دیں تو تین۔

(۵۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ بِيَدِهَا ، فَتَطْلُقُ نَفْسَهَا ، وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اسی کے سپرد کر دے اور وہ خود کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقْتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ .

(۱۸۳۷۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں، اب کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میرے خیال میں ایک طلاق ہوئی، اور آدمی بیوی سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی رائے یہی ہے۔

(۱۸۳۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَانَ بْنِ عُمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ جُزِيَ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُكَ بِيَدِكَ ، فَجَارَتْ ، فَطَلَّقْتُ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۳۸۰) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے اس دروازے کی چوکھٹ عبور کی، تو تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس عورت نے چوکھٹ عبور کی اور پھر عورت نے خود کو کئی طلاقیں دے دیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۳۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ ؛ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى عُمَانَ ، فَقَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ امْرَأَتَهُ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا .

(۱۸۳۸۱) حضرت ابوصالح عتکی ایک وفد کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں دے دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔

(۱۸۳۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۲) حضرت ابو الحلال رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اسی کے سپرد کر دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو فیصلہ وہ کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَصَّالَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۵) حضرت ابو عیاض رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۸۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۸۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۳۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاقَرَا حُلْفَ .

(۱۸۳۸۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا، اگر کوئی انکار کرے تو اس سے قسم لی جائے گی۔

(۱۸۳۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .

(۱۸۳۸۹) حضرت مکحول رضی اللہ عنہما اور حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

(۱۸۳۹۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بَنَاتٌ ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا .

(۱۸۳۹۰) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اگر آدمی بیوی کا معاملہ اس کے سپرد کر دے اور عورت کہے کہ میں نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے ساتھ ہائے ہو جائے گی۔

(۱۸۳۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتُ .

(۱۸۳۹۱) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے بہترین رائے دی ہے۔

(۱۸۳۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِذْ ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۸۳۹۲) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے بنو تميم کے ایک آدمی کے بارے میں لکھا جس نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا تھا کہ معاملہ مرد کی طرف لوٹے گا اور اگر عورت نے خود کو طلاق دی تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی رجوع کا زیادہ حق دار ہے۔

(۵۶) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ

تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَمْرُكَ بِيَدِكَ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَأَ اللَّهُ نَوْنَهَا ، لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ .

(۱۸۳۹۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان پر غلط بات کو جاری کر دیا، اگر وہ یہ کہتی کہ مجھے تین طلاقیں ہیں تو پھر طلاق ہوتی۔

(۱۸۳۹۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكَ بِهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتِكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي .

(۱۸۳۹۴) حضرت منصور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس

کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ خواہ یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور خواہ یہ کہے کہ میں نے خود کو طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں ایک طلاق ہو جائے گی اور وہ خاوند رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

(۱۸۳۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان پر غلط بات کو جاری کر دیا۔

(۱۸۳۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: خَطَأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان پر غلط بات کو جاری کر دیا۔

(۱۸۳۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعُبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَتَاتَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ بِيَدِكَ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هِيَ تَطْلِقُكَ وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تَصِبْ.

(۱۸۳۹۷) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! میرے اور میری بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، اس نے مجھے کہا کہ اگر تم اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو تو تم دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ تیرے ہاتھ ہے، پھر اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوئی، اور تم اس سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتے تو میں سمجھتا کہ تم نے صحیح بات نہیں کی۔

(۵۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخِيرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ، أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور اس نے خود کو اختیار کر لیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۳۹۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَقَالَ عَلِيُّ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ

بَانِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۳۹۸) حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور اس نے خود کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق باندہ ہوگی۔ اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو ایک طلاق باندہ ہوگی اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو بھی ایک طلاق ہوگی اور آدمی رجوع کا زیادہ حقدار ہوگا۔

(۱۸۳۹۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أَبَالِي خَيْرَ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِئَةَ، أَوْ أَلْفًا، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ آتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرَنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ (بخاری ۵۲۶۳۔ مسلم ۱۱۵۳)

(۱۸۳۹۹) حضرت مسروق بنی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری بیوی مجھے اختیار کرنے کے بعد ایک، سو یا ہزار طلاقیں اختیار کر لے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اختیار دیا تھا اور ہم نے آپ ﷺ کو اختیار کیا تھا تو کیا یہ طلاق ہوگی؟

(۱۸۴۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أْتَى وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيْرَ امْرَأَتِهِ فَأَخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.

(۱۸۴۰۰) حضرت عکرمہ بنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ شام میں تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا اور اس نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرمایا کرتے تھے اور حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(۱۸۴۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ عُنُقِهِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ اخْتَارَتْهُ.

(۱۸۴۰۱) حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کا معاملہ اپنی گردن سے اتار دیا تو ایک طلاق ہوگی خواہ عورت اپنے خاوند کو ہی اختیار کر لے۔

(۱۸۴۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَادَانَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَسَبَّلَ عَنِ الْخِيَارِ؟ فَقَالَ: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَانِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بَدَأًا مِنْ مُتَابِعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا وُلِّيتُ وَآتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْتُ إِلَى مَا كُنْتُ أَعْرِفُ، فَقِيلَ لِي: رَأَيْكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ

فِي الْفُرْقَةِ ، فَصَحَّحَكَ عَلِيُّ وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَنَلَّاتٌ ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۳۰۲) حضرت زاذان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان سے اختیار کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو ایک طلاق بائنہ ہے اور اگر اپنے خاوند کو اختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی، اور خاوند رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے کہا ہے وہ درست نہیں، اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی رجوع کا زیادہ حقدار ہوگا، اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو کچھ لازم نہ ہو اور وہ آدمی اس عورت کا زیادہ حق دار ہوگا۔ امیر المومنین کے یہ فرمادینے کے بعد میرے پاس ان کی اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب مجھے امیر بنایا گیا اور میرے پاس شادی کے مسائل لائے جانے لگے تو میں نے دوبارہ سابقہ رائے کو اختیار کر لیا۔ ان سے کہا گیا کہ جماعت کے سامنے آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے نزدیک آپ کی تنہائی والی رائے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو تین طلاقیں ہو گئیں اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۴.۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۳۰۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، پس اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق پڑی اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو کچھ نہ ہوا۔

(۱۸۴.۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَنَلَّاتٌ ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ .

(۱۸۳۰۴) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو تین طلاقیں ہوئیں اور اگر اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوئی۔

(۱۸۴.۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عِثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۳۰۵) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوئی اور آدمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو کوئی چیز لازم نہ ہوئی۔

(۱۸۴.۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرَنَاهُ ، فَلَمْ يَعُدُّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا . (بخاری ۵۲۶۲ - مسلم ۲۸)

(۱۸۳۰۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اختیار دیا۔ ہم نے آپ ﷺ کو اختیار فرمایا، آپ نے اس اختیار کو طلاق شمار نہیں فرمایا۔

(۱۸۴۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۳۰۷) حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ اپنے خاوند کو اختیار کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر عورت اپنے نفس کو اختیار کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی اور آدی رجوع کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۴۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۳۰۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور عورت نے اختیار مرد کو واپس دے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۴۰۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ .

(۱۸۳۰۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور عورت نے اختیار مرد کو واپس دے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔

(۵۸) مَنْ قَالَ اخْتَارِي وَأَمْرُكَ بِيَدِكَ ، سَوَاءٌ

مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں

(۱۸۴۱۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : أَمْرُكَ بِيَدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .

(۱۸۳۱۰) حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔

(۱۸۴۱۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكَ بِيَدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .

(۱۸۳۱۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔

(۱۸۴۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُكَ بِبَيْدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .

(۱۸۳۱۲) حضرت علی، حضرت عبداللہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔

(۱۸۴۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : أَمْرُكَ بِبَيْدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .

(۱۸۳۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔

(۱۸۴۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرُكَ بِبَيْدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .

(۱۸۳۱۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی سے کہنا کہ ”تجھے اختیار ہے“ اور یہ کہنا کہ ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے“ ایک جیسے ہیں۔

(۵۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور عورت اختیار قبول نہ کرے اور مجلس سے اٹھ

جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۱۵) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۳۱۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دے تو یہ اختیار صرف مجلس تک باقی رہے گا جب مجلس برخاست ہو جائے تو اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۸۴۱۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَا : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، أَوْ خَيْرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ تَحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا .

(۱۸۳۱۶) حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، پھر ان

کی مجلس برخواست ہوگئی اور عورت نے کوئی بات نہ کی تو معاملہ مرد کے پاس چلا جائے گا۔

(۱۸۴۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَيْدَ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ .

(۱۸۴۱۷) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ کسی آدمی کے سپرد کر دیا اور اس آدمی نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور مجلس برخواست ہوگئی تو اس کا اختیار ختم ہو گیا۔

(۱۸۴۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا .

(۱۸۴۱۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور عورت نے اس مجلس میں اختیار کو استعمال نہ کیا تو اس کا اختیار ختم ہو گیا۔

(۱۸۴۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ .

(۱۸۴۱۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا، اب اگر عورت فوری طور پر اختیار کو استعمال کر لے تو ٹھیک ورنہ وہ جب کبھی بھی چاہے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی۔

(۱۸۴۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۴۲۰) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت مجلس سے اٹھ گئی تو اختیار ختم ہو گیا۔

(۱۸۴۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا .

(۱۸۴۲۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تملیک اور اختیار میں جدا ہو گئے تو اختیار ختم ہو گیا۔

(۱۸۴۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا .

(۱۸۴۲۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو اختیار اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دونوں مجلس میں رہیں۔

(۱۸۴۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا .

(۱۸۴۲۳) حضرت عطاء، حضرت طاووس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ عورت اگر اختیار ملنے کے بعد اختیار کو مجلس میں

استعمال نہ کرے تو اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۸۴۲۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ.

(۱۸۴۲۳) حضرت عامر بن بَشْرٍ فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے بیوی کو اختیار دیا اور اس نے مجلس میں اختیار کو استعمال نہ کیا تو اختیار ختم ہو گیا۔

(۶۰) مَنْ قَالَ أَمْرًا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کے بولنے تک اسے اختیار رہے گا یعنی جب بات کی تو

اختیار ختم ہو جائے گا

(۱۸۴۲۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.

(۱۸۴۲۵) حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا اختیار اس کے حوالے کر دیا تو یہ اس وقت تک اس کے پاس رہے گا جب تک وہ کوئی بات نہ کر لے۔ اسی طرح اگر یہ اختیار کسی آدمی کے ہاتھ میں دیا تو یہ اس آدمی کے پاس بھی بات کرنے تک رہے گا، یعنی جب بات کی تو اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۱۸۴۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَكَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرَفَعَ إِلَيَّ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عَلَيَّ مَا قُمْتَ؟ قَالَتْ: عَلَيَّ أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.

(۱۸۴۲۶) حضرت حسن بن مسلم بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کا معاملہ اسی کو سونپ دیا وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا، یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن زبیر کے پاس پیش ہوا، انہوں نے عورت سے پوچھا کہ تم کس نیت سے کھڑی ہوئی تھیں؟ اس نے کہا کہ میں اس ارادے سے کھڑی ہوئی تھی کہ دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ آؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن زبیر نے اس عورت کو آدمی سے جدا کر دیا۔

(۶۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

اگر کوئی شخص بیوی کو اختیار دے تو کیا بیوی کے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے اختیار

واپس لے سکتا ہے؟

(۱۸۴۲۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ زَنْكِرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمِ.

(۱۸۳۲۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے تو اس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔
 (۱۸۴۲۸) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ .
 (۱۸۳۲۸) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے تو اس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔

(۱۸۴۲۹) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ امْرَأَهَا بَيْدَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ .
 (۱۸۳۲۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے تو اس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔
 (۱۸۴۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا ، فَإِنْ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا .
 (۱۸۳۳۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ عورت مجلس سے اٹھ جائے تو عورت کا اختیار ختم ہو گیا اور اگر مرد عورت کے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے رجوع کر لے تو کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔

(۶۲) فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَخْتَارُ وَاحِدَةً

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دے اور وہ ایک کو استعمال کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا ، فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۳۱) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دے دیا اور عورت نے خود کو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ .

(۱۸۳۳۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دیا اور عورت نے خود کو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّلَاثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا .

(۱۸۴۳۳) حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے عورت سے کہا تجھے اختیار ہے، وہ خاموش رہی، پھر کہا تجھے اختیار ہے وہ خاموش رہی، پھر کہا تجھے اختیار ہے، اب اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت باندھ ہو جائے گی اور یہ تین طلاقیں ہوں گی۔

(۱۸۴۳۴) حَدَّثَنَا عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَيْرَهَا ثَلَاثًا فَأَخْتَارَتْ مَرَّةً، فَهِيَ ثَلَاثٌ. (۱۸۴۳۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دیا اور عورت نے خود کو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

(۶۳) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيْرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

اگر ایک آدمی نے عورت کو اختیار دیا لیکن وہ خاموش رہی اور اس نے کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟ (۱۸۴۳۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَكَتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ، إِذَا خَيْرَهَا فَسَكَتَتْ.

(۱۸۴۳۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور وہ خاموش رہی تو خاموشی خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

(۱۸۴۳۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَكَتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ. (۱۸۴۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور وہ خاموش رہی تو خاموشی خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

(۶۴) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو قطعی طلاق دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَّانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهَا؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: اللَّهُ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ: اللَّهُ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. (ابوداؤد ۲۳۰۱- بیہقی ۳۴۲)

(۱۸۴۳۷) حضرت عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو قطعی طلاق دی، پھر وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ اس سے تمہارا

ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک طلاق کا ارادہ تھا۔ حضور ﷺ نے پھر پوچھا کہ کیا خدا کی قسم ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا۔ لہذا حضور ﷺ نے ان کے نکاح کو باقی رکھا۔

(۱۸۴۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۳۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قطعی طلاق تین طلاقیں ہیں۔

(۱۸۴۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .

(۱۸۴۳۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قطعی طلاق تین طلاقیں ہیں۔

(۱۸۴۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

(۱۸۴۴۰) حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قطعی طلاق ایک طلاق ہے اور آدمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

(۱۸۴۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَوِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ

الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوَّجَهَا أَمْلَكُ بِهَا .

(۱۸۴۴۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قطعی طلاق ایک طلاق ہے اور آدمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

(۱۸۴۴۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَوِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ

أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۴۴۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۴۴۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ

تَخَالِقُ الْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بِلَانٍ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شَرِيحٌ : نَقَفَهُ عَلِيٌّ بِدَعْوَتِهِ .

(۱۸۴۴۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے قطعی طلاق ہے تو ایک طلاق بائنہ پڑے

گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں ہوں گی جبکہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس کی بدعت پر موقوف کریں گے۔

(۱۸۴۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغْبِرَةِ .

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلِيَّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ

شَرِيحًا قَالَ : نَيْتُهُ .

(۱۸۴۴۴) حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قطعی طلاق کو ایک طلاق قرار دیا اور خاند کو رجوع کا حق دار

ٹھہرایا۔ جبکہ رائش بن عدی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے طلاق کو تین طلاقیں قرار دیا۔ جبکہ

حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۴۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أُرْسِلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لِيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَ سُنْنَا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَيَّ بِدَعِيهِمْ فَخَلَطُواهَا بِالسَّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَمَيِّزُوا السَّنَانَ فَأَمْضُوهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا ، وَالْحِقُوا الْبِدْعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَا طَالِقٌ : فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَا الْبَتَّةُ : فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَيْهَا بِدَعِيَّتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ .

(۱۸۴۴۵) حضرت شعیبی فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا، انہوں نے کوئی جواب دینے سے معذرت کی تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے لئے شریعت کو مقرر کیا لیکن لوگوں نے اس میں بہت سی نئی باتیں ایجاد کر ڈالیں، انہوں نے بدعتوں کو سنتوں کے ساتھ خلط کر لیا، جب تمہارے پاس ایسا کوئی معاملہ آئے تو سنتوں کو الگ کر کے ان کے مطابق فیصلہ کر لیا کرو اور بدعتوں کو اور باب بدعت کے سپرد کر دو۔ باقی جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے تو وہ ایک معروف چیز ہے جبکہ قطع ہونا ایک بدعت ہے جس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے چاہے تو تقدم کرے اور چاہے تو تاخر۔

(۱۸۴۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ بِظَنُرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ظَنُرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُحْصَةً ؟ فَقَالَا : لَا ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأَتَيْهِمْ فَسَأَلَهُمْ نَمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَتَّةٌ ، وَذَكَرْنَا مِنْ عَائِشَةَ مُتَابِعَةً لِهَمَّا .

(۱۸۴۴۶) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی رضاعی ماں کے خاوند کو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاقِ قطعی دے دی ہے، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے؟ یا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی رخصت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو علم نہیں، تم حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، پھر آکر ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ گئے اور ان سے سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اس کے لئے حلال نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بائٹہ ہوگی۔ جبکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی انہی حضرات کی متابعت کو نقل کیا۔

(۱۸۴۴۷) حَدَّثَنَا شُرَيْبُكَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ فِي الْبَتَّةِ : إِنَّ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .

(۱۸۴۴۷) حضرت سعید رضی اللہ عنہ طلاقِ قطعی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک کی نیت کی تو ایک طلاق اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوں گی۔

(۱۸۴۴۸) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ نَوَى طَلَاقًا فَأَدَاتَنِي مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ

فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَيِّنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَلَا تُلَاقِيهِ

(۱۸۳۳۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کا کم از کم یعنی ایک طلاق بائنہ تو ہو جائے گی اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نَيْتِهِ .

(۱۸۳۳۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا پوچھا جائے گا۔

(۱۸۴۵۰) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۵۰) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں ہوں گی۔

(۱۸۴۵۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۵۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں ہوں گی۔

(۱۸۴۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْبَيْتَةِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْفَاءَ ، مَا أَبَقْتَ الْبَيْتَةَ مِنْهُ شَيْئًا .

(۱۸۳۵۲) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھ سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثمان فرمایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر طلاق ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی دینے سے ایک طلاق بھی باقی نہیں رہے گی۔

(۱۸۴۵۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَيْتَةُ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ الْفَاءَ ، مَا أَبَقْتَ الْبَيْتَةَ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ الْبَيْتَةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى .

(۱۸۳۵۳) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھ سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر طلاق ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی دینے سے ایک طلاق بھی باقی نہیں رہے گی۔ جس نے قطعی کا لفظ کہا اس نے انتہاء کو چھو لیا۔

(۱۸۴۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيْتَةِ : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۵۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاقِ قطعی تین طلاقیں ہیں۔

(۶۵) مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ

عورت کو تخلیہ کا کہنا کیا حکم رکھتا ہے؟

(۱۸۴۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فِي الْخَلِيَّةِ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۳۵۵) حضرت عمر اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو تخلیہ کا کہنا ایک طلاق ہے اور آدمی کو رجوع کا حق ہوگا۔

(۱۸۴۵۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ : نَيْتُهُ .

(۱۸۳۵۶) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو تخلیہ کا کہنے میں مرد کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۴۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۵۷) حضرت علی فرماتے ہیں کہ عورت کو تخلیہ کا کہنا تین طلاقیں ہیں۔

(۱۸۴۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۵۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عورت کو تخلیہ کا کہنا تین طلاقیں ہیں۔

(۱۸۴۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى .

(۱۸۳۵۹) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ عورت کو تخلیہ کا کہنے میں نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۴۶۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَادْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةً بَانِنًا ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .

(۱۸۳۶۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تخلیہ کا کہا اور طلاق کی نیت کی تو کم از کم ایک طلاق واقع

ہوگی اور اگر چاہیں تو نکاح کر لیں اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۶۶) مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟

عورت کو بری الذمہ کہنے کا حکم

(۱۸۴۶۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ : قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

(۱۸۳۶۱) حضرت عمر اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بری الذمہ کہا تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی کو رجوع کا

حق ہوگا۔

(۱۸۴۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۶۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۶۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۶۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۴۶۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۴۶۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ .

(۱۸۴۶۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کہا ہے وہی ہوگا۔

(۱۸۴۶۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ

فِثْنَتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .

(۱۸۴۶۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو اگر ایک کی نیت کی تو ایک، دو کی نیت کی تو دو اور تین کی

نیت کی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۶۷) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبُرْيَةِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۶۷) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو تین طلاقیں ہوں گی۔

(۱۸۴۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبُرْيَةِ ، قَالَ : مَا نَوَى .

(۱۸۴۶۸) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۴۶۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ الطَّائِبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : بَرَأْتُ مِنْكَ ؟

قَالَ : بَرَأَتْ .

(۱۸۴۶۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو نیت کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۴۷۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سِئَلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ

تَسَأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَإِنَّا مِنْكَ بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ

يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَّلَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يَرُاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا .

(۱۸۴۷۰) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کی بیوی اس سے طلاق پر اصرار

کرے اور وہ اس سے کہے کہ جا تو میری طرف سے آزاد ہے اور میں تیری طرف سے آزاد ہوں اور وہ طلاق کی نیت نہ کرے تو کیا

حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر طلاق کی نیت نہ کی تو طلاق نہ ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور اسے عدت میں

رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

(۱۸۴۷۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي الْبُرْيَةِ ؛ إِنَّ نَوَى الطَّلَاقِ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نَيْتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنَّ شَأْنَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَلَا تُبَيِّنُ .

(۱۸۴۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بری، الذمہ کہا تو طلاق کی نیت کرنے کی صورت میں کم از کم ایک طلاق بائنہ تو واقع ہو جائے گی اور اگر دونوں چاہیں تو آدمی اس سے شادی کر سکتا ہے اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ ؛ هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَكْحَلَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۴۷۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بری، الذمہ کہا تو یہ تین طلاقیں ہیں اور یہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔

(۱۸۴۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ ؛ الْبُرْيَةُ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۷۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو بری اور آزاد کہنا تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

(۶۷) مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۷۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقُهُ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۴۷۴) حضرت عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ مجھ سے جدا ہے تو یہ ایک طلاق ہے اور آدمی رجوع کا زیادہ اختیار دار ہے۔

(۱۸۴۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ ؛ هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۷۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

(۱۸۴۷۶) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَائِنِ قَالَ ؛ هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۴۷۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

(۱۸۴۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ ؛ مَا نَوَى .

(۱۸۴۷۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۴۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْبَائِنَةِ ؛ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۷۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔
(۱۸۴۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۳۷۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔ یہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے۔

(۱۸۴۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۸۰) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

(۶۸) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۸۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ .

(۱۸۳۸۱) حضرت نعیم بن دجاجہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دیں پھر کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مصیبت سے کم تو نہیں۔

(۱۸۴۸۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأَى الْحَسَنَ يُفْتِي بِهِ .

(۱۸۳۸۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۸۴۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۸۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

(۱۸۴۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى .

(۱۸۳۸۳) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو اس میں نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۴۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ .

(۱۸۳۸۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔

(۶۹) مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، مَنْ رَأَاهُ طَلَاقًا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۴۸۶) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۸۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

(۱۸۴۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۸۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

(۱۸۴۸۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا .

(۱۸۳۸۸) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ ایک طلاق ہے اور وہ آدمی رجوع کا زیادہ حق دار ہے، اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہ کی تو یہ قسم ہے جس کا کفارہ دے گا۔

(۱۸۴۸۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۳۸۹) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۴۹۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى .

(۱۸۳۹۰) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اگر قسم کی نیت کی تو قسم ہے اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہے۔

(۱۸۴۹۱) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَالِقٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۳۹۱) حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۴۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ،

يُنَوِي الطَّلَاقَ ، فَأَذْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

(۱۸۳۹۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

(۱۸۴۹۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَأَذْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نَيْتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةً بَائِنَةً ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَلَتَاتٌ .

(۱۸۳۹۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، اگر وہ دونوں چاہیں تو آدمی اس سے نکاح کر لے اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۱۸۴۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۳۹۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی اور عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے۔

(۱۸۴۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحُرَامِ : ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۹۵) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔

(۷۰) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْحُرَامُ يَمِينٌ وَكَيْسَتْ بِطَلَاقٍ

اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو جن حضرات کے نزدیک یہ طلاق نہیں قسم ہے

(۱۸۴۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحُرَامُ يَمِينٌ .

(۱۸۳۹۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۴۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ وَمِثْلُهُ .

(۱۸۳۹۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۴۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَمِينٌ .

(۱۸۳۹۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۴۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحُرَامُ يَمِينٌ .

(۱۸۴۹۹) حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن زید، حضرت سعید بن جبیر، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۵۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي بِأَيَّهَا حَرَمْتُ ، أَوْ مَاءٌ قُرَاتًا .

(۱۸۵۰۰) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو حرام کہنا اور فرات کے پانی کو حرام کہنا ایک جیسا ہے۔

(۱۸۵۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَ : يَمِينٌ .

(۱۸۵۰۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۵۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ أَنَسُ : ثَلَاثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةٌ يَمِينٌ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ .

(۱۸۵۰۲) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو حرام کہنے سے تین طلاقیں ہو جائیں گی اور بعض کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا جبکہ میری رائے یہ ہے کہ ظہار کا کفارہ دینا ہوگا۔

(۱۸۵۰۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ .

(۱۸۵۰۳) حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۵۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَهُمْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .

(۱۸۵۰۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر قسموں کے کفارے کو مقرر کیا ہے۔

(۱۸۵۰۵) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ .

(۱۸۵۰۵) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کے حکم میں ہے۔

(۱۸۵۰۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَرَمْتُهَا ، أَوْ حَرَمْتُ جَفَنَةً مِنْ تَرِيدٍ .

(۱۸۵۰۶) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عورت کو حرام کرنا اور ترید کے پیالے کو حرام کرنا ایک جیسا ہے۔

(۱۸۵۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا : مَنْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ .

(۱۸۵۰۷) حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حرام ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی، اس پر تم کا کفارہ لازم ہوگا۔

(۱۸۵۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۵۰۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۵۰۹) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أَنَسُ بْنُ عَالِيَةَ كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلَيَّ قَطُّ ، وَلَآنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الْإِدَى قَالَهَا ؟ إِنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحَلِّهَا لَهُ ، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ .

(۱۸۵۰۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے لئے حرام کہہ دے تو اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ خدا کی قسم! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا اور نہ میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کا قائل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نہ تو اسے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ حرام، اگر وہ چاہے تو تقدیم کر لے اور اگر چاہے تو تاخیر کر لے۔

(۱۸۵۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ رَقَبَةٌ ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِارْبَعِ ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ .

(۱۸۵۱۰) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو ایک غلام آزاد کرے اور اگر یہ بات چار بیویوں سے کہی تو چار غلام آزاد کرے۔

(۷۱) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ

اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : لَوْلَا أَمْرَاتُهُ ، لَأَمَرْتَهُ أَنْ يَكْفَرَ يَمِينَهُ .

(۱۸۵۱۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو اگر اس کی بیوی نہ ہو تو میں

اسے قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دوں گا۔

(۱۸۵۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : لَا يُوجِبُ طَلَاقًا ، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكْفَرُ يَمِينَهُ .

(۱۸۵۱۲) حضرت عمر بن ذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ طلاق کو ثابت نہیں کرتا اور حلال کو حرام نہیں کرتا، وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

(۱۸۵۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنَّ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا .

(۱۸۵۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور وہ رجوع کا زیادہ حق دار ہے اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو یہ قسم ہے اس کا کفارہ دے۔

(۱۸۵۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أُطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ .

(۱۸۵۱۴) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

(۱۸۵۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةٌ يَمِينٍ .

(۱۸۵۱۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو قسم کا کفارہ دے۔

(۱۸۵۱۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرِمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكْفَرُ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ .

(۱۸۵۱۶) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میرے لئے ہر حلال چیز حرام ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور اس عورت کے لئے دوسرے شخص سے نکاح کئے بغیر اس سے نکاح کرنا درست نہیں اور مرد اپنے مال میں سے قسم کا کفارہ ادا کرے۔

(۷۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو ہبہ کر دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۱۷) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ فِي الرَّجُلِ

يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِقُكَ بِمِلْكِكَ رَجَعَتْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۵۱۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر اس کے گھر والے قبول کر لیں تو ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر وہ قبول نہ کریں تو کچھ لازم نہیں۔

(۱۸۵۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِقُكَ بِمِلْكِكَ رَجَعَتْهَا .

(۱۸۵۱۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر وہ قبول کر لیں تو ایک طلاق ہے اور اسے رجوع کا حق ہوگا۔

(۱۸۵۱۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكَ ، أَوْ اخْتَارِي ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكَ لِأَهْلِكَ ، فَهِيَ تَطْلِقُكَ .

(۱۸۵۱۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے معاملے کو خود دیکھ لے، یا کہا کہ تجھے اختیار ہے یا کہا کہ میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے لئے بہہ کر دیا تو یہ ایک طلاق کے کلمات ہیں۔

(۱۸۵۲۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَانِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۵۲۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر وہ قبول کر لیں تو ایک طلاق ہائے ہے اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ایک طلاق ہے اور مرد کو رجوع کا حق ہوگا۔

(۱۸۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدَّوَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ .

(۱۸۵۲۱) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے، اب وہ عورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ اگر وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ایک طلاق ہے اور آدمی کو رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔

(۱۸۵۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِقُكَ بَانِنَةٌ ، وَإِنْ رَدَّوَهَا فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۵۲۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر وہ قبول کر لیں تو ایک طلاق اور اگر وہ قبول نہ کریں تو کچھ لازم نہیں۔

(۱۸۵۲۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الْيَتِي تُوَهَّبَ لِأَهْلِهَا : تَطْلِقُكَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۵۲۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الْيَتِي تُوَهَّبَ لِأَهْلِهَا : تَطْلِقُكَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۵۲۳) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو ایک طلاق ہے اور مرد کو رجوع کا حق ہوگا۔

(۱۸۵۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا ؛ إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَاطِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۸۵۲۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر وہ قبول کر لیں تو ایک طلاق بائناہ اور اگر وہ انکار دیں تو ایک طلاق رجعی ہے اور مرد کو رجوع کا حق ہوگا۔

(۱۸۵۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ . (۱۸۵۲۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۵۲۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا .

(۱۸۵۲۶) حضرت وکیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اسی کے گھر والوں کو بہہ کر دے تو اگر طلاق کا ارادہ نہیں تھا تو کچھ نہ ہوا خواہ وہ قبول کر لیں یا واپس کر دیں اور اگر طلاق کی نیت کی تو جو نیت کی وہ واقع ہوگا خواہ وہ واپس کر دیں یا قبول کر لیں۔

(۷۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَرَأَيْتَ اللَّهُ مِنْكَ ، فَقَالَ نَعَمْ

اگر عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ نے تجھے مجھ سے راحت دی اور آدمی نے کہا ہاں

تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۲۷) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرِزْوَجِهَا : أَرَأَيْتَ اللَّهُ مِنْكَ ، قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَعَمْ ، فَنَعَمْ ، قَالَ : فَاتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِكَ .

(۱۸۵۲۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ نے مجھے تجھ سے راحت دی اور آدمی نے جواب میں کہا کہ ہاں، ہاں، ہاں۔ یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس راحت کو تجھ سے دور کر دوں، وہ تیرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ ہے۔

(۷۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ كَأَلْفٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلٌ بَعِيرٍ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر

ہے یا کہا کہ تجھے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۲۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلًا بَعِيرًا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۵۲۸) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے اونٹ کے بوجھ کے برابر طلاق ہے تو یہ عورت اس خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔

(۱۸۵۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أُسْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۸۵۲۹) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر ہے تو یہ عورت اس خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔

(۷۵) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا

اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھر انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۳۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا هُوَ حَلَفَ .

(۱۸۵۳۰) حضرت ابراہیمؓ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھر انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مقدمہ سلطان کے پاس لے جایا جائے اور اس آدمی سے قسم اٹھوائی جائے، اگر وہ قسم کھالے تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ عورت اسے فدیہ دے کر خلع کر لے۔

(۱۸۵۳۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهَا الْفِدْيَةُ .

(۱۸۵۳۱) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھر انکار کر دے تو اگر عورت سچی ہے تو اس کے لئے فدیہ دے کر خلع لینا درست ہے۔

(۱۸۵۳۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَقَدَّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَسَتَحِلُّفُهُ .

(۱۸۵۳۲) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ عورت ایسی صورت میں خاوند کو سلطان کے پاس لے جائے اور وہ اس سے قسم لے۔

(۱۸۵۳۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَدْعِي أَنْ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَوَلَيْسَ لَهَا بَيْتَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقْرَأَ عِنْدَهُ وَلَا تَفْرُقْ .

(۱۸۵۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے خاوند نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں، اس عورت کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسی کے پاس رہے اس کے پاس سے کہیں نہ جائے۔

(۱۸۵۳۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا .

(۱۸۵۳۴) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اکٹھے رہیں گے زنا کریں گے۔

(۱۸۵۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنِ مَجَاهِدٍ قَالَ : كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارَهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السَّرِّ ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ .

(۱۸۵۳۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک باندی کا خاوند اسے علیحدگی میں طلاق دیتا تھا، اس باندی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بات کی تو انہوں نے اس کے خاوند سے قسم لی اور اسے چھوڑ دیا۔

(۱۸۵۳۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهَدَيْلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ شَيْخِ يَكْنَى : أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السَّرِّ وَيَجْحَدُهَا فِي الْعَلَانِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ .

(۱۸۵۳۶) ایک بزرگ ابو عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند علیحدگی میں مجھے طلاق دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے آکر انکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو چاہئے کہ اللہ کی چار قسمیں کھائے کہ اس نے طلاق نہیں دی اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس نے طلاق دی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔

(۱۸۵۳۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِيِّ بْنِ عَطِيَّةٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ .

(۱۸۵۳۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد انکار کرے تو عورت اس کے پاس سے بھاگ جائے۔

(۱۸۵۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَسْتَحْلِفُهُ ذُبُرَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ .

(۱۸۵۳۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد انکار کر دے تو عورت نماز کے بعد اس سے قسم لے، اگر وہ قسم کھالے تو وہ عورت واپس آجائے گی۔

(۱۸۵۳۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوَلَيْسَ لَهَا بَيْتَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أُمِّي ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تَقَارُهُ .

(۱۸۵۳۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور عورت کے پاس کوئی گواہی نہ ہو اور مرد انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت فدیہ دے کر اس مرد سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ میں نے کہا اگر مرد انکار کرے تو پھر؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت اس کے پاس سے بھاگ جائے، اس کے پاس نہ ٹھہرے۔

(۱۸۵۴۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرَبَ.

(۱۸۵۴۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس صورت میں عورت کو مرد کے پاس سے بھاگ جانے کا مشورہ دیتے تھے۔

(۷۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے لیکن غلطی سے بیوی کو طلاق کے کلمات زبان

سے نکال دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۴۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلَطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.

(۱۸۵۴۱) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے لیکن غلطی سے بیوی کو طلاق کے

کلمات زبان سے نکال دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ غلطی سے نکلا ہوا لفظ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔

(۱۸۵۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَعَلِطَ

فَطَلَّقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَلْزَمُهُ.

(۱۸۵۴۲) حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے لیکن غلطی سے بیوی

کو طلاق کے کلمات زبان سے نکال دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں جبکہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

طلاق ہو جائے گی۔

(۷۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ يَتَّبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے

دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۵۴۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ

عَلَيْهِ طَلَّاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۸۵۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق باندہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔

(۱۸۵۴۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَّاقًا بَانِنًا ، ثُمَّ يَتَّبِعُهَا بِطَلَّاقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَّاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۸۵۴۳) حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق باندہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔

(۱۸۵۴۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۵۴۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی یونہی فرماتے ہیں۔

(۱۸۵۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَاهُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا بَانِنًا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالُوا : يَبْعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

(۱۸۵۴۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق باندہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔

(۱۸۵۴۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزِمُ الْمُطَلَّاقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۸۵۴۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق باندہ دے پھر اس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔

(۱۸۵۴۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۵۴۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۵۴۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَلْزِمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۸۵۴۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت میں دی گئی طلاق معتبر ہے۔

(۷۸) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، كَمَا طَلَّقَهَا ؟

اگر ایک غلام کے نکاح میں آزاد عورت اور آزاد مرد کے نکاح میں باندی ہو تو کتنی طلاقیں کا حق ہوگا؟

(۱۸۵۵۰) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۵۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ ، أَوْ الْعِدَّةِ .

(۱۸۵۵۱) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ .

(۱۸۵۵۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ .

(۱۸۵۵۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۵۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نَبِئْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

(۱۸۵۵۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۵۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَبَيَّنُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ .

(۱۸۵۵۵) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی خواہ آزاد کے نکاح میں ہو یا غلام کے دو طلاقوں سے بائنتہ ہو جائے گی۔

(۱۸۵۵۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّاقُهَا نِسَانٌ ،

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَطَلَّاقُهَا ثَلَاثٌ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حَيْضٍ .

(۱۸۵۵۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باندی آزاد کے نکاح میں ہو تو اس کی طلاقیں دو اور عدت بھی دو حیض ہیں اور

اگر آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو تو اس کی طلاقیں تین اور عدت بھی تین حیض ہیں۔

(۷۹) مَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اور عدت کا عورتوں سے ہے

(۱۸۵۵۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ أَنَّ نَفِيعًا فَتَى أُمَّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوَهَا عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُسْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ

هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَنُنُّ إِلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ زَيْدَ

بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبٍ ، قَالَا : إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَّاقُهَا طَلَّاقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ،

وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَطَلَّاقُهَا طَلَّاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .

(۱۸۵۵۷) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام نفع نے اپنی آزاد بیوی کو دو طلاقیں

دے دیں، لوگ چاہتے تھے کہ یہ خاتون واپس ان کے نکاح میں چلی جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کا

انکار کیا، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کسی نے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے؟ جب میں مدینہ آیا تو میں نے حضرت

ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، انہوں نے مجھے جواب میں ایک حدیث لکھ بھیجی جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا خاوند آزاد ہو تو طلاق آزاد والی ہوگی اور عدت باندی والی اور اگر کسی آزاد عورت کا خاوند غلام ہو تو طلاق غلام والی ہوگی اور عدت آزاد والی۔

(۱۸۵۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۵۸) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں سے اور عدت کا عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۵۵۹) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۵۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، قَالُوا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۶۰) بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں سے اور عدت کا عورتوں سے ہے۔

(۱۸۵۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَفِيعٌ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَيْنِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا؟ فَقَالَا: طَلَاكَ طَلَاقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.

(۱۸۵۶۱) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفع ایک غلام تھے اور ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھیں، انہوں نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں، اس بارے میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری طلاق غلام والی اور ان کی عدت آزاد عورتوں والی ہے۔

(۱۸۵۶۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَقَدْ بَانَ تَطْلِيقَيْنِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَقَدْ بَانَ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، وَعِدَّتُهَا حِيضَتَانِ.

(۱۸۵۶۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو تو دو طلاقوں سے باندہ ہو جائے گی اور تین حیض عدت گزارے گی اور اگر کوئی باندی کسی آزاد کے نکاح میں ہو تو تین طلاقوں سے باندہ ہوگی اور دو حیض عدت گزارے گی۔

(۱۸۵۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

(۱۸۵۶۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں سے اور عدت کا عورتوں سے ہے۔

(۸۰) فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ عَبْدَهُ امَّتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا، مَنْ قَالَ يَبِيعُهَا طَلَقَهَا
اگر کوئی شخص اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائے پھر باندی کو بیچ دے تو جن

حضرات کے نزدیک اسے بیچنا طلاق کے مترادف ہے

(۱۸۵۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَقُهَا.

(۱۸۵۶۲) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ باندی کو بیچنا اس کی طلاق ہے۔

(۱۸۵۶۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي قَالَ:

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَقُهَا.

(۱۸۵۶۵) حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ باندی کو بیچنا اس کی طلاق ہے۔

(۱۸۵۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ، قَالُوا: بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَقُهَا.

(۱۸۵۶۶) حضرت ابن عباس، حضرت جابر اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ باندی کو بیچنا اس کی طلاق ہے۔

(۱۸۵۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ابْتِهَامًا بَيْعَ، فَذَلِكَ لَهَا طَلَقٌ.

(۱۸۵۶۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی میں سے جو بھی بیچا گیا تو یہ ان کی طلاق کی مانند ہے۔

(۱۸۵۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْنَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ابْتِهَامًا بَيْعَ، فَذَلِكَ لَهَا طَلَقٌ.

(۱۸۵۶۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی میں سے جو بھی بیچا گیا تو یہ ان کی طلاق کی مانند ہے۔

(۱۸۵۶۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْعُهَا فِي بَيْعِ ابْنِهَا كَانَ.

(۱۸۵۶۹) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی میں سے جو بھی بیچا گیا تو یہ ان کی طلاق کی مانند ہے۔

(۱۸۵۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهُ طَلَقُهَا.

(۱۸۵۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام کو بیچنا اس کی طلاق ہے۔

(۱۸۵۷۱) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَرِثَةً وَلَهَا زَوْجٌ، أَيْقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:

إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يَغْتَبِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: وَإِنْ يَنْتَزِعَ خَيْرٌ لَهُ.

(۱۸۵۷۱) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص خاندان والی باندی کو خریدے تو

کیا اس سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ جماع کر لے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس کا ایسی باندی سے دور

رہنا بہتر ہے۔

(۱۸۵۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا بَاعَتِ الْأَمَةُ، أَوْ وَهَبَتْ، أَوْ وَرِثَتْ، أَوْ

أَعْتَقْتُ ، فَهُوَ فِرَاقٌ .

(۱۸۵۷۲) حضرت مجاہد ریثیہ فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو بیچا گیا، ہبہ کیا گیا، کوئی اس کا وارث بن گیا یا اسے آزاد کیا گیا تو یہ خاوند سے اس کی جدائی ہے۔

(۸۱) مَنْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِطَلَّاقٍ ، وَلَا يَطُوهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى تَطْلُقَ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، البتہ خریدنے والا اس وقت تک جماع نہیں

کر سکتا جب تک اسے طلاق نہ دے دی جائے

(۱۸۵۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا .

(۱۸۵۷۴) حضرت ابوسلمہ ریثیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف ریثیہ نے عاصم بن عدی ریثیہ سے ایک باندی خریدی انہیں بتایا گیا کہ اس کا خاوند بھی ہے تو انہوں نے اس باندی کو واپس کر دیا۔

(۱۸۵۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أُخْبِرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

(۱۸۵۷۶) حضرت سلیمان بن یسار ریثیہ فرماتے ہیں کہ عاصم بن عدی ریثیہ نے عبدالرحمن بن عوف ریثیہ کو ایک باندی ہدیہ میں دی، جب وہ اس کے قریب جانے لگے تو اس نے بتایا کہ اس کا خاوند ہے، پس حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس باندی کو واپس کر دیا۔

(۱۸۵۷۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَسَّارِ بْنِ نَمِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اشْتَرَى بَعْضَهَا .

(۱۸۵۷۸) حضرت عمر ریثیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کی شرمگاہ کو بھی خریدا ہے۔

(۱۸۵۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقْرُبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بَعْضَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مَنَةِ .

(۱۸۵۸۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ریثیہ نے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوند تھا، وہ اس باندی کے اس وقت تک قریب نہ گئے جب تک اس کے خاوند سے اس کا حق پانچ سو کے عوض نہ خرید لیا۔

(۱۸۵۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَنَبِعَهَا نَفْسَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ جُعْلًا عَلَى أَنْ يُطْلَقَهَا .

(۱۸۵۸۲) حضرت مصعب بن سعد ریثیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ریثیہ نے اپنی ایک باندی کی شادی اپنے ایک غلام سے کرادی۔ بعد میں انہوں نے خود اس باندی کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے غلام کو اس بات پر عرض دیا کہ وہ اس کو طلاق

دے دے۔

(۱۸۵۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا جَرَدَهَا ، قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا ، وَقَالَ : أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ .

(۱۸۵۷۸) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی باندی ہدیہ میں دے دی، جب انہوں نے اس سے جماع کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرا ایک خاوند ہے، تو انہوں نے وہ اس کے مالک کو واپس کر دی اور فرمایا کہ تو نے مجھے ایک ایسی باندی ہبی کی جس کا خاوند تھا۔

(۱۸۵۷۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا آتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيُّ : أَفَارِعُهُ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَأَعْتَزَلَهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَأَشْتَرَى بِضَعْفِهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ .

(۱۸۵۷۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمدان کے ایک آدمی نے اپنی ایک باندی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ میں دی، جب وہ ان کے پاس آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تو فارغ ہے یا مشغول ہے؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میں مشغول ہوں یعنی میرا خاوند ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے خاوند کو پیغام بھیج کر بلوایا اور اس کا حق چار سو بیس میں خرید لیا۔

(۱۸۵۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْعَبْدُ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ أَيْمَانًا وَجَدَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا .

(۱۸۵۸۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غلام اپنی بیوی کا زیادہ حق دار ہے جہاں کہیں بھی اسے پائے، البتہ اگر اس کو طلاق باندہ دے دی تو اس کا حق ختم ہو گیا۔

(۱۸۵۸۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبِتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبْتُهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ ، فَأَشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعْطَاهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبِي ، فَرَادَهُ فَأَبِي ، فَرَادَهُ فَأَبِي حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَأَبِي ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

(۱۸۵۸۱) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک عورت دیکھی جو انہیں بھلی محسوس ہوئی، انہوں نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں کی باندی ہے، انہوں نے چار ہزار درہم کے عوض اسے خرید لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا خاوند بھی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے خاوند کو ایک سو درہم دیئے کہ وہ اسے طلاق دے دے، اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے رقم کو بڑھایا اس نے پھر انکار کیا وہ بڑھاتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے پانچ سو درہم دینے کی پیشکش کی لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے وہ باندی اس

کو دے دی۔

(۱۸۵۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ.

(۱۸۵۸۲) حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی عورت سے جماع کرے جبکہ اس کا خاوند بھی ہو۔

(۱۸۵۸۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: ابْنِي لَأَكْرَهُهُ أَنْ أَطَّأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أَقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۱۸۵۸۳) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مکروہ خیال کرتا ہوں کہ میں کسی ایسی عورت سے جماع کروں جس کے ساتھ میں کسی آدمی کو دیکھوں تو اس پر حد جاری نہ کر سکوں۔

(۱۸۵۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَّأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ. وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ.

(۱۸۵۸۴) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کسی ایسی عورت سے جماع کیا جائے جس کا خاوند ہو۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ان کی طرف منسوب ہے کہ اسلام میں ایک عورت کے دو خاوند نہیں ہو سکتے۔

(۱۸۵۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَرَدَّهَا، وَقَالَ: دَلَّسْتُ لِي إِذْنًا.

(۱۸۵۸۵) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوند تھا پھر اسے واپس کر دی اور فرمایا کہ وہ میرے لئے مشتبہ تھی۔

(۸۲) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

اگر کوئی شخص اپنے غلام کو شادی کی اجازت دے تو طلاق کا حق غلام کے پاس ہوگا

(۱۸۵۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: قَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.

(۱۸۵۸۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا حق اسے ہوتا ہے جس کے لئے شرمگاہ حلال ہوتی ہے۔

(۱۸۵۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْذٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَ رَجُلًا فَقَالَ: أَنْكَحْتُ أُمَّتِي عَيْدِي؟ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

(۱۸۵۸۷) حضرت ابو سعید بن عوذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے اپنی باندی

کانکاح اپنے غلام سے کیا پھر میں نے سوچا کہ میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرادوں تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔

(۱۸۵۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُذِنَ السَّيِّدُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۵۸۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے اجازت دی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہی ہوگا۔

(۱۸۵۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۵۸۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تو پھر بھی طلاق کا اختیار غلام کو ہی ہوگا۔

(۱۸۵۹۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُبَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ عَرَفٍ ، وَحَدِيثَهُ ، فَأَلَوْا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۵۹۰) حضرت علی بن عرف اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت سے شادی

کی تو پھر بھی طلاق کا اختیار غلام کو ہی ہوگا۔

(۱۸۵۹۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ

كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ .

(۱۸۵۹۱) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر باندی کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہو اور کسی غلام کا

مالک اسے اس باندی سے شادی کرنے کی اجازت دے دے تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔

(۱۸۵۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكَحُ مَمْلُوكَةً مَمْلُوكَةً ، هَلْ يَصِحُّ

لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ : بِنَسِ مَا صَنَعَ .

(۱۸۵۹۲) حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کی اپنے غلام سے

شادی کرادے تو کیا اس کی رضامندی کے بغیر دونوں کو جدا کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کرے تو بہت برا کرے گا۔

(۱۸۵۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ

بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .

(۱۸۵۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا، اگر چاہے تو

طلاق دے اور اگر چاہے تو روک رکھے۔

(۱۸۵۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ : إِنْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ

السَّيِّدُ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ .

(۱۸۵۹۴) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے

کہ جب آقا نے غلام کی شادی کرائی تو طلاق کا حق اسی کو ہوگا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جابر بن زید نے غلط کہا۔
(۱۸۵۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ البُضْعَ .

(۱۸۵۹۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق کا اختیار اسی کو ہوگا جو شرمگاہ کا حق رکھتا ہے۔

(۱۸۵۹۶) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَطَلَّاقُهُ بِيَدِ العَبْدِ ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ .

(۱۸۵۹۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔ آقا اس کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا۔

(۱۸۵۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أُذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ العَبْدِ .

(۱۸۵۹۷) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے غلام کی شادی کرائی یا اسے شادی کی اجازت دی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔

(۱۸۵۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِمَهْرٍ وَبَيْنَةٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فُرُجُهَا حَتَّى يَمُوتَ .

(۱۸۵۹۸) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غلام کی اپنی باندی سے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں شادی کرادی تو وہ اس سے چھین نہیں سکتا، اور موت تک اب اس باندی کی شرمگاہ اس کے لئے حلال نہیں۔

(۱۸۵۹۹) حَدَّثَنَا عبيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ .

(۱۸۵۹۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آقا نے اپنے غلام کو شادی کی اجازت دی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا۔

(۱۸۶۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوُهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ .

(۱۸۶۰۰) حضرت انس بن مالک، حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ طلاق کا اختیار آقا کو ہوگا۔

(۱۸۶۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ قَالَ : إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أُمَّتَكَ ، ثُمَّ بَعْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُمْنَعَهُ .

(۱۸۶۰۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے باندی کی اپنے غلام سے شادی کر دی اور پھر غلام کو بیچ بھی دیا تو اسے اس کی بیوی کے پاس آنے سے منع نہیں کر سکتے۔

(۱۸۶.۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِبَيْدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۶۰۲) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔

(۸۳) مَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، فَالطَّلَاقُ بِبَيْدِ السَّيِّدِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کا حق آقا کو ہوگا۔

(۱۸۶.۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِبَيْدِ سَيِّدِهِ .

(۱۸۶۰۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کا حق آقا کو ہوگا۔

(۱۸۶.۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ .

(۱۸۶۰۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آقا اگر چاہے تو نکاح کو ختم کر دے اور اگر چاہے تو خاموش رہے۔

(۱۸۶.۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِبَيْدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِبَيْدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۶۰۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کا حق آقا کو ہوگا، اور اگر آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔

(۱۸۶.۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ .

(۱۸۶۰۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۸۴) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُوَلِّمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا

اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۱۸۶.۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

(۱۸۶۰۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو وہ اپنے نفس کی مختار ہوگی۔

(۱۸۶۰۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَسْلِمٌ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَا : الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ .

(۱۸۶۰۸) حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی کی عیسائی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام عورت کو اس کی بیوی ہونے سے نکال دے گا۔

(۱۸۶۰۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَسْلِمٌ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۶۰۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۸۶۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيَّةٍ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسَلِّمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَفُرْقٌ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۶۱۰) حضرت عطاء، حضرت طاووس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی شخص کی عیسائی بیوی اسلام قبول کر لے تو اگر اس کا خاوند بھی اسلام قبول کر لے تو یہ اس کی بیوی رہے گی اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۸۶۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّقَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبٍ يُقَالُ لَهُ : عَبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ ، عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ عَبَادَةُ نَصْرَانِيًّا ، فَاسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَابَى أَنْ يُسَلِّمَ ، فَفَرَّقَ عَمْرُ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۶۱۱) حضرت داود بن کردوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تغلب کا ایک شخص عبادہ بن نعمان بن زرعہ جو کہ ایک عیسائی تھا، اس کے نکاح میں بنو تميم کی ایک عیسائی عورت تھی، اس عورت نے اسلام قبول کر لیا لیکن عبادہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

(۱۸۶۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا اسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .

(۱۸۶۱۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو ان کے نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا۔

(۱۸۶۱۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبٍ يُقَالُ لَهُ : عَبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَاسْلَمَتِ ، فَدَعَاهُ عَمْرُ فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تُسَلِّمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ ، فَأَبَى أَنْ يُسَلِّمَ ، فَزَعَهَا مِنْهُ عَمْرُ .

(۱۸۶۱۳) حضرت یزید بن علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تغلب کا ایک آدمی جس کا نام عبادہ بن نعمان تھا، اس کے عقد میں بنو تمیم کی ایک عورت تھی، اس عورت نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ چاہو تو اسلام قبول کر لو بصورت دیگر ہم تمہاری بیوی کو تم سے جدا کر دیں گے، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا۔

(۱۸۶۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ تَسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۶۱۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی یا یہودی کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۸۶۱۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتِهِ نَصْرَانِيَّةٍ ، فَاسْأَلَمْتُ ؟ قَالَ : فَرَّقَ ، فَرَّقَ .

(۱۸۶۱۵) حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی عیسائی مرد کی عیسائی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے درمیان جدائی کرادو، ان کے درمیان جدائی کرادو۔

(۱۸۶۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا . (۱۸۶۱۶) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۸۵) مَنْ قَالَ إِذَا أَسْلَمْتُ وَكَمْ يَسْلِمُ لَمْ تَنْزِعْ مِنْهُ

اگر کافر کی کافرہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو جن حضرات کے نزدیک ان کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی

(۱۸۶۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةٌ الْيَهُودِيَّةُ ، أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ، لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا .

(۱۸۶۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اس کے خاوند ہونے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے۔

(۱۸۶۱۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ فِي دَارِ الْهَجْرَةِ .

(۱۸۶۱۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر خاوند اس کا زیادہ حق دار ہے جب تک وہ دونوں دارالہجرت میں ہوں۔
 (۱۸۶۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيِّرُنِ .
 (۱۸۶۱۹) حضرت عبد اللہ بن یزید خطمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں اس بارے میں لکھا تھا کہ عورتوں کو اختیار دیا جائے گا۔

(۱۸۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ .
 (۱۸۶۲۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا خاوند اس کا زیادہ حق دار ہوگا جب تک وہ عورت شہر میں ہو۔
 (۱۸۶۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقْرَأُ عَلَيَّ نِكَاحِيهِمَا .
 (۱۸۶۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح باقی رہے گا۔

(۱۸۶۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِيَةَ بِنَ فَيْصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ .
 (۱۸۶۲۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہانی بن قبیصہ شیبانی ایک عیسائی تھا، اس کے عقد میں چار عورتیں تھیں، ان سب نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم لکھا کہ وہ عورتیں اسی کے پاس رہیں گی۔

(۱۸۶۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلِهَا أَنْ يَنْزِعُوا مِنْهَا مِنْهُ ، فَتَرَحَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا .
 (۱۸۶۲۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی مرد کی عیسائی عورت نے اسلام قبول کر لیا، اس کے گھر والوں نے اسے اس کے خاوند سے آزاد کرانا چاہا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سفر کیا تو انہوں نے اس عورت کو اختیار دیا۔

(۸۶) مَنْ قَالَ إِذَا أَبِي أَنْ يُسَلِّمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

اگر کسی کافر کی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے

تو جن حضرات کے نزدیک، یہ ایک طلاق کے حکم میں ہے

(۱۸۶۲۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ بَأْنَتْ .
 (۱۸۶۲۴) حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایک طلاق بائنہ ہے۔
 (۱۸۶۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسَلِّمَ بَأْنَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ .
 (۱۸۶۲۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی اور اس کی بیوی مشرک ہوں اور بیوی اسلام قبول کر لے اور خاوند اسلام

قبول کرنے سے انکار کر دے تو عورت کو ایک طلاقِ بائنہ ہو جائے گی اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔
(۱۸۶۲۶) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ .
(۱۸۶۲۷) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قاضی کا جدائی کرنا ایک طلاق ہے۔

(۸۷) مَا قَالُوا فِيهِ ، إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا

اگر مسلمان ہونے والی عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو جن حضرات

کے نزدیک وہ رجوع کا زیادہ حقدار ہے

(۱۸۶۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةً عَكَرَ مَدَّ بِنَ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مالك ۳۶)

(۱۸۶۲۷) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے ان سے پہلے اسلام قبول کر لیا، پھر ان کی عدت میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ واپس ان کے نکاح میں چلی گئیں اور ایسا حضور ﷺ کے عہد مبارک میں ہوا تھا۔

(۱۸۶۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَةٌ .
(۱۸۶۲۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نو مسلم عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اسی کی بیوی رہے گی۔

(۱۸۶۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا .
(۱۸۶۲۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نو مسلم عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

(۱۸۶۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۶۳۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نو مسلم عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اسی کی بیوی رہے گی۔

(۱۸۶۳۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَةٌ .
(۱۸۶۳۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نو مسلم عورت کا خاوند اس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اسی کی بیوی رہے گی۔

(۱۸۶۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيْرَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۶۳۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بعد اسلام قبول کرے تو عدت کے دوران عورت کو اختیار ہوگا، یا یہ فرمایا کہ عورت کی عدت میں اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ زیادہ حق دار ہوگا۔

(۱۸۶۳۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ فَهَمَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ .

(۱۸۶۳۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے اسلام قبول کیا پھر اس کی بیوی نے اسلام قبول کیا تو ان کا عقد باقی رہے گا البتہ اگر سلطان نے ان کے درمیان جدائی کرادی ہو تو پھر عقد ختم ہو گیا۔

(۸۸) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا

(۱۸۶۳۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيْلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ .

(۱۸۶۳۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہار میں وقت نہیں ہوتا اور اس میں ایلاء داخل نہیں ہوتا خواہ وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔

(۱۸۶۳۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۱۸۶۳۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۶۳۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُؤَقَّتُ أَجْلًا قَالَ : لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعُ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكُفَّارَةِ .

(۱۸۶۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور کوئی وقت مقرر نہ کیا تو اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی خواہ وہ اس سے جماع نہ کرے، جبکہ تک کہ وہ کفارے کا انتظار کر رہا ہے۔

(۱۸۶۳۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ .

(۱۸۶۳۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔

(۱۸۶۳۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ .

(۱۸۶۳۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔

(۱۸۶۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ .

(۱۸۶۳۹) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔

(۱۸۶۷۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنَّ قَرْبَتَهَا سَنَةٌ فَبِيَّ عَلَيْهِ كَطَهْرٍ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَدْخُلُ الْإِبْلَاءُ فِي الطَّهَارِ .

(۱۸۶۳۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو ایلاء ظہار میں داخل نہیں ہوگا۔

(۱۸۶۷۱) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ فَلَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِبْلَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإِبْلَاءٍ .

(۱۸۶۳۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ اس کے لئے چار مہینے تک اس کی ماں کی پشت کی طرح ہے، اور چار مہینے گزر گئے تو یہ ایلاء ہے اور اگر یہ کہا کہ وہ اس کی ماں کی پشت کی طرح ہے اور پھر اسے ایک سال تک چھوڑے رکھا تو یہ ایلاء نہیں ہے۔

(۱۸۶۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْإِبْلَاءُ فِي طَهَارٍ ، وَلَا ظَهَارٍ فِي إِبْلَاءٍ .

(۱۸۶۳۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء ظہار میں اور ظہار ایلاء میں داخل نہیں ہوتا۔

(۸۹) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمِّي إِنْ قَرَبْتِكِ

اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۷۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الطَّهَارِ وَقْتُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّ قَرْبَتِكَ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَ مِنْهُ بِالْإِبْلَاءِ .

(۱۸۶۳۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا، تو پھر ظہار میں وقت داخل ہو سکتا ہے، اگر اس نے یہ کہا اور چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو عورت ایلاء کی وجہ سے بائعہ ہو جائے گی۔

(۱۸۶۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمِّي إِنْ قَرَبْتِكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الطَّهَارُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَ مِنْهُ بِالْإِبْلَاءِ .

(۱۸۶۳۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری

ماں کی پشت کی طرح ہے، اور اگر وہ اس کے قریب آیا تو ظہار ہو جائے گا اور اگر چار مہینے تک چھوڑے رکھا تو عورت ایلاء کی وجہ سے باندہ ہو جائے گی۔

(۱۸۶۱۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إِيْلَاءٌ .

(۱۸۶۱۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلاء ہے۔

(۱۸۶۱۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَصَاءٍ ؛ هِيَ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكَ فَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۶۱۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے اور اسے چار مہینے تک چھوڑے رکھا تو یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۶۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكَ فَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبْتُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهُوَ ظَهْرٌ ، وَقَدْ بَتَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُبْهَا حَتَّى تَمُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيْلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .

(۱۸۶۱۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے پاس آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے اور اگر وہ چار مہینے میں اس کے پاس آیا تو وہ ظہار ہے اور اگر نہ آیا تو ایلاء ہے اور عورت ایک طلاق سے باندہ ہو جائے گی۔

(۱۸۶۱۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَادٍ قَالَا : سَأَلْتَهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكَ سَنَةً فَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .

(۱۸۶۱۸) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق باندہ ہو جائے گی۔

۱۰۱ : مَا تَقَوُّوا فِي الْمُبَارَاةِ كَمَا تَكُونُ حَلَاقًا

جن حضرات کے نزدیک مباراۃ (یعنی خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا) طلاق ہے

(۱۸۶۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِصِ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَالْإِيْلَاءُ وَالْمُبَارَاةُ كَذَلِكَ .

(۱۸۶۱۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع طلاق باندہ ہے اور اسی طرح ایلاء اور مباراۃ بھی۔

(۱۸۶۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ : عَطَاءٌ : كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي

ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَاةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءُ .

(۱۸۶۵۰) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ہر وہ طلاق جس کا نکاح درست ہو جب میاں بیوی اس نکاح میں جدا ہوں گے (خواہ طلاق کا تکلم نہ کیا ہو) تو وہ ایک طلاق ہوگی، جیسے مباراۃ اور خلع وغیرہ۔

(۱۸۶۵۱) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَّغْنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَاةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ .

(۱۸۶۵۱) حضرت زہریؓ فرمایا کرتے تھے کہ مباراۃ طلاق کی سخت ترین قسم ہے، جب مرد عورت سے کوئی فدیہ لے تو یہ خلع کے درجہ میں ہے۔

(۹۱) مَنْ قَالَ كُلَّ فِرْقَةٍ تَطْلِيْقَةٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے

(۱۸۶۵۲) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : كُلُّ فِرْقَةٍ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۶۵۲) حضرت سعید بن مسیبؓ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے۔

(۱۸۶۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فِرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ .

(۱۸۶۵۳) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جدائی جو مردوں کی طرف سے آئے، طلاق ہے۔

(۱۸۶۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فِرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ .

(۱۸۶۵۴) حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے۔

(۱۸۶۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فِرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۶۵۵) حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے۔

(۱۸۶۵۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فِرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ .

(۱۸۶۵۶) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق ہے۔

(۱۸۶۵۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فِرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنٌ .

(۱۸۶۵۷) حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۶۵۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيْسَ كُلُّ فِرْقَةٍ طَلَاقًا .

(۱۸۶۵۸) حضرت طاووسؓ فرماتے ہیں کہ ہر جدائی طلاق نہیں ہے۔

(۹۲) مَا قَالُوا فِي الْأُمَّةِ تَعْتَقُ تَخِيرٌ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر کسی باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا جائے اور وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۵۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا : اِذَا كَانَتِ الْأُمَّةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، كَانَتْ فُرْقَةً بَغَيْرِ طَلَاقٍ .

(۱۸۶۵۹) حضرت ابراہیم، حضرت طاووس اور حضرت عامر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باندی کسی آزاد شخص کے نکاح میں ہو، اس باندی کو آزاد کیا جائے اور وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو یہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔

(۱۸۶۶۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادِ (ح) وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : اِذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فُرْقَةٌ بَغَيْرِ طَلَاقٍ .

(۱۸۶۶۰) حضرت حماد بن عیسیٰ اور حضرت ابراہیم بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کو آزاد کیا گیا پھر اسے اختیار دیا گیا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو یہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔

(۱۸۶۶۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنٌ .

(۱۸۶۶۱) حضرت حسن بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہے۔

(۱۸۶۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنٌ .

(۱۸۶۶۲) حضرت محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو یہ طلاق بائن ہے۔

(۹۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ اِنْ شِئْتَ فَانْتِ طَالِقٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : اِنْ شِئْتَ فَانْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : اِنْ شِئْتَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَاِنْ لَمْ تَشَأْ فَلَا شَيْءَ .

(۱۸۶۶۳) حضرت ابراہیم بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے تو اگر وہ چاہے تو طلاق ہوگی اور اگر نہ چاہے تو طلاق نہیں ہوگی۔

(۱۸۶۶۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتَ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ اَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وَاِذَا قَالَ : اِنْ شِئْتَ طَلَقْتُكَ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، قَالَ : اِنْ شِئْتَ لَمْ يُطَلَّقْهَا .

(۱۸۶۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے تو اگر عورت نے کہا کہ میں نے طلاق کو چاہ لیا تو اسے ایک طلاق ہو جائے گی اور مرد کو رجوع کا حق ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاق دے دوں اور اس نے کہا کہ میں نے چاہ لیا تو اگر مرد چاہے تو طلاق دے دے۔

(۹۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ، مَا يَكُونُ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنَّ لَعَلَّتْ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَفَعَلْتُهُ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَأَنْتَ مَعَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۶۶۵) حضرت عروہ بن فائد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں فلاں کام کرے تو میری بیوی نہیں ہے، اس عورت نے وہی کام کیا، پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس آئی انہوں نے فرمایا کہ جو نیت کی تھی وہ واقع ہو گیا، پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت ابو عبد اللہ جدلی کے پاس گئی انہوں نے بھی فرمایا کہ جو نیت کی ہے وہ واقع ہو گیا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے۔

(۱۸۶۶۶) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ : إِنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ .

(۱۸۶۶۶) حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے کہا کہ حججاج اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو ایک طلاق ہو جائے گی، یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بہت بعید از قیاس بات ہے۔

(۱۸۶۶۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتَ لِي بِامْرَأَةٍ مَرَارًا ، وَهُوَ غَضْبَانٌ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَا أَرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ .

(۱۸۶۶۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کئی مرتبہ غصے کی حالت میں کہے کہ تو میری بیوی نہیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں وہ طلاق کا ارادہ کر کے ہی اس حد کو پہنچ سکتا ہے۔

(۱۸۶۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِي رَجُلٌ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : مَا نَوَى .

(۱۸۶۶۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

(۱۸۶۶۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : لَسْتُ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَا : كَذْبَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ .

(۱۸۶۶۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو یہ جھوٹ ہے اور یہ کچھ نہیں۔

(۱۸۶۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلَاقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۶۷۰) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اس کی طرف منہ کر کے کہا اور طلاق کا ارادہ کیا تو ایک طلاق ہو جائے گی۔

(۹۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَلَكِ امْرَأَةٌ ؟ وَ لَهْ امْرَأَةٌ ، فَيَقُولُ لَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اگر ایک صاحب زوجہ شخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہے

نہیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكِ امْرَأَةٌ ؟ وَ لَهْ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَذْبَةٌ كَذَبَهَا .

(۱۸۶۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ شخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہے نہیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔

(۱۸۶۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسْأَلُ : أَلَكِ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا .

(۱۸۶۷۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ شخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہے نہیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔

(۱۸۶۷۳) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِيَارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ .

(۱۸۶۷۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔

(۱۸۶۷۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۶۷۴) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں۔

(۱۸۶۷۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ .

(۱۸۶۷۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔

(۹۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ طَلَّقَتْ امْرَأَتَكَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ

اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں

حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَصْعُقُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ .

(۱۸۶۷۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۶۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ طَلَّقْتَ .

(۱۸۶۷۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق ہو گئی۔

(۱۸۶۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : كَذِبَةٌ .

(۱۸۶۷۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا۔

(۹۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلَاثًا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک لفظ میں طلاق دی اور تین کی نیت کی تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۶۷۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُرْمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلَا نِيَّةَ فِيهِ .

(۱۸۶۷۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت مخفی چیزوں میں ہوتی ہے ظاہر چیزوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

(۱۸۶۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۶۸۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور نیت تین کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۱۸۶۸۱) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .
(۱۸۶۸۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق ہوگی۔

(۱۸۶۸۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱۸۶۸۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے اور ہاتھ سے تین کا اشارہ کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۱۸۶۸۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ .

(۱۸۶۸۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے سوال کیا گیا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے انگلی سے چار کا اشارہ کیا اور کوئی بات نہ کی تو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔

(۹۸) مَنْ قَالَ اللَّعَانَ تَطْلِيقَةٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق ہے

(۱۸۶۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
(۱۸۶۸۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۶۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
(۱۸۶۸۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۶۸۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الْمُلَاعِنَةُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

(۱۸۶۸۶) حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا لعان کرنے والا تین طلاقیں دینے والے سے زیادہ شدید حکم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

(۱۸۶۸۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلَاعِنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ .
(۱۸۶۸۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعان سنگسار کرنے سے زیادہ سخت چیز ہے۔

(۹۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَةً، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں، پھر اس سے شادی کر لی تو اب اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟

(۱۸۶۸۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(۱۸۶۸۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بحرین کے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دی تھیں، پھر اس عورت نے شادی کی اور اس کے دوسرے خاوند نے بھی اسے طلاق دے دی، پھر پہلے خاوند نے اس سے نکاح کیا تو اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس باقی ماندہ طلاق کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۸۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَسَّانٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(۱۸۶۸۹) حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے پاس باقی ماندہ طلاق کا حق رہے گا۔

(۱۸۶۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَبَيَّنَ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَيَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ.

(۱۸۶۹۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں، پھر وہ بائند ہو گئی اور پھر کسی آدمی نے اس سے شادی کر کے اسے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اور پھر پہلے آدمی نے اس سے شادی کر لی تو اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق باقی رہے گا؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باقی ماندہ طلاقوں کا جبکہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیا نکاح اور نئی طلاق ہے۔

(۱۸۶۹۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ،

وَمُعَاذٌ ، يَقُولُونَ : تَرْجِعْ إِلَيْهِ عَلَيَّ مَا بَقِيَ .

(۱۸۶۹۱) حضرت عمر، حضرت ابی، حضرت ابودرداء اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔

(۱۸۶۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَهْدِمُ الزَّوْاجُ ، إِلَّا الثَّلَاثَ .

(۱۸۶۹۳) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ شادی کے رشتے کو تین طلاقیں ہی ختم کرتی ہیں۔

(۱۸۶۹۲) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَيَّ مَا بَقِيَ .

(۱۸۶۹۳) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۹۴) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي قَالَ : عَلَيَّ مَا بَقِيَ .

(۱۸۶۹۳) حضرت ابیؓ فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذٌ ، وَزَيْدٌ ، وَأَبِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَيَّ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .

(۱۸۶۹۵) حضرت عمر، حضرت معاذ، حضرت زید، حضرت ابی اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۹۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيَّ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .

(۱۸۶۹۶) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

(۱۰۰) مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَيَّ طَلَاقٍ جَدِيدٍ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاقِ جدید کا حق ہوگا

(۱۸۶۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَيَّ طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ .

(۱۸۶۹۷) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاقِ جدید کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسَفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : هِيَ عِنْدَهُ عَلَيَّ طَلَاقٍ جَدِيدٍ .

(۱۸۶۹۸) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاقِ جدید کا حق ہوگا۔

(۱۸۶۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَ .

(۱۸۶۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نئے عقد کی صورت میں عورت تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

(۱۸۷۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثَّانِيَةَ ، يَعْنِي طَلَاقًا جَدِيدًا .

(۱۸۷۰۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ تین طلاقیں نئی طلاق کا حق دلو اسکتی ہیں تو ایک اور دو طلاقیں کیوں نہیں دلو اسکتیں؟

(۱۸۷۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثَّانِيَةَ .

(۱۸۷۰۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ تین طلاقیں نئی طلاق کا حق دلو اسکتی ہیں تو ایک اور دو طلاقیں کیوں نہیں دلو اسکتیں؟

(۱۸۷۰۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثَّانِيَةَ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، إِلَّا عَبْدَةً فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ مَا بَقِيَ .

(۱۸۷۰۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے جبکہ حضرت عبیدہ فرماتے تھے کہ مرد کے پاس صرف باقی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔ ایک اور دو طلاقیں نئی طلاق کا حق دلو اسکتی ہیں جس طرح تین طلاقیں نئی طلاق کا حق دلواتی ہیں۔

(۱۸۷۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُرَيْحٍ قَالَ : عَلَيَّ طَلَاقٌ جَدِيدٌ ، وَعَلَيَّ نِكَاحٌ جَدِيدٌ .

(۱۸۷۰۳) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نئی طلاق اور نئے نکاح کے ساتھ واپس آئے گی۔

(۱۸۷۰۴) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَيَّ طَلَاقٌ جَدِيدٌ .

(۱۸۷۰۴) حضرت میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نئی طلاق کے ساتھ واپس آئے گی۔

(۱۸۷۰۵) حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً

فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْأَوَّلِ ، عَلَيَّ كَمْ

هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَيَّ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ . قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ

بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَيَّ كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ مَا بَقِيَ .

قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى

زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَيَّ كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ ثَلَاثٌ .

(۱۸۷۰۵) حضرت رجاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قبیسہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی

اور وہ بانٹہ ہوگئی، اس نے عدت پوری کی اور کسی مرد سے شادی کر لی، اس نے اس سے دخول کیا پھر وہ مر گیا یا اس کو طلاق دے دی، یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ، میں نے سوال کیا کہ اگر اس نے اسے دوسری مرتبہ طلاق دی، وہ بانٹہ ہوگئی، پھر اس نے کسی آدمی سے نکاح کیا، اس نے اس سے دخول کیا اور پھر وہ مر گیا یا اسے طلاق دے دی، یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ، میں نے کہا کہ اس نے پھر طلاق دے دی، اس نے عدت کے بعد کسی اور مرد سے شادی کر لی، اس نے اس سے دخول کیا اور پھر اسے طلاق دے دی یا مر گیا یہ عورت پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقوں کے ساتھ۔

(۱۸۷۰۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : اِنْ دَخَلَ بِهَا فَاِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ .
(۱۸۷۰۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دخول کیا تو تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی اور اگر دخول نہ کیا تو باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

(۱۰۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ اِذَا حَمَلَتْ فَاَنْتِ طَالِقٌ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۷۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهَرَ ، لِاِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَ .

(۱۸۷۰۷) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا جب تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو آدمی کو چاہئے کہ ہر طہر میں اس سے جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ دوبارہ حیض آنے کے بعد پاک ہو جائے، جب اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ بانٹہ ہو جائے گی۔

(۱۸۷۰۸) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ اَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ اَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : اِذَا حَمَلَتْ فَاَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا اِذَا طَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا اِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ .

(۱۸۷۰۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو وہ عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد اس سے جماع کرے اور پھر رک جائے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے حمل کے ظاہر ہونے تک اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۰۲) مَا قَالُوا فِي الْمُجُوسِيِّينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ

اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۷۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْخِطْبَةِ .

(۱۸۷۰۹) حضرت حسن، حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو مرد کو بغیر نئے سرے سے پیغام نکاح کے عورت پر کوئی حق نہیں رہا۔

(۱۸۷۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُجُوسِيِّينَ إِذَا أَسْلَمَ فَهِيَ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .

(۱۸۷۱۰) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح ختم ہو گیا۔

(۱۸۷۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ .

(۱۸۷۱۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۷۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : يَبْتُ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُجُوسِ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ .

(۱۸۷۱۲) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ مشرک مرد و عورت اگر اسٹھے اسلام قبول کر لیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا اور اگر ایک اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ حکم مجوسیوں اور مشرکوں کا ہے اہل کتاب کا نہیں۔

(۱۸۷۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمُجُوسِيِّينَ : إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۸۷۱۳) حضرت حکمؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۱۰۳) قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِعَبٍّ ، وَقَالَ هُوَ لَهُ لَازِمٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق اور غلام کو آزاد کرنے میں مزاح نہیں ہوتا، یہ لازم ہو جاتے ہیں

(۱۸۷۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ ،

وَالْعَتَاقُ، وَالطَّلَاقُ.

(۱۸۷۱۳) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: نکاح، عتاق اور طلاق

(۱۸۷۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُهَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعُ جَائِزَاتٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ .

(۱۸۷۱۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہر حال میں نافذ ہو جاتی ہیں: غلام کی آزادی، طلاق، نکاح اور نذر

(۱۸۷۱۶) حَدَّثَنَا وَرَيْحٌ ، عَنْ أَبِي كَبْرَانَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ؛ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ .

(۱۸۷۱۶) حضرت صحاح رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں مزاح نہیں ہوتا: طلاق، نکاح اور نذر

(۱۸۷۱۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَهْجَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقْلَمْتُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُقِيلُوهُمْ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ .

(۱۸۷۱۷) حضرت عمرو بن مہاجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبدالملک رضی اللہ عنہم نے خط میں لکھا تھا کہ تم بے وقوفوں کی سب باتوں کو معاف کر دو لیکن طلاق اور غلام کی آزادی میں انہیں چھوٹ نہ دو۔

(۱۸۷۱۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ .

(۱۸۷۱۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: نکاح، طلاق اور آزادی

(۱۸۷۱۹) حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيَعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ ابْنِي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ . (طبری ۳۸۲ - طبرانی ۷۸۰)

(۱۸۷۱۹) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مزاح کر رہا تھا، غلام کو آزاد کرتا تھا اور رجوع کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مزاح کر رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے طلاق دی، غلام کو آزاد کرایا، نکاح کرایا یا نکاح کیا اور پھر کہا کہ میں تو مزاح کر رہا تھا یہ چیزیں پھر بھی نافذ ہو جائیں گی۔

(۱۸۷۲۰) حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبِ الْمُحَارَبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَهْمَا أَقْلَمْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلَا تَقْلَهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ .

(۱۸۷۲۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا کہ بے وقوفوں کی ہر غلطی کو معاف کر دو لیکن غلام کی آزادی اور طلاق دینے کو معاف نہ کرو۔

(۱۸۷۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: الْإِعْتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ (۱۸۷۲۱) حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: عتاق، طلاق اور نکاح

(۱۰۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں طلاق دینے کا حکم

(۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: بَهْشْتَمُ، قَالَ: تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۷۲۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ”بہشتم“ کہا تو ایک طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۷۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ حَائِزٌ.

(۱۸۷۲۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عجمی شخص کا اپنی زبان میں طلاق دینا جائز ہے۔

(۱۸۷۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شَهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ: يَلْزَمُهُ.

(۱۸۷۲۴) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فارسی میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: بَهْشْتَمُ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.

(۱۸۷۲۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ”بہشتم“ کہا تو ایک طلاق ہو جائے گی۔

(۱۸۷۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: بَهْشْتَمُ، بَهْشْتَمُ، قَالَ: قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، ذَهَبَتْ مِنْهُ.

(۱۸۷۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی زبان میں بیوی کو ”بہشتم، بہشتم، بہشتم“ کہا تو طلاق ہو جائے گی۔

(۱۰۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ؟

آدمی کے لئے اپنی بیوی کو خلع کا کہنا کب درست ہے؟

(۱۸۷۲۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي فَلَانَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾.

(۱۸۷۲۷) حضرت ابو قلابہ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے بیوی کو خلع کا کہنا اس وقت تک مناسب نہیں جب تک وہ اس کے پیٹ پر کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾۔

(۱۸۷۲۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنْ أَمْرَائِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ ، وَلَا تَبْرَأَ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ قَبْلِهَا شَيْءٌ ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَمَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثْنَا حَكَمَيْنِ : حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا .

(۱۸۷۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے صرف اتنی بات پر بیوی سے خلع کا فدیہ لینا درست نہیں کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے اور اس کی قسم کو پورا نہ کرے، البتہ اگر وہ ایسا کر لے تو اس کے لئے فدیہ حلال ہے، اگر خاندان فدیہ قبول کرنے سے انکار کرے اور عورت اطاعت سے انکار کرے تو دونوں فیصلے کے لئے دو آدمی مقرر کریں ایک عورت کے گھر والوں سے ایک مرد کے گھر والوں سے۔

(۱۸۷۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَيَكِدْ عَلَيْهَا .

(۱۸۷۲۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند کو ناپسند کرے تو آدمی اس سے فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے۔

(۱۸۷۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَيْرِيِّ ، قَالَ : يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أُغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَتِي ، وَلَا أَبْرَأُ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا .

(۱۸۷۳۰) حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے عورت سے خلع کرنا اس وقت اچھا ہے جب وہ کہے کہ میں نہ تو تمہارے لئے غسل جنابت کروں گی نہ تو تمہاری قسم پوری کروں گی اور نہ تمہارے حکم کی اطاعت کروں گی۔

(۱۸۷۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أُغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَتِي ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَكْرُمُ نَفْسًا .

(۱۸۷۳۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے عورت سے اس وقت علیحدگی کرنا درست ہے جب عورت کہے کہ میں نہ تو تمہارے لئے غسل جنابت کروں گی، نہ تمہاری بات مانوں گی، نہ تمہاری قسم پوری کروں گی اور نہ کسی کا اکرام کروں گی۔

(۱۸۷۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَدِيْمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إِذَا عَصْتِكَ ، وَآذَنْتَكَ .

(۱۸۷۳۲) حضرت مقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہیں تکلیف دے یا تمہاری نافرمانی کرے تو تم اس سے قطع تعلق کر لو۔

(۱۸۷۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : (لَا جُنَاحَ) قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إِذَا قَالَتْ : لَا أُغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَتِي .

(۱۸۷۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ آیت خلع کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت مناسب ہے جب عورت کہے کہ میں تمہارے لئے غسل جنابت نہیں کروں گی۔

(۱۸۷۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدِ السَّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ قَالَ : إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا .

(۱۸۷۳۳) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت ایسا کرے تو مرد کے لئے فدیہ لینا درست ہے۔

(۱۸۷۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا آتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ .

(۱۸۷۳۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر برے تعلقات کا سبب عورت ہو تو مرد کے لئے خلع کرنا درست ہے۔

(۱۸۷۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا كَانَ التَّشْوِزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .

(۱۸۷۳۶) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر برے تعلقات کا سبب عورت ہو تو مرد کے لئے فدیہ لینا درست ہے۔

(۱۸۷۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفُسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبْرُ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَعْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .

(۱۸۷۳۷) حضرت عروہ رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ فدیہ اس وقت تک درست نہیں جب تک فساد عورت کی طرف سے نہ ہو، وہ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ فدیہ اس وقت تک درست نہیں جب تک عورت یہ نہ کہے کہ میں تیری قسم کو پورا نہیں کروں گی اور تیرے لئے غسل جنابت نہ کروں گی۔

(۱۸۷۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ : ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَعْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فِيمَا اقْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .

(۱۸۷۳۸) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت طاووس فرمایا کرتے تھے کہ خلع میں فدیہ اس وقت تک درست ہے جب تک دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، صرف اتنی بات پر فدیہ درست نہیں ہوتا کہ عورت کہے کہ میں تیرے لئے غسل جنابت نہ کروں گی، بلکہ اصل بنیاد اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھنا ہے، اللہ کی حدود دونوں پر مقرر کی گئی ہیں جیسے اچھا سلوک اور صحبت۔

(۱۸۷۳۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِرَجُلٍ جَهَا ، لَا أَعْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبْرُ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمَسِّكُهَا .

(۱۸۷۳۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے عورت کے اس جملے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے لئے غسل جنابت نہیں کروں گی اور تیری قسم کو بھی پورا نہیں کروں گی اور تیری بات بھی نہیں مانوں گی، انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں اسے اپنے پاس ہی رکھے۔

(۱۸۷۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُنِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قَالَ: مَا أَفْتِرِضُ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

(۱۸۷۴۰) حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد حسن سلوک اور صحبت ہیں۔

(۱۸۷۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ أَبِي بَامِرَةَ نَاشِئًا، فَقَالَ لِرُؤُوسِهِمَا: اِخْلَعُوهَا. (۱۸۷۴۱) حضرت کثیر مولیٰ ابن سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسی عورت کا مقدمہ لایا گیا تو جو اپنے شوہر کی نافرمان تھی، آپ نے اس کے شوہر سے فرمایا کہ اس سے خلع کر لو۔

(۱۸۷۴۲) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَجِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِئِ.

(۱۸۷۴۲) حضرت زہری، عطاء اور عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع صرف نافرمان بیوی سے کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰۶) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ، كَمَا يَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ؟

خلع کتنی طلاقوں کے قائم مقام ہے؟

(۱۸۷۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمُهَانَ، أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً، وَمَا سَمَى.

(۱۸۷۴۳) حضرت جہان رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک طلاق قرار دیا۔

(۱۸۷۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمُهَانُ الْأَسْلَمِيَّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَلَاكِرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمِيَّتَ شَيْئًا، فَهُوَ عَلَى مَا سَمِيَّتَ. (شافعی ۱۶۵۔ بیہقی ۳۱۶)

(۱۸۷۴۴) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہان اسلمی رضی اللہ عنہا نے ایک عورت سے خلع کیا، پھر دونوں کو افسوس ہوا، دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک طلاق ہے، البتہ اگر طلاق کی تعداد مقرر کر دو تو وہ مقرر کردہ کے

مطابق ہے۔

(۱۸۷۴۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمُهَانَ ، عَنْ عُمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقٌ .

(۱۸۷۴۵) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق ہے۔

(۱۸۷۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقًا بَائِنَةً .

(۱۸۷۴۶) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد خلع کو ایک طلاق قرار دیتے تھے۔

(۱۸۷۴۷) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقًا . (عبدالرزاق ۱۱۷۵۸)

(۱۸۷۴۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خلع کو ایک طلاق قرار دیا۔

(۱۸۷۴۸) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۴۸) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق ہے۔

(۱۸۷۴۹) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، وَابْنُ عَيْنَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا تَكُونُ تَطْلِيقًا بَائِنَةً ، إِلَّا فِي فِدْيَةٍ ، أَوْ إِبْلَاءٍ ، إِلَّا أَنْ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ .

(۱۸۷۴۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق بائنہ صرف خلع اور ایلاء میں ہوتی ہے۔

(۱۸۷۵۰) حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ . (ح) وَعَطَاءٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

قَالُوا : الْخُلْعُ تَطْلِيقٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۰) حضرت ابراہیم ، حضرت عامر ، حضرت عطاء اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقٌ بَائِنَةٌ ، وَالْإِبْلَاءُ وَالْمُبَارَاةُ كَذَلِكَ .

(۱۸۷۵۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے اور ای طلاق ایلاء اور مبارات بھی۔

(۱۸۷۵۲) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . (ح) وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛

فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالًا : أَخْذَهُ الْمَالَ تَطْلِيقًا بَائِنَةً .

(۱۸۷۵۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ

عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ اخْتَارَتْهُ .

(۱۸۷۵۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے خواہ عورت خود اختیار کرے۔

(۱۸۷۵۴) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بِنُ ذُوَيْبٍ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ .

(۱۸۷۵۳) حضرت قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق ہے، اگر عورت چاہے تو نئے مہر پر نکاح کر لے۔

(۱۸۷۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ خلع جس کا عوض لیا گیا وہ ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۵۹) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۶۰) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : فِي قِرَائَةِ أَبِي : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۶۰) حضرت ابی ثور رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۶۱) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلُّ مُقَدَّبَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ .

(۱۸۷۶۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت جس کے نفس کا فدیہ دیا گیا ہو وہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے، وہ اپنی

مرضی سے ہی پہلے خاندان کی طرف لوٹ سکتی ہے۔

(۱۸۷۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ .

(۱۸۷۶۲) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۶۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُسْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .

(۱۸۷۶۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۷۶۴) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

(۱۸۷۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اسْتَرَكْتُ عَلَيْهِ مِنْ

الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا.

(۱۸۷۶۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے، اور اگر عورت نے کسی طلاق کی شرط لگائی تو وہ بھی ہو جائے گی۔

(۱۰۷) مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا

جو حضرات خلع کو طلاق نہیں سمجھتے

(۱۸۷۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ آيَةِ ، وَفِي آخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ اللَّهُ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴾ .

(۱۸۷۶۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع صرف جدائی اور فسخ نکاح ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آیت کے شروع اور آخر میں تذکرہ فرمایا ہے درمیان میں خلع کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة ۲۲۹]

(۱۰۸) مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلَعَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟

خلع یافتہ عورت کی عدت

(۱۸۷۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ .

(۱۸۷۶۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کی عدت مطلقہ کی طرح ہے۔

(۱۸۷۶۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ ، وَهُوَ أَوْلَى بِحِطَّتِهَا فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۷۶۸) حضرت عروہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض تک عدت گزارے گی اور خلع کرنے والا خاوند عدت میں پیام نکاح کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۷۶۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهَشِيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ .

(۱۸۷۶۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان ہونے والی ہر جدائی میں عدت طلاق یافتہ عورت کی عدت

جیسی ہوگی۔

(۱۸۷۷۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ .

(۱۸۷۷۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

(۱۸۷۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاثٌ حَيْضٍ .

(۱۸۷۷۱) حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض عدت گزارے گی۔

(۱۸۷۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاثٌ قُرُوءٍ .

(۱۸۷۷۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۸۷۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ،

عِدَّةُ الْمُطَلَّغَةِ .

(۱۸۷۷۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ کی عدت طلاق یافتہ کی عدت کے برابر ہے۔

(۱۸۷۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخَلَّاسٍ ، قَالُوا : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ

عِدَّةُ الْمُطَلَّغَةِ ، وَعِدَّةُ الْمَلَاعِنَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّغَةِ .

(۱۸۷۷۴) حضرت سعید، ابو عیاض اور خلّاس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ اور لعان کردہ عورت کی عدت مطلقہ کی عدت کی

طرح ہے۔

(۱۸۷۷۵) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ،

وغيرِهِم ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّغَةِ : ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ .

(۱۸۷۷۵) بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ کی عدت طلاق یافتہ کی طرح تین حیض ہے۔

(۱۰۹) مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

جن حضرات کے نزدیک خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے

(۱۸۷۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ .

(۱۸۷۷۶) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۸۷۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ .

(۱۸۷۷۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۸۷۷۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرَّبِيعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ

زَوْجِهَا ، فَاتَى عُمَماً فَقَالَ : تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ : تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُ ثَلَاثَ حَيْضٍ ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يَقْتَبِي بِهِ وَيَقُولُ : خَيْرٌ نَا وَأَعْلَمْنَا .

(۱۸۷۷۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے خلع لے لی، ان کے چچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے گی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے پہلے خلع یافتہ کی عدت تین حیض ہونے کے قائل تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے بعد ایک حیض کے عدت ہونے کے قائل ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہم سے بہتر اور ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔

(۱۸۷۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، فَضَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولٍ .

(ابوداؤد ۲۲۰۶۵۵۲۔ عبد الرزاق ۱۱۸۵۸)

(۱۸۷۷۹) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ بنت سلول رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا۔

(۱۸۷۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ . (۱۸۷۸۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۸۷۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ أَنَّ الرُّبَيْعَ اخْتَلَعَتْ فَأَمْرَتْ بِحَيْضَةٍ .

(۱۸۷۸۱) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے خلع لی اور پھر ایک حیض عدت گزارنے کا انہیں حکم دیا گیا۔

(۱۱۰) مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيَّنَ تَعْتَدُ ؟

خلع یافتہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟

(۱۸۷۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، لِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا .

(۱۸۷۸۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی تاکہ اگر وہ چاہے تو رجوع کرے۔

(۱۸۷۸۲) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيْعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَاتَى مَعُودٌ

عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: اَتَسْقِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَسْقِلُ.

(۱۸۷۸۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن جہنم نے اپنے خاوند سے خلع لی تو (ربیع کے والد) حضرت معوذ بن جہنم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ کیا وہ ہاں سے منتقل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ اس گھر سے منتقل ہو سکتی ہیں۔

(۱۱۱) مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ؟

کیا سلطان کی مداخلت کے بغیر خلع ہو سکتی ہے؟

(۱۸۷۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْمَةَ، قَالَ: أُتِيَ بِبَشْرِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَلَمْ يُجِزْهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِهَابِ بْنِ خَوْلَانَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَأَجَازَهُ.

(۱۸۷۸۴) حضرت خیمہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان کے پاس میاں بیوی کے درمیان خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا، بشر نے اس کی اجازت نہ دی، تو حضرت عبداللہ بن شہاب بن خولانی رضی اللہ عنہ نے بشر سے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا، ان کے پاس خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی۔

(۱۸۷۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ. (۱۸۷۸۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے سلطان کی مداخلت کے بغیر خلع کی اجازت دی ہے۔

(۱۸۷۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ؛ أَنَّ عَمَّاهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، دُونَ عُثْمَانَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.

(۱۸۷۸۶) حضرت نافع بن شیبہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ کے چچا نے انہیں ان کے خاوند سے خلع لے کر دی، ان کا خاوند شراب پیا کرتا تھا، یہ خلع انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مداخلت کے بغیر لی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے جائز قرار دیا۔

(۱۸۷۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ. (۱۸۷۸۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع سلطان کے بغیر بھی جائز ہے۔

(۱۸۷۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ. (۱۸۷۸۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع سلطان کے بغیر بھی جائز ہے۔

(۱۸۷۸۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا رُفِعَ

إِلَى السُّلْطَانِ أَجَازَةً.

(۱۸۷۸۹) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس بغیر سلطان کے خلع کیا کرتے تھے، جب معاملہ سلطان کے پاس پیش ہوتا تو وہ بھی اس کی اجازت دے دیتے۔

(۱۱۲) مَنْ قَالَ هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ

جن حضرات کے نزدیک خلع کے لئے سلطان کے پاس جانا ضروری ہے

(۱۸۷۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ .

(۱۸۷۹۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع سلطان کے پاس ہی ہوگی۔

(۱۸۷۹۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، فِي الْمُخْتَلَعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِئًا ، أَمْرُهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ .

(۱۸۷۹۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ خلع لینے والی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت نافرمان ہو تو سلطان مرد کو خلع کا حکم دے گا۔

(۱۱۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مَنْ قَالَ يُلْحِقُهَا الطَّلَاقُ

اگر ایک آدمی خلع کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے تو جن حضرات کے نزدیک طلاق نافذ

ہو جائے گی

(۱۸۷۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الْيَتِيمِ تَقْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا .

(۱۸۷۹۲) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَصَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلَعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۷۹۳) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الصَّحَّاحِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يُلْحِقُهَا .

(۱۸۷۹۳) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد طلاق کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے، ایک فرماتے ہیں کہ اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ دوسرے فرماتے ہیں کہ عدت میں طلاق موثر ہوگی۔

(۱۸۷۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ .

(۱۸۷۹۵) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۷۹۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۹۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَطْلُقُهَا ، قَالَ : أَخَذَهُ الْمَالُ تَطْلِيقًا ، وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقًا .

(۱۸۷۹۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کرنے کے بعد اگر عورت کو طلاق دی تو آدمی کا مال لینا ایک طلاق ہے اور طلاق کا کہنا دوسری طلاق ہے۔

(۱۸۷۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَخَلَّاسٍ قَالَا : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۷۹۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت خلاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۷۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا اتَّبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۷۹۹) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے، خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

(۱۸۸۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَطْلُقُهَا ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا .

(۱۸۸۰۰) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی خلع کے بعد اپنے بیوی کو طلاق دے دے تو یہ اسے بیوی سے اور زیادہ دور کرنے والی چیز ہے۔

(۱۸۸۰۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُورِجٍ ، قَالَ : يَلْزِمُ الْمُطَلَّاقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۸۸۰۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۸۸.۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارَى زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. قَالَ سُفْيَانُ: نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.

(۱۸۸.۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خلع کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۸۸.۳) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمُخْتَلَعَةِ، قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ.

(۱۸۸.۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہو جاتی ہے۔

(۱۱۴) مَنْ قَالَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

جن حضرات کے نزدیک خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

(۱۸۸.۴) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ. (۱۸۸.۴) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

(۱۸۸.۵) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بِإِنْتَاءٍ.

(۱۸۸.۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

(۱۸۸.۶) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمُخْتَلَعَةِ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بِإِنْتَاءٍ.

(۱۸۸.۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، خواہ عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۸۸.۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، خواہ عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸.۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُوسٍ قَالَا: إِذَا خَلَعَ تَمَّ طَلَقٌ، لَمْ يَقَعُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۸.۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

(۱۸۸۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يُلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا .
(۱۸۸۰۹) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، خواہ عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَابْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
(۱۸۸۱۰) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ثوبان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خلع کی مجلس میں طلاق دی تو واقع ہوئی درنہیں۔

(۱۱۵) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ ، أَمْ لَا ؟

خلع لینے والی عورت کا نفقہ عدت کے دوران مرد پر لازم ہوگا یا نہیں؟

(۱۸۸۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۸۱۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۸۱۲) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَطْرِفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْهُ .

(۱۸۸۱۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا کیونکہ اگر وہ چاہے تو عدت میں اپنے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔

(۱۸۸۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَادٍ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ .

(۱۸۸۱۳) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا۔

(۱۸۸۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا وَهِيَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟

(۱۸۸۱۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا خلع لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر کیسے خرچ کر سکتا ہے حالانکہ مرد نے عورت سے پیسے وصول کئے ہیں۔

(۱۸۸۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً .

(۱۸۸۱۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خلع لینے والی عورت کے لئے اور اس عورت کے لئے جسے تین طلاقیں دی جا چکی

ہوں رہائش اور نفقہ نہیں ہے۔

(۱۸۸۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُزَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِنَةِ نَفَقَةٌ .
(۱۸۸۱۶) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی اور نکاح سے فارغ ہو جانے والی عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

(۱۱۶) مَا قَالُوا فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

خلع لینے والی عورت کے متعہ کے بارے میں علماء کی آراء

(۱۸۸۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لِلْمَمْلُوكَةِ ، وَالْمُخَيَّرَةِ ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، مُتْعَةٌ .
(۱۸۸۱۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس عورت کو اس کے معاملے کا مالک بنا دیا گیا ہو، یا اسے اختیار دے دیا گیا ہو یا اس نے خلع لی ہو، ایسی عورت کو متعہ ملے گا۔

(۱۸۸۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ .
(۱۸۸۱۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو متعہ ملے گا۔

(۱۸۸۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ ، كَيْفَ يُمْتَعَهَا وَهِيَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟
(۱۸۸۱۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو متعہ بھی نہیں ملے گا، وہ اسے کیسے متعہ دے حالانکہ وہ اس سے مال لے رہا ہے۔

(۱۸۸۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّاقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ .
(۱۸۸۲۰) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کے علاوہ ہر طلاق یافتہ کے لئے متعہ ہے۔

(۱۸۸۲۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ .
(۱۸۸۲۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کے لئے متعہ نہیں ہے۔

(۱۱۷) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَّوْجَهَا أَنْ يَرَا جَعَهَا ؟

خلع یافتہ عورت کا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَيْعَةِ مَهْرٍ كَانَتْ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَا هَانَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوْزٍ مِنَ الْمَاءِ .
(۱۸۸۲۲) حضرت حبيب بن مهران رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت نے

اپنے خاوند سے باقی ماندہ مہر کے عوض خلع کی تو کیا وہ رجوع کر سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر طلاق کا ذکر نہ کیا ہو نئے مہر کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ماہان رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں خواہ پانی کی ایک صراحی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعَيْبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ حَاطِبٌ مِنَ الْخُطَابِ .

(۱۸۸۲۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کو کسی عوض کے بدلے ایک طلاق دے دی تو وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا، بلکہ پیام نکاح بھجوائے گا۔

(۱۸۸۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : صَاحِبُهَا أَوْلَىٰ بِخَطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ (۱۸۸۲۳) حضرت ہشام رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ خلع یافتہ عورت کا خاوند عدت کے دوران پیام نکاح بھجوانے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۸۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، إِلَّا بِخُطْبَةٍ .

(۱۸۸۲۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مرد نے عورت کو خلع کے ذریعے طلاق دی، پھر دونوں کو ندامت ہوئی، جبکہ عورت اپنی عدت میں ہو تو وہ پیام نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔

(۱۸۸۲۶) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَنْزَوُجُهَا بِأَقْلٍ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا . (۱۸۸۲۶) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو کچھ آدمی نے بیوی سے لیا ہے اس سے کم پر نکاح نہیں کر سکتا۔

(۱۸۸۲۷) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجَهَا الْفُدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : يَنْزَوُجُهَا وَيُسَمَّى لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا .

(۱۸۸۲۷) حضرت ميمون بن مهران رضی اللہ عنہما شامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر خاوند نے اس سے فدایہ قبول کر لیا پھر اس کے بعد پیام نکاح بھجوا یا تو وہ شادی کر سکتا ہے لیکن نیا مہر مقرر کرے گا۔

(۱۸۸۲۸) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مَرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ . (دارقطنی ۲۷۶۔ بیہقی ۳۱۳)

(۱۸۸۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کا خاوند اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو نئے مہر کے ساتھ پیام نکاح بھجوائے گا۔

(۱۱۸) من گِرَّهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلَعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا

عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں

(۱۸۸۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : أَمَا زِيَادَةٌ فَلَا .

(۱۸۸۲۹) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ﷺ کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی، آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اس سے لیا تھا اسے واپس دے دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے زیادہ دے دیا، آپ نے فرمایا کہ زیادتی نہیں کر سکتی۔

(۱۸۸۳۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۳۰) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۸۳۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۸۸۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۳۲) حضرت طاووسؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخْذَ رَدَّ عَلَيْهَا .

(۱۸۸۳۳) حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں، اگر لیا تو واپس دینا ہوگا۔

(۱۸۸۳۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۳۴) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۳۵) حضرت زہریؓ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۶) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجَهَا إِلَّا مَا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۳۶) حضرت زہری، حضرت عطاء اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .
(۱۸۸۳۷) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .
(۱۸۸۳۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .
(۱۸۸۳۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو ان دونوں نے فرمایا کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع کے لئے لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۴۰) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَرْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا ، فَلَمْ يَسْرُحْ بِإِحْسَانٍ .
(۱۸۸۴۰) حضرت میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی سے مہر سے زیادہ معاوضہ لیا اس نے احسان کے ساتھ رخصت نہیں کیا۔

(۱۸۸۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهُمَدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .
(۱۸۸۴۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(۱۸۸۴۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أُعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَقْرَأَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ فَإِنْ رَحِمْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .
(۱۸۸۴۲) حضرت رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلع یافتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔ حضرت رجاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے۔

(۱۸۸۴۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أُعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَقْرَأَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ فَإِنْ رَحِمْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .
(۱۸۸۴۳) حضرت رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلع یافتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔ حضرت رجاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے۔

(۱۸۸۴۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أُعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَقْرَأَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ فَإِنْ رَحِمْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .
(۱۸۸۴۴) حضرت رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلع یافتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔ حضرت رجاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے۔

(۱۸۸۴۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أُعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَقْرَأَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ فَإِنْ رَحِمْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .
(۱۸۸۴۵) حضرت رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلع یافتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔ حضرت رجاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے۔

(۱۸۸۴۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أُعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَقْرَأَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ فَإِنْ رَحِمْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .
(۱۸۸۴۶) حضرت رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلع یافتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔ حضرت رجاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے۔

(۱۱۹) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهَا

جن حضرات کے نزدیک مہر سے زیادہ بدل خلع دینا درست ہے

(۱۸۸۴۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سُمْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ أَبِي بَامْرَةَ نَاشِزٌ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ كَثِيرِ الرَّبِيعِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَعَاَهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مَدُّ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِي الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعُهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطُهَا .

(۱۸۸۴۳) حضرت کثیر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس خاندان کی نافرمان ایک عورت لائی گئی، آپ نے اسے تین دن کے لئے بند کروادیا، پھر اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا جب سے میری اس شخص سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھے صرف انہی دنوں میں راحت ملی ہے جن دنوں میں میں یہاں تید رہی ہوں، آپ نے اس کے خاندان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو خواہ اس کے کان کی ایک بالی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸۴۴) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاحٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : اخْلَعُهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا .

(۱۸۸۴۴) حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کر لو خواہ اس کے بال باندھنے والے کپڑے سے کم چیز کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۸۸۴۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لَصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَنْكُرْهُ .

(۱۸۸۴۵) حضرت نافع بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت ابی عبیدہؓ کی ایک مولیٰ خاتون نے اپنے خاندان سے اپنی تمام چیزوں حتیٰ کہ اپنے بعض کپڑوں کے بدلے خلع لی، اور جب یہ بات حضرت ابن عمرؓ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس سے منع نہ فرمایا۔

(۱۸۸۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلَعُ حَتَّى بِعَقَاصِهَا .

(۱۸۸۴۶) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے خلع لے سکتی ہے خواہ بال باندھنے کا کپڑا تک دینا پڑے۔

(۱۸۸۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۸۸۴۷) حضرت مجاہد بن ربیعہؓ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۸۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا .

(۱۸۸۴۸) حضرت ابراہیم بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ خاندان خلع کے عوض عورت سے ہر چیز حتیٰ کہ اس کے بال باندھنے کا کپڑا بھی لے

سکتا ہے۔

(۱۸۸۴۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّخَّاحِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطَاهَا .

(۱۸۸۴۹) حضرت سخاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مہر سے زیادہ عوض لے کر بھی خلع کرے تو درست ہے۔

(۱۲۰) فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

بِهَا ، أُمَّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟

ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لی، پھر وہ اسی سے شادی کرتا ہے اور دخول سے پہلے

اسے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو کتنا مہر ملے گا؟

(۱۸۸۵۰) حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إِيْلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۸۸۵۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند سے خلع یا ایلاء کے ذریعے جدا ہوئی، پھر آدمی نے

اسی عورت سے شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو پورا مہر ملے گا۔

(۱۸۸۵۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَانَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ .

(۱۸۸۵۱) حضرت شعس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دیتا ہے، پھر آدمی نے اسی عورت سے اس کی

عدت میں شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو پورا مہر ملے گا اور عورت پر پوری عدت لازم ہوگی۔

(۱۸۸۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۸۵۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۸۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةٌ .

(۱۸۸۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے پورا مہر ملے گا اور عورت پر پوری عدت لازم ہوگی۔

(۱۲۱) من قال لها نصف الصداق

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مہر ملے گا

(۱۸۸۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبَيَّنُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۸۸۵۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند سے ایک یا دو طلاوتوں کے ذریعہ بائٹہ ہوئی اور پھر آدمی نے اسی عورت سے شادی کر لی اور پھر اسے طلاق دے دی اور دخول نہ کیا تو عورت کو آدھا مہر ملے گا۔

(۱۸۸۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .

(۱۸۸۵۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، وہ اس سے جدا ہوئی اور اس نے اس کی عدت میں اس نے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو آدھا مہر ملے گا اور اس پر عدت نہیں ہوگی۔

(۱۸۸۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمَلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ .

(۱۸۸۵۶) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے خلع کیا اور پھر عدت میں اس سے شادی کر لی اور پھر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو عورت کو پورا مہر ملے گا اور عورت باقی عدت کو مکمل کرے گی۔

(۱۸۸۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(۱۸۸۵۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۱۸۸۵۸) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ؛ فِي الْمُخْتَلَعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرَ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

(۱۸۸۵۸) حضرت مایمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے بیوی سے خلع کا فدیہ لے لیا پھر اسے نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس سے شادی کی اور مہر مقرر کیا پھر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو عورت کو آدھا مہر ملے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مایمون رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مہر ملے گا۔

(۱۲۳) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؟

اگر ایک عورت نے خاوند کے مرض الموت میں اس سے خلع لی اور پھر وہ عدت میں مر گیا

تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۸۵۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

(۱۸۸۵۹) حضرت حارث عکلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے خاوند کے مرض الموت میں اس سے خلع لی اور پھر وہ عدت میں مر گیا تو عورت کو میراث نہیں ملے گی۔

(۱۸۸۶۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۸۸۶۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۸۶۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تُوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلَعَةِ يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبَةً بِهِنَّ نَفْسُهَا .

(۱۸۸۶۱) حضرت سماک بن عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الملک نے قبیسہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ خلع کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ عورت نے اپنی خوشی سے اسے اپنے مال کا فدیہ دیا ہے۔

(۱۲۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤَلَّى مِنْ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلَّاقٌ

ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور پھر اس کو چار مہینے گزر گئے تو جن حضرات کے

نزدیک ایسا کرنا ایک طلاق ہے

(۱۸۸۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْإِيْلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

(۱۸۸۶۲) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ایلاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق ہے اور اس کے بعد عورت اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے۔

(۱۸۸۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَلَى مِنْ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .

(۱۸۸۶۳) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب چار مہینے گزر گئے تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائٹہ ہوگی۔

(۱۸۸۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أَلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .

(۱۸۸۶۳) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائٹہ ہوگی۔

(۱۸۸۶۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا أَلَى فَلَمْ يَفِيءْ حَتَّى تَمُضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۸۶۵) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مرد کے ساتھ ایلاء کیا اور ایفاء نہ کیا اور چار مہینے گزر گئے تو عورت کو ایک طلاق بائٹہ ہوگی۔

(۱۸۸۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الْإِيْلَاءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۱۸۸۶۶) حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر مکہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو عورت اپنے معاملہ کی مالک ہو جاتی ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۸۸۶۷) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجَمَاعُ . (بیہقی ۳۷۹)

(۱۸۸۶۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق کی عزیمت چار مہینوں کا گزر جانا ہے۔

(۱۸۸۶۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَبَرْزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۸۶۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق بائٹہ ہے۔

(۱۸۸۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۸۶۹) حضرت قبیسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق بائٹہ ہے۔

(۱۸۸۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۸۷۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن حنفیہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے۔

(۱۸۸۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

(۱۸۸۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے، اور وہ مرد اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔

(۱۸۸۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِبْلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ بِهِ .

(۱۸۸۷۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کہ چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے، حضرت شریح رضی اللہ عنہما کو جب حضرت مسروق رضی اللہ عنہما کے اس قول کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہی درست ہے۔

(۱۸۸۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

(۱۸۸۷۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے۔

(۱۸۸۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِبْلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۸۷۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے، اور وہ مرد عورت سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔

(۱۸۸۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

(۱۸۸۷۵) حضرت مکحول رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے، اور وہ مرد عورت سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔

(۱۸۸۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنِ أَنَسٍ مِنْ أَمْرَائِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إِذْ ذَكَرَ ، فَآتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْتَهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، فَآتَاهَا فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلُكَ ، وَأَصْدَقُهَا رِطْلًا .

(۱۸۸۷۶) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہما کی اولاد میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، وہ عورت چھ مہینے تک ٹھہری رہی، ایک مرتبہ وہ آدمی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسے ایلاء یاد آ گیا، وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان

سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو بتا دو کہ وہ اپنے معاملے کی خود مالک بن گئی ہے، وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی، اس عورت نے کہا کہ میں تیری ہی بیوی ہوں اور آدمی نے اس عورت کو ایک رطل مہر دیا۔

(۱۸۸۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَأَلْتُمَا عَنِ الْإِبْلَاءِ ؟ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .

(۱۸۸۷۷) حضرت جریر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب رضی اللہ عنہما کے پاس موجود حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہما کے خط میں پڑھا ہے کہ میں نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔

(۱۸۸۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .

(۱۸۸۷۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق بائنہ ہے، عدت میں اس کا خاندان اس عورت کو پیام نکاح بھیجوا سکتا ہے کوئی اور نہیں بھیجوا سکتا۔

(۱۲۴) فِي الْمَوْلَى يُوقَفُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ چار مہینے گزرنے کے بعد حکم ایلاء کرنے والے (مؤلی) پر موقوف ہوگا

(۱۸۸۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقَفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَمِينَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلَاقًا .

(۱۸۸۷۹) حضرت عمرو بن سلمہ بن حرب رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چار مہینے گزرنے کے بعد ایلاء کے حکم کو مؤلی پر موقوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کہ رجوع ہے یا طلاق ہے۔

(۱۸۸۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ .

(۱۸۸۸۰) حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایلاء کے حکم کو مؤلی پر موقوف قرار دیا۔

(۱۸۸۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَمِينَ طَلَاقًا ، أَوْ رَجْعَةً .

(۱۸۸۸۱) حضرت مروان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چار مہینے گزرنے کے بعد ایلاء کے حکم کو مؤلی پر موقوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کہ رجوع ہے یا طلاق ہے۔

(۱۸۸۸۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَا أَنَا فَكُنْتُ أَوْفَقَهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنَّمَا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِنَّمَا أَنْ يُطَلَّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : لَوْ وَوَلَّيْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ .

(۱۸۸۸۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حکم کو نبولی پر موقوف رکھوں گا کہ وہ چاہے توجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے، مروان کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ معاملہ لایا جائے تو میں بھی یہی کروں گا۔

(۱۸۸۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكَيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي لَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ .

(۱۸۸۸۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل مدینہ سے فرمایا کرتے تھے کہ حکم نبولی پر موقوف ہوگا۔

(۱۸۸۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْفَقَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .

(۱۸۸۸۳) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے ایلاء کے حکم کو چھ مہینے بعد نبولی کے فیصلے پر موقوف رکھا۔

(۱۸۸۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ بَضْعَةَ عَشْرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : يُوقَفُ .

(۱۸۸۸۵) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے کچھ صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ حکم کو نبولی پر موقوف رکھا جائے گا۔

(۱۸۸۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِبْلَاءِ ؟ فَقَالَ : الْأَمْرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ .

(۱۸۸۸۶) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں امراء فیصلہ کریں گے۔

(۱۸۸۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالُوا فِي الْإِبْلَاءِ يُوقَفُ .

(۱۸۸۸۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء میں فیصلہ نبولی پر موقوف ہوگا۔

(۱۸۸۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُؤَلَّى : يُوقَفُ .

(۱۸۸۸۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء میں فیصلہ نبولی پر موقوف ہوگا۔

(۱۸۸۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا أَنْ يَفْعَلَ .

(۱۸۸۸۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے لئے صرف وہی کرنا حلال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

(۱۸۸۹۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُوقَفُ الْمُؤَلَّى .

(۱۸۸۹۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایلاء میں فیصلہ مؤلیٰ پر موقوف ہوگا۔

(۱۸۸۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَقَفَّ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرَ فَيَقَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تَطْلُقَ طَلَاقًا يَعْرِفُ .

(۱۸۸۹۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے تو چار مہینے گزرنے سے پہلے اس سے کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈرو یا تو رجوع کر لو اور چاہو تو طلاق دے دو۔

(۱۸۸۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِسُجُودِهِ .

(۱۸۸۹۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۸۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُؤَلَّى عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فِيهِ أَمْرَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِيءَ فَيُفِيءُ تَطْلِيقًا بَاطِنًا .

(۱۸۸۹۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار مہینے گزرنے کے بعد مؤلیٰ سے تفتیش کی جائے گی کہ اگر رجوع کر لے تو یہ اسی کی بیوی رہے گی اور اگر رجوع نہ کرے تو یہ ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

(۱۸۸۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطْلُقَ .

(۱۸۸۹۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

(۱۸۸۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَطْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : الْإِيْلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ .

(۱۸۸۹۵) حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء کوئی چیز نہیں، فیصلہ مؤلیٰ پر موقوف ہوگا۔

(۱۸۸۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيْلَاءِ ؟ قَالَ : يُوقَفُ فَيَقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .

(۱۸۸۹۶) حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ایلاء کا فیصلہ مؤلیٰ پر موقوف ہوگا کہ اس سے سوال کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ امام بلائے گا اور پھر اس کے سامنے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

(۱۲۵) مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيْلَاءَ طَلَاقًا

جو حضرات ایلاء کو طلاق نہیں سمجھتے تھے

(۱۸۸۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَجْلِسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيْلَاءِ طَلَاقًا .

(۱۸۸۹۷) حضرت ابو بکر ایلاء کو طلاق نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۸۸۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنِ الْإِبْلَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۸۸۹۸) حضرت عمر و کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔

(۱۸۸۹۹) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِيَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الْإِبْلَاءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ .

(۱۸۸۹۹) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء ایک معصیت ہے اور اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

(۱۸۹۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ؟ فَقَالَا : مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .

(۱۸۹۰۰) حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء معصیت ہے طلاق نہیں ہے۔

(۱۲۶) مَنْ قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِبْلَاءِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گزر جائیں تو عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے

(۱۸۹۰۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِبْلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَاطِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۸۹۰۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن حنفیہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق بائنہ ہے اور عورت پر تین حیض عدت گزارنا لازم ہوگا۔

(۱۸۹۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَاطِنَةٌ ، وَتَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيضٍ .

(۱۸۹۰۲) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق بائنہ ہے اور عورت پر تین حیض عدت گزارنا لازم ہوگا۔

(۱۸۹۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : تَعْتَدُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .

(۱۸۹۰۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء کردہ عورت چار مہینے کے بعد مطلقہ والی عدت گزارے گی۔

(۱۸۹۰۴) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَرَحْمَادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .

(۱۸۹۰۳) حضرت حکم بن عیسیٰ اور حضرت حماد بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے تو اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی۔

(۱۸۹۰۵) حَدَّثَنَا الشَّفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهَا تَطْلِيقٌ ، وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .

(۱۸۹۰۵) حضرت مکحول بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے تو ایک طلاق ہو گئی اور وہ عدت نئے سرے سے گزارے گی۔

(۱۸۹۰۶) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .

(۱۸۹۰۶) حضرت جابر بن زید بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر عدت لازم نہیں ہے۔

(۱۸۹۰۷) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُ؟ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۸۹۰۷) حضرت عطاء بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے تو وہ تین مہینے عدت کے گزارے گی۔

(۱۲۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤَلَى دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِإِيْلَاءٍ

جن حضرات کے نزدیک چار مہینے سے کم کا ایلاء شرعی ایلاء نہیں ہے

(۱۸۹۰۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَلْبِغِ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ .

(۱۸۹۰۸) حضرت ابن عباس بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایک مہینے، دو مہینے یا تین مہینے کا ایلاء کیا یعنی اتنا جو چار مہینے کی حد کو نہ پہنچے تو یہ ایلاء نہیں ہے۔

(۱۸۹۰۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ .

(۱۸۹۰۹) حضرت عطاء بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے سے کم بیوی سے دور رہنے کی قسم کھائی تو یہ ایلاء نہیں ہے۔

(۱۸۹۱۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ .

(۱۸۹۱۰) حضرت طاووس بن عیسیٰ اور حضرت سعید بن جبیر بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے سے کم بیوی سے دور رہنے کی قسم کھائی تو یہ ایلاء نہیں ہے۔

(۱۸۹۱۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُؤَلِّمًا .
(۱۸۹۱۱) حضرت محمدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ تین ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور اسے چھوڑے رکھا اور چار مہینے گزر گئے تو یہ ایلا نہیں ہوگا۔

(۱۲۸) مَنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ مُؤَلِّمٌ

جن حضرات کے نزدیک چار مہینے سے کم کا ایلا بھی شرعی ایلا ہے

(۱۸۹۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ .

(۱۸۹۱۲) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دس دن کے لئے اپنی بیوی سے ایلا کیا اس پر ایلا کا حکم نافذ ہوگا۔

(۱۸۹۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمُضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
(۱۸۹۱۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایک مہینے تک کے لئے ایلا کیا پھر چار مہینے گزر گئے تو ایک طلاق بائنہ پڑ گئی۔

(۱۸۹۱۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ قَسْبَانَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِبْلَاءٌ .

(۱۸۹۱۴) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم! میں آج تیرے قریب نہیں آؤں گا اور پھر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو یہ ایلا ہے۔

(۱۸۹۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ فَهُوَ مُؤَلِّمٌ .

(۱۸۹۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چار مہینے سے کم کی قسم کھائی تو بھی ایلا ہو گیا۔

(۱۸۹۱۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُؤَلِّمٌ .

(۱۸۹۱۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ ایک ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو وہ ایلا کرنے والا ہے۔

(۱۲۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَرِيدُ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ

مَرَضٌ، أَوْ عُدْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے لیکن کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نہ

توڑ سکے اور زبان سے ایلاء کی قسم کو توڑنے کا کہہ دے تو جن کے نزدیک یہ رجوع کے حکم میں ہے

(۱۸۹۱۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنَفَسَتْ امْرَأَتُهُ قَالَ : فَسَأَلَتْ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَأَى بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَأَى .

(۱۸۹۱۷) حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ علاقے کے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر وہ عورت نفاس کا شکار ہوئی تو میں نے اس بارے میں حضرت علقمہ، حضرت اسود اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہم سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ جب زبان سے قسم توڑنے کو کہہ دیا تو قسم ٹوٹ گئی۔

(۱۸۹۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَنْعَهُ مِنْ جَمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُدْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْرَاهُ ذَلِكَ .

(۱۸۹۱۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، لیکن کسی مرض، مصروفیت یا عذر وغیرہ نے جماع سے روک رکھا لیکن آدمی نے قسم سے رجوع پر گواہ بنائے تو یہ کافی ہے۔

(۱۸۹۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ .

(۱۸۹۱۹) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنی زبان سے رجوع کر لیا تو یہ رجوع ہے۔

(۱۸۹۲۰) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُؤَلَّى : إِذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا ، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ .

(۱۸۹۲۰) حضرت زہری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی سے ایلاء کیا، پھر وہ بیمار ہو گیا یا بیوی سے دور سفر میں تھا یا بیوی حائضہ ہوئی تو وہ رجوع پر کسی کو گواہ بنا لے۔

(۱۸۹۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُدْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَأَى إِلَيْهَا فَذَلِكَ لَهُ .

(۱۸۹۲۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہم اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو کوئی عذر ہو تو وہ عورت سے رجوع کرنے پر کسی کو گواہ بنا لے۔

(۱۸۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَأَءَ فَذَلِكَ لَهُ .

(۱۸۹۲۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کی اور رجوع پر گواہ بنا لیا تو کافی ہے۔

(۱۳۰) مِنْ قَالَ لَا فِئَاءَ لَهُ إِلَّا الْجَمَاعُ

جن حضرات کے نزدیک بغیر جماع کے ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی

(۱۸۹۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفِئَاءُ الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

(۱۸۹۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْفِئَاءُ الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق کے عزم کا پختہ ہونا چار مہینوں کا گذرنا ہے اور ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا

طریقہ جماع ہے۔

(۱۸۹۲۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : لَا فِئَاءَ إِلَّا الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی۔

(۱۸۹۲۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا فِئَاءَ إِلَّا الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی۔

(۱۸۹۲۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا فِئَاءَ إِلَّا الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر ایلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی۔

(۱۸۹۲۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْفِئَاءُ الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

(۱۸۹۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفِئَاءُ الْجَمَاعُ .

(۱۸۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

(۱۸۹۳۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

قَالُوا : الْفِئَاءُ الْجَمَاعُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كَبِيرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَسْبٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْجَمَاعِ ، فَإِنْ فِئَاءَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .

(۱۸۹۳۰) حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، یا قید کی وجہ سے بیوی تک رسائی نہ رکھتا ہو تو زبان یا دل سے رجوع کر لینا بھی کافی ہے۔

(۱۸۹۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعَهَا فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ .

(۱۸۹۳۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اور اس کے بعد جماع کے علاوہ اپنی بیوی سے وہ سب کچھ کر لے جو ایک خاوند اپنی بیوی سے کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر جماع سے پہلے چار مہینے نذر گئے تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔

(۱۸۹۳۲) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْقِيَاءُ الْجِمَاعُ .

(۱۸۹۳۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء کی قسم کو ختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

(۱۳۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤَلَى مِنَ الْأُمَّةِ ، كَيْمٌ أَيْلَاؤُهُ مِنْهَا ؟

اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہو تو اس سے ایلاء کے لئے کتنا عرصہ ہوگا؟

(۱۸۹۳۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيْلَاءِ مِنَ الْأُمَّةِ : إِذَا مَضَى شَهْرَانِ ، وَلَمْ يَقِءْ رَوْحَهَا ، فَقَدْ وَقَعَ الْإِيْلَاءُ .

(۱۸۹۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہو اور وہ اس سے ایلاء کرے تو دو مہینے گزر جانے پر ایلاء واقع ہو جائے گا۔

(۱۸۹۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أُمَّةٍ قَالَ : إِيْلَاؤُهَا شَهْرَانِ .

(۱۸۹۳۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی سے ایلاء کی مدت دو ماہ ہے۔

(۱۸۹۳۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيْلَاءُ الْأُمَّةِ نِصْفُ إِيْلَاءِ الْحُرَّةِ .

(۱۸۹۳۵) حضرت شععی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کا ایلاء آزاد عورت کے ایلاء سے ہے۔

(۱۸۹۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

(۱۸۹۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۸۹۳۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأُمَّةِ ، أَوْ طَلَّقَهَا فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .

(۱۸۹۳۷) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد نے باندی سے ایلاء کیا یا اسے طلاق دی تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے۔

(۱۸۹۳۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُؤَلِّى مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، وَسَأَلْتُ حَمَادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۸۹۳۸) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ایلاء کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس کی عدت دو ماہ ہے۔ اور میں نے حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

(۱۳۲) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤَلِّى مِنْ أَمْرَاتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۹۳۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آتَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ ، ثُمَّ آتَى هَدَمَ الطَّلَاقَ الْإِبِلَاءَ .

(۱۸۹۳۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر اسے طلاق دے دی یا طلاق دی پھر ایلاء کیا تو طلاق ایلاء کو ختم کر دے گی۔

(۱۸۹۴۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَى رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَتْ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أُخِذَتْ بِهِمَا .

(۱۸۹۴۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق اور ایلاء دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، جو پہلے ہوا سی کا اعتبار ہوگا اور اگر دونوں اکٹھے ہوں تو دونوں کا اعتبار ہوگا۔

(۱۸۹۴۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .

(۱۸۹۴۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضرت شعبی رضی اللہ عنہ والی بات فرمایا کرتے تھے۔

(۱۸۹۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُؤَلِّى مِنْ أَمْرَاتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيضٍ ، فَقَدْ بَانَتْ .

(۱۸۹۴۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر اسے طلاق دے دی، اگر تین حیض آنے سے پہلے چار مہینے گزر گئے تو وہ عورت بانہ ہوگی۔

(۱۸۹۴۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِبِلَاءَ .

(۱۸۹۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق ایلاء کو ختم کر دیتی ہے۔

(۱۸۹۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِبْلَاءَ .

(۱۸۹۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق ایلا کو ختم کر دیتی ہے۔

(۱۸۹۴۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِبْلَاءَ وَقَالَ

عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَى رِهَانٍ .

(۱۸۹۴۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق ایلا کو ختم کر دیتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں۔

(۱۳۲) مَنْ قَالَ الْإِبْلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ فِي الْغَضَبِ

إِبْلَاءُ غَضَبٍ أَوْ خَوْشَى دُونَ حَالَتَيْنِ فِيهِ هُوَ

(۱۸۹۴۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْإِبْلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ .

(۱۸۹۴۶) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلا غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔

(۱۸۹۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لَامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكَ ، فَقَالَتْ : مَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَرْضِعَ ابْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا عَدُوَّتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : ابْنِي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إِبْلَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا ، فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ .

(۱۸۹۴۷) حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا تیرے بیٹے کے ساتھ دودھ پئے گا، انہوں نے کہا کہ میں دو بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جب تک وہ اس بچے کو دودھ نہیں چھڑا دیتیں اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں گے۔ جب اس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا اور وہ لوگوں کے پاس سے گذرنا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اسے اچھی غذا دی ہے، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم کھالی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک وہ اس کا دودھ نہیں چھڑا دیتی، لوگوں نے کہا کہ یہ ایلا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے غصے میں ایسا کیا تھا تو تمہارے لئے تمہاری بیوی حلال نہیں اور اگر غصے میں نہیں کیا تو یہ تمہاری بیوی ہے۔

(۱۸۹۴۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِبْلَاءُ فِي الْغَضَبِ .

(۱۸۹۴۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلا غصے میں ہوتا ہے۔

(۱۸۹۴۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقُقَعَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الْإِبْلَاءِ فَقَالَ : إِنَّمَا الْإِبْلَاءُ مَا كَانَ فِي الْقُضْبِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِبْلَاءِ .

(۱۸۹۴۹) حضرت قعقاع بن یزید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایلاء تو غصے میں ہوتا ہے۔ میں نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اسے نہیں جانتا، پھر انہوں نے آیت ایلاء تلاوت کی۔

(۱۸۹۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مِغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِلَّا يَقْرُبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَقْطِعَ صَبِيهَا ، قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِبْلَاءُ .

(۱۸۹۵۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑا دے تو اگر وہ چار مہینے تک رکارہ کرے تو ایلاء داخل ہو جائے گا۔

(۱۸۹۵۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْإِبْلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْقُضْبِ سَوَاءٌ .

(۱۸۹۵۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غصے اور خوشی کا ایلاء برابر ہے۔

(۱۳۴) مَنْ قَالَ لَا إِبْلَاءَ إِلَّا بِحَلْفٍ

جن حضرات کے نزدیک ایلاء صرف قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے

(۱۸۹۵۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا إِبْلَاءَ إِلَّا بِحَلْفٍ .

(۱۸۹۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء صرف قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔

(۱۸۹۵۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِبْلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلْفٍ عَلَى الْجَمَاعِ .

(۱۸۹۵۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلاء جماع نہ کرنے کی قسم کھانے سے ہوتا ہے۔

(۱۸۹۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : قَدْ طَالَ الْهَجْرَانِ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِبْلَاءُ ؟ قَالَ : حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : لَا إِبْلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ .

(۱۸۹۵۴) حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو سات مہینے تک چھوڑے رکھے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے جدائی کو بہت طول دے دیا، میں نے کہا کہ کیا ایلاء داخل ہو جائے گا؟

انہوں نے فرمایا کہ کیا اس نے قسم کھائی تھی؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایلاء قسم کے بغیر نہیں ہوتا۔

(۱۸۹۵۵) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا إِبْلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ .

(۱۸۹۵۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء صرف قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔

(۱۸۹۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جَمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِبْلَاءٌ .

(۱۸۹۵۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قسم جو جماع سے روک دے اور اس پر چار مہینے گزر جائیں تو ایلاء ہو جاتا ہے۔

(۱۸۹۵۷) حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ هَرَمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَحْرِمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمْسُهَا ، وَلَا يَصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرِجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ الْأَلِيَّةُ .

(۱۸۹۵۷) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑے رکھے اور چار مہینے گزر جائیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، البتہ اگر اس نے قسم کھائی ہو کہ وہ اسے چھوئے گا بھی نہیں اور اس سے صلح نہیں کرے گا، اگر اس نے اس بات پر قسم کھائی ہو اور چار مہینے تک وہ اس سے رجوع نہ کرے تو عورت بانسہ ہو جائے گی اور ایلاء یافتہ ہو جائے گی۔

(۱۸۹۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا إِبْلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ .

(۱۸۹۵۸) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم کے بغیر ایلاء نہیں ہوتا۔

(۱۸۹۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جَمَاعًا فَهِيَ إِبْلَاءٌ .

(۱۸۹۵۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی قسم جو جماع سے منع کر دے وہ ایلاء ہے۔

(۱۸۹۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُعِيبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جَمَاعًا فَهِيَ إِبْلَاءٌ .

(۱۸۹۶۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی قسم جو جماع سے منع کر دے وہ ایلاء ہے۔

(۱۳۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤَلِّي مِنَ الْمَرْأَةِ فَنَمَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ يُطَلِّقُ

اگر کوئی شخص بیوی سے ایلاء کرے، پھر عورت عدت گزارے اور وہ پھر اس کو طلاق دے

دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۸۹۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِبْلَاءِ فَطَلَّقَ ، فَإِنَّهُ لَا يَعِدُّهُ نِسَاءً .

(۱۸۹۶۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایلاء کی عدت گزرنے کے بعد عورت کو طلاق دی تو پہلے والی عدت کا کوئی شمار

نہ ہوگا۔

(۱۸۹۶۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُ مِنْهُ فِي الْإِبْلَاءِ، أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ.

(۱۸۹۶۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی ایلاء یا طلاق کی عدت گزار رہی ہو اور عدت کے دوران آدمی اسے پھر طلاق دے دے تو طلاق درست ہے، اگر اس نے عدت گزرنے کے بعد طلاق دی تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۱۳۶) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُوَلَّى مِنَ الْحُرَّةِ

اگر کوئی غلام اپنی آزاد بیوی سے ایلاء کرنا چاہے تو کتنی مدت ہوگی؟

(۱۸۹۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ عَنْ إِبْلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. (۱۸۹۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے غلام شخص کی آزاد بیوی کی مدت ایلاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ چار مہینے ہیں۔

(۱۸۹۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِبْلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِبْلَاءِ الْحُرِّ. (۱۸۹۶۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے مدت ایلاء آزاد کی مدت ایلاء کا نصف ہے۔

(۱۳۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُوَلَّى مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَضَى عِدَّةَ الْإِبْلَاءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اور عورت عدت ایلاء کو گزارنے لگے تو جن

حضرات کے نزدیک خاوند عدت میں اسے پیام نکاح دے سکتا ہے

(۱۸۹۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.

(۱۸۹۶۵) حضرت عبداللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ عدت میں ایلاء کرنے والے خاوند کے علاوہ کوئی اسے پیام نکاح نہیں دے سکتا اور جب عدت گزر جائے تو وہ اور دوسرے لوگ برابر ہیں۔

(۱۸۹۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَ: يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ. (۱۸۹۶۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عدت میں پیام نکاح دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔

(۱۸۹۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِبِلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهَا تَطْلِيقَةٌ بَازِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .

(۱۸۹۶۷) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف ایلاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی اور وہ اس کی عدت میں چاہے تو اسے پیام نکاح دے سکتا ہے۔ حضرت ابن عون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے کہا کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عدت میں پیام نکاح دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔

(۱۸۹۶۸) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مِعْبِرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهَا وَاحِدَةٌ بَازِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .

(۱۸۹۶۸) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی اور اس کا خاوند اس کی عدت میں اسے پیام نکاح دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔

(۱۸۹۶۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَعْتَدُ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۸۹۶۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایلاء یا فتہ عورت کا خاوند اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی اور شادی کرنا چاہے تو تین حیض عدت کے گزارے گی۔

(۱۳۸) مَا قَالُوا إِذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا ؟

جو شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا یا نہیں؟

(۱۸۹۷۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَالْمَوْلَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةَ .

(۱۸۹۷۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دی گئی ہوں اور وہ حاملہ ہو اور جس سے ایلاء کیا گیا ہو اور وہ حاملہ ہو تو اس پر نفقہ واجب ہوگا۔

(۱۸۹۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا وَالْمَوْلَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةَ وَالْمَلَاعِنَةَ وَهَنَّ حَوَامِلُ لَهِنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ .

(۱۸۹۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دی گئی ہوں، یا اس سے ایلاء کیا گیا ہو یا اس نے خلع لی ہو یا

اس سے لعان کیا گیا ہو، وہ یہ سب حاملہ ہوں تو ان کا نفقہ خاوند پر واجب ہے، اگر خلع لینے والی عورت سے نفقہ کے نہ لینے کی شرط لگائی گئی ہو تو نفقہ واجب نہیں۔

(۱۳۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِي بَأَمْرَائِهِ فِي مَوْضِعٍ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمَوْلٍ
اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں جگہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا تو جن حضرات کے

نزدیک وہ ایلاء کرنے والا نہیں ہے

(۱۸۹۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِي
بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا إِيْلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ .

(۱۸۹۷۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی پھر اس عورت کے گھر والوں نے آدمی کو پریشان کیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا تو یہ ایلاء نہیں کیونکہ ایلاء تو دخول کے بعد ہوتا ہے۔

(۱۸۹۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ ، قُلْتُ
: وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعِهَا قَادِرًا ؟ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعِهَا قَادِرًا .

(۱۸۹۷۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے دخول سے پہلے ایلاء کی تو یہ ایلاء نہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ جماع پر قادر ہو کر جماع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جماع پر قادر ہو کر جماع نہ کرے تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۸۹۷۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَيْنِي بِأَمْرَائِي
فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيْلَاءٌ وَقَالَ حَمَادٌ : لَيْسَ بِإِيْلَاءٍ .

(۱۸۹۷۴) حضرت ابو ہاشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ خدا کی قسم میں اس گھر میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا پھر چار مہینے تک اس کے قریب نہ گیا تو یہ ایلاء ہے جبکہ حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلاء نہیں ہے۔

(۱۸۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ :
فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيْلَاءٌ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ .

(۱۸۹۷۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، لوگوں نے مہر میں اضافے کا مطالبہ کیا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ نہ تو مہر میں اضافہ کریں گے اور نہ ہی عورت سے دخول کریں گے، پھر دو سال تک انہیں چھوڑا رکھا، پھر لوگوں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنی بیگم سے شرعی ملاقات فرمائی اور اسے ایلاء قرار نہ دیا، حضرت

وکیج پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان پریشید کا بھی یہی مسلک ہے اور ہماری بھی یہی رائے ہے۔

(۱۴۰) من قال فی المطلقۃ ثلاثاً لها النفقة

جن حضرات کے نزدیک تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر نفقہ واجب ہوگا

(۱۸۹۷۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا نَجِيزُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ ، الْمُطْلَقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فَضِيلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ .

(۱۸۹۷۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین میں عورت کے قول کو جاری نہیں کرتے (یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے قول پر تعریض ہے) تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر ہائش اور نفقہ واجب ہوگا، حضرت ابن فضیل رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورت کے لئے اس بات میں خیر نہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کرے۔

(۱۸۹۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۷۷) حضرت عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو ہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۷۸) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَلِيمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۷۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو ہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۷۹) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۷۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو ہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۸۰) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطْلَقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمَ فَإِذَا حَرَمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .

(۱۸۹۸۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طلاق یافتہ عورت کو اس وقت تک نفقہ ملے گا جب تک وہ حرام نہ ہو جائے اور جب وہ حرام ہو جائے تو اسے نیکی کے ساتھ فائدہ دیا جائے گا۔

(۱۸۹۸۱) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطْلَقَةِ ثَلَاثًا : لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ .

(۱۸۹۸۱) حضرت حسن، حضرت شعبی اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو ہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ عُمَرُ : لَأَنْدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظْتُ ، أَوْ نَسِيتُ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى

وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طلاق یافتہ عورت کی رہائش اور نفقہ خاندان پر لازم کیا کرتے تھے۔

(۱۸۹۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَهَا بَيْتٌ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الْأَمِيرِ .

(۱۸۹۸۳) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ کسی کرایے کے گھر میں رہتی ہو تو کرایہ کس پر لازم ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے خاندان پر، میں نے پوچھا کہ اگر اس کے خاندان کے پاس کرایہ نہ ہو تو کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت پر، میں نے عرض کیا کہ اگر اس عورت کے پاس بھی نہ ہو تو پھر کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر پر۔

(۱۸۹۸۴) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۸۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۸۵) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، تین طلاقیں دی گئی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ .

(۱۸۹۸۶) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔

(۱۸۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۸۹۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

(۱۸۹۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو رہائش اور نفقہ ملے گا۔

(۱۶۱) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا

(۱۸۹۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صَخْبِرِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً . (مسلم ۳۸ - ترمذی ۱۱۳۵)

(۱۸۹۸۹) حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند نے انہیں تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں رہائش اور نفقہ نہیں دلوا یا۔

(۱۸۹۹۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سُكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةٌ .

(مسلم ۱۱۱۷ - ترمذی ۱۱۸۰)

(۱۸۹۹۰) حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تجھے رہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۸۹۹۱) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمَطْلُوقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ .

(۱۸۹۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے والے کو نفقہ پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

(۱۸۹۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ : الْمَطْلُوقَةُ ثَلَاثًا وَالْمَتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لِهَمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ .

(۱۸۹۹۲) حضرت عکرمہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہوا نہیں رہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۸۹۹۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمَطْلُوقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا .

(۱۸۹۹۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۸۹۹۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا .

(۱۸۹۹۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۸۹۹۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هَلْ

لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(۱۸۹۹۵) حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حتمی طلاق دے دے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۶۱) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

اگر حاملہ کو طلاق دی جائے تو کیا مرد پر نفقہ واجب ہوگا

(۱۸۹۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يُطَلَّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنْذَمُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرِضَاعِهَا حَتَّى تَفْطَمَهُ.

(۱۸۹۹۶) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے اللہ اسے نادم کرے گا، اور حالت حمل اور حالت رضاعت میں اس پر خرچ کرے گا یہاں تک کہ بچے کا دودھ چھڑو ادے۔

(۱۸۹۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.

(۱۸۹۹۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں تین طلاقیں دیں تو عورت کا نفقہ مرد پر لازم ہوگا خواہ وہ آزاد ہو یا باندی۔

(۱۸۹۹۸) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ لِي الرِّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۸۹۹۸) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حتمی طلاق دے دی تو عورت کو نفقہ نہیں ملے گا لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو نفقہ ملے گا یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے۔

(۱۸۹۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ هِشَامَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا وَالْمَوْلَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلَعَةُ وَالْمَلَاعِنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلٌ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.

(۱۸۹۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دی گئی ہوں، یا اس سے ایلاء کیا گیا ہو، یا اس نے خلع لیا ہو، یا اس سے لعان کیا گیا ہو اور یہ عورتیں حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ ملے گا۔

(۱۹۰۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ.

(۱۹۰۰۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر حاملہ کو نفقہ ملے گا۔

(۱۹۰۰۱) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَكْرِيَّا قَالَ: سِئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيُنْفِقُ

عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا.

(۱۹۰۰۱) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں طلاق دے دے تو کیا اسے نفقہ دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر آزاد مرد ہو تو نفقہ دے گا۔

(۱۹۰۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ: ﴿فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.

(۱۹۰۰۲) حضرت صحاح قرآن مجید کی آیت ﴿فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں طلاق دے دی تو وضعِ حمل تک اسے نفقہ دے گا۔

(۱۴۳) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ؟ مَنْ قَالَ لَهَا النَّفَقَةُ

کیا خلع لینے والی حاملہ کو نفقہ ملے گا؟

(۱۹۰۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشَرِيحًا قَالَا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَهَا النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۰۳) حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہما اور حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی حاملہ کو نفقہ ملے گا۔

(۱۹۰۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا البتہ اگر اس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کر لیا ہو تو پھر نہیں ملے گا۔

(۱۹۰۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ: لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَهَا النَّفَقَةُ، إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَكِدِهِ. حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا البتہ اگر اس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کر لیا ہو تو پھر نہیں ملے گا، حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، آدمی اپنی اولاد پر خرچ کرے گا۔

(۱۹۰۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ. حضرت قاسم رضی اللہ عنہما خلع لینے والی حاملہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ضرور ملے گا۔

(۱۹۰۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ. حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا۔

(۱۹۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النِّفْقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا .

(۱۹۰۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ ہو تو اسے نفقہ ملے گا۔

(۱۹۰۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفْقَةٌ .

(۱۹۰۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر حاملہ عورت کو نفقہ ملے گا۔

(۱۹۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النِّفْقَةُ .

(۱۹۱۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ خلع لینے والی حاملہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا۔

(۱۴۴) مَنْ قَالَ لَا نَفْقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی حاملہ کو نفقہ نہیں ملے گا

(۱۹۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ قَالُوا : لَا نَفْقَةَ لَهَا .

(۱۹۱۱) حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۴۵) الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النِّفْقَةُ

اگر کوئی غلام اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دے تو جن حضرات کے نزدیک اس پر نفقہ لازم ہوگا

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلِّقَانِ

وَهُمَا حَامِلَانِ ، لَهُمَا النِّفْقَةُ .

(۱۹۱۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو یا باندی کسی آزاد کے نکاح میں ہو اور ان

کے حاملہ ہونے کی صورت میں انہیں طلاق ہو جائے تو انہیں نفقہ ملے گا۔

(۱۹۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ

حَامِلٌ قَالَ : عَلَيْهِ النِّفْقَةُ حَتَّى تَضَعَ .

(۱۹۱۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دیدے تو اس پر بچے کی پیدائش تک عورت

کا نفقہ لازم ہوگا۔

(۱۹۱۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ

فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَنْفَقْ عَلَيْهَا .

(۱۹۰۱۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنی آزاد بیوی کو طلاق دے دی تو بچے کی پیدائش تک نفقہ اس پر لازم رہے گا، بچہ کی پیدائش کے بعد نفقہ لازم نہ ہوگا۔

(۱۹۰۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأُمَةُ فَطَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرِّضَاعِ .

(۱۹۰۱۵) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد کے نکاح میں باندی ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے تو بچے کی پیدائش تک اس پر نفقہ لازم ہے، اور اس پر دودھ پلانے کی اجرت لازم نہ ہوگی۔

(۱۴۶) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ، مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَعَةِ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی

ملاقات کی توجہ حضرات کے نزدیک اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا

(۱۹۰۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتَعَةِ .

(۱۹۰۱۶) حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اس کے لئے مہر مقرر نہ کیا اور نہ ہی اس سے دخول کیا تو حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا تھا۔

(۱۹۰۱۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مَغْفَلٍ قَالَ : إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ .

(۱۹۰۱۷) حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۰۱۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جَبَرَ عَلَى أَنْ يُمْتَعَهَا .

(۱۹۰۱۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۰۱۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ .

(۱۹۰۱۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۰۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمْتَعَهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرٍ مِثْلَهَا .
(۱۹۰۲۰) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے متعہ میں مہر مثلی کا نصف دے گا۔

(۱۹۰۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ .

(۱۹۰۲۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو عورت کو متعہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۹۰۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَكَمْ يَفْرِضُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ .

(۱۹۰۲۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تو اسے متعہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے متعہ کے ساتھ بھی کچھ ملے گا۔

(۱۴۷) مَنْ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ

جن حضرات کے نزدیک ہر طلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے

(۱۹۰۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .

(۱۹۰۲۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے، سوائے اس عورت کے جسے دخول سے پہلے طلاق دی گئی اسے نصف مہر ملے گا۔

(۱۹۰۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَرَضَ لَهَا ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا .

(۱۹۰۲۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے، اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے لئے مہر مقرر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

(۱۹۰۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مَتَاعٌ .
(۱۹۰۲۵) حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے۔

(۱۹۰۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ مُتْعَةٌ .

(۱۹۰۲۶) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے۔

(۱۹۰۲۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةَ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّغَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعُ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الْمَتَاعُ ؛ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةٌ لَهَا .

(۱۹۰۲۷) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کے لئے متعہ کو لازم قرار دیتے تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الاحزاب میں یہی تھا، جب سورۃ البقرہ نازل ہوئی تو اس عورت کے لئے مہر کا آدھا فرض کر دیا گیا جس کے لئے مہر مقرر ہوا تھا اور اسے متعہ نہیں ملے گا۔

(۱۴۸) مَا قَالُوا إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةٌ لَهَا ؟

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لئے مہر مقرر کیا گیا ہو اسے متعہ نہیں ملے گا

(۱۹۰۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا .

(۱۹۰۲۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو متعہ ملے گا سوائے اس عورت کے جس کے لئے مہر مقرر کیا گیا اور اسے طلاق دے دی گئی۔

(۱۹۰۲۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُنِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا مَتَاعَ لَهَا .

(۱۹۰۲۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لئے مہر مقرر کرے اور اسے دخول سے پہلے طلاق دے دے تو کیا اسے متعہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے متعہ نہیں ملے گا۔

(۱۹۰۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مَتَاعَ لَهَا .

(۱۹۰۳۰) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے عورت کو طلاق دے دی اور اس کے لئے مہر مقرر کیا تھا تو اسے نصف مہر ملے گا اور اس کو متعہ بھی نہیں ملے گا۔

(۱۹۰۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُسْعُوْدِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنَّ لَهَا فِي

النِّصْفِ لِمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

(۱۹۰۳۱) حضرت شریح برہنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے دخول نہ کیا ہو اس کے لئے متعہ کے طور پر نصف مہر ہوگا۔

(۱۴۹) مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ؟

متعہ کیا ہے؟

(۱۹۰۳۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَمَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ جَارِيَةَ سَوْدَاءَ.

(۱۹۰۳۲) حضرت صالح بن ابراہیم برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد متعہ میں ایک سیاہ باندی دی تھی۔

(۱۹۰۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَعَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثِ مِئَةِ.

(۱۹۰۳۳) حضرت یونس برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو تین سو کا متعہ دیا۔

(۱۹۰۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَعَ امْرَأَتَهُ بِعَشْرَةِ آلَافٍ.

(۱۹۰۳۴) حضرت سعد برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو دس ہزار کا متعہ دیا۔

(۱۹۰۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِيَّاسٍ ، عَنْ أَبِي مجَلَزٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ : عَدًّا كَذَا عَدًّا حَتَّى عَدًّا ثَلَاثِينَ.

(۱۹۰۳۵) حضرت ابوجحیر برہنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے گنتے گنتے تیس تک گنا۔

(۱۹۰۳۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَعَهَا بِثَلَاثِ مِئَةِ.

(۱۹۰۳۶) حضرت شعبی برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح برہنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور انہیں متعہ میں تین سو دیئے۔

(۱۹۰۳۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَعَهَا بِثَلَاثِ مِئَةِ.

(۱۹۰۳۷) حضرت ابراہیم برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود برہنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور انہیں متعہ میں تین سو دیئے۔

(۱۹۰۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ مَتَعَ بِثَلَاثِ مِئَةِ.

(۱۹۰۳۸) حضرت ابراہیم برہنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود برہنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور انہیں متعہ میں تین سو دیئے۔

(۱۹۰۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَّاورِدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ فَمَتَعَ بِوَاحِدَةٍ.

- (۱۹۰۳۹) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور متعہ میں ایک دیا۔
 (۱۹۰۴۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَالِدَةٍ .
 (۱۹۰۴۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعَمْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَالِدَةٍ .
 (۱۹۰۴۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور متعہ میں ایک باندی دی۔

(۱۵۰) مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا

متعہ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار کا بیان

- (۱۹۰۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ .
 (۱۹۰۴۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متعہ خادم ہے، پھر اس سے کم کپڑے پہنانا ہے اور پھر اس سے کم نفقہ ہے۔

- (۱۹۰۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثُّوبَ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ .

(۱۹۰۴۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے کم تر متعہ کپڑا ہے اور سب سے اعلیٰ خادم ہے۔

- (۱۹۰۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ الدَّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمَلْحَفَةُ .

(۱۹۰۴۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درمیانہ متعہ چادر، دوپٹہ اور اوڑھنی ہے۔

- (۱۹۰۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَنَاعِ الْمُطَلَقَةِ : ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا ، الدَّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمَلْحَفَةُ وَالْجَلْبَابُ .

(۱۹۰۴۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ مطلقہ کے متعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں: دوپٹہ، چادر، اوڑھنی اور بڑی چادر۔

- (۱۹۰۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُمْتَعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمْتَعُ بِالْخَادِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطَى الْإِمَائِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطَى الدَّرْعَ وَالْخِمَارَ وَالْمَلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطَى النَّفَقَةَ .

(۱۹۰۴۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیویوں کو متعہ دیا کرتے تھے، کوئی خادم دیتا تھا، کوئی دو سو دیتا تھا، کوئی چادر، دوپٹہ اور اوڑھنی دیا کرتا تھا اور کوئی نفقہ دیتا تھا۔

(۱۹۰۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :
أَعْلَاهُ الْخَادِمُ ، ثُمَّ الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ النَّفَقَةُ .

(۱۹۰۴۷) حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متہ خادم ہے، پھر کپڑا اور پھر نفقہ۔

(۱۵۱) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ تَعْتَدُ ؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو استحاضہ کی حالت میں طلاق دے تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟

(۱۹۰۴۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ .

(۱۹۰۴۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۴۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ .

(۱۹۰۴۹) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ : تَعْتَدُ بِالشُّهُورِ .

(۱۹۰۵۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُ

بِالْأَقْرَاءِ .

(۱۹۰۵۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَالحَكَمِ ، وَالحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

قَالُوا : تَعْتَدُ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا .

(۱۹۰۵۲) حضرت عطاء، حضرت حکم اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ .

(۱۹۰۵۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُ

بِالْأَقْرَاءِ .

(۱۹۰۵۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۵۵) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتْ

النَّائِلَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيصُ فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا

كَانَتْ تَحِيضُ.

(۱۹۰۵۵) حضرت حماد بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو استحاضہ کی حالت میں طلاق دے دے، اگر اسے تیسرا حیض، حیض کی معمول کی مدت سے پہلے آجائے تو اس کا خاندان رجوع کا اختیار نہیں رکھتا، وہ غسل نہ کرے اور نہ نماز پڑھے یہاں تک کہ جتنے دن اسے حیض آتا ہے اس سے زیادہ دن گزر جائیں۔

(۱۹۰۵۶) حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.

(۱۹۰۵۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کی عدت ایک سال ہے۔

(۱۹۰۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِبِيَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْقِمُ لَهَا حَيْضَةً تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيَهُ.

(۱۹۰۵۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اور وہ عورت جس کے حیض کی کوئی ترتیب نہ ہو (کبھی ایک مہینے میں دو مرتبہ آجائے اور کبھی کئی مہینوں میں ایک مرتبہ آئے) اس کی عدت تین ماہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے۔

(۱۹۰۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَمْرٍو امْرَأَةً الْمَفْقُودَةَ فَقَالَا : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِئِي زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَذَاكَرَا النِّفْقَةَ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو : لَهَا النِّفْقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبِئِهَا نَفْسَهَا فِي سَبِيهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِذْ نُتَّجِحَفُ بِالْوَرِثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا.

(۱۹۰۵۸) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مابین اس عورت کے بارے میں گفتگو ہوئی جس کا خاندان گم ہو گیا ہو، دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ چار سال انتظار کرے گی پھر اس کے خاندان کا ولی اسے طلاق دے دے گا، پھر وہ چار مہینے اور دس دن تک عدت گزارے گی، پھر ان دونوں حضرات کے درمیان نفقہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عورت کو مرد کے مال میں سے نفقہ ملے گا کیونکہ اس کی وجہ سے عورت رکی رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح تو ورثہ کا نقصان ہوگا، البتہ عورت مرد کے مال میں سے لے گی اگر وہ آگیا تو وہ مال عورت کا ہوگا اور اگر وہ نہ آیا تو عورت کو کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۵۲) مَا قَالُوا فِي النَّفْسَاءِ تَطَلَّقُ ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُ بِذَلِكَ الدَّمِ

اگر نفاس والی عورت کو طلاق دی جائے تو جن حضرات کے نزدیک وہ نفاس کو عدت میں

شمار کرے گی

(۱۹۰۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَتِ النَّفْسَاءُ لَا تَعْتَدُ بِذَلِكَ الدَّمِ .

(۱۹۰۵۹) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نفاس والی عورت کو طلاق دی گئی تو وہ نفاس کو عدت میں شمار نہیں کرے گی۔

(۱۹۰۶۰) حَدَّثَنَا عُذْرَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النَّفْسَاءِ هَلْ تَعْتَدُ بِالنَّفَاسِ ؟ قَالَ : لَا تَعْتَدُ بِنَفَاسِهَا .

(۱۹۰۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر نفاس والی عورت کو طلاق دی گئی تو کیا وہ نفاس کو عدت میں شمار کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نفاس کو عدت میں شمار نہیں کرے گی۔

(۱۹۰۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَتْ وَهِيَ نَفْسَاءٌ لَمْ تَعْتَدْ بِدَمِ نَفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا .

(۱۹۰۶۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو حالتِ نفاس میں طلاق دی گئی تو وہ اسے عدت میں شمار نہیں کرے گی۔

(۱۹۰۶۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نَفْسَاءٌ لَمْ تَعْتَدْ بِدَمِ نَفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا .

(۱۹۰۶۲) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو حالتِ نفاس میں طلاق دی گئی تو وہ اسے عدت میں شمار نہیں کرے گی۔

(۱۵۳) مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ؟

عورت کے مستحاضہ ہونے کا یقین کیسے ہوگا؟

(۱۹۰۶۳) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُهَيَّرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إِذَا جَاوَزَتْ حَيْضَتَهَا آخِرَ مَا تَطْهَرُ فِيهِ النِّسَاءُ .

(۱۹۰۶۳) حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے مستحاضہ ہونے کا یقین اس وقت ہوگا جب اس کا حیض اس آخری حد کو پار

کر جائے جس میں عورتیں پاک ہو جاتی ہیں۔

(۱۹۰۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .
(۱۹۰۶۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک حیض دوسرے حیض تک پہنچ جائے تو عورت مستحاضہ ہے۔

(۱۵۴) مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟

”أقراء“ سے کیا مراد ہے؟

(۱۹۰۶۵) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ .
(۱۹۰۶۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اقراء سے مراد طہر ہیں۔

(۱۹۰۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ : إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ .
(۱۹۰۶۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقراء سے مراد طہر ہیں۔

(۱۹۰۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ .
(۱۹۰۶۷) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقراء سے مراد حیض ہیں۔

(۱۵۵) مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، مَنْ قَالَ ثَلَاثٌ حَيْضٌ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا

ام ولد باندی کی عدت کا بیان، جن حضرات کے نزدیک اس کے آقا کے فوت ہونے کی

صورت میں وہ تین حیض عدت گزارے گی

(۱۹۰۶۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثٌ حَيْضٌ .
(۱۹۰۶۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلَاثٌ حَيْضٌ .
(۱۹۰۶۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ثَلَاثٌ حَيْضٌ .
(۱۹۰۷۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۷۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
(۱۹۰۷۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۱۹۰۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا : ثَلَاثٌ حَيْضٌ

إِذَا مَاتَ عَنْهَا .

(۱۹۰۷۲) حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت تین حیض ہے۔ جب آقا فوت ہو جائے۔
(۱۹۰۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ .
(۱۹۰۷۴) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۵۶) مَنْ قَالَ عِدَّتْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

جن حضرات کے نزدیک اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے

(۱۹۰۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُطَرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ ، عَنْ قَيْصَةَ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نِسَائِنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . (ابوداؤد ۲۳۰۲۔ ابویعلیٰ ۷۳۰۰)
(۱۹۰۷۵) حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہمارے نبی ﷺ کی سنت کو خلاف نہ کرو، ام ولد کی عدت وہی ہے جو اس عورت کی ہوتی ہے جس کا خاندان فوت ہو جائے۔

(۱۹۰۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُمَا قَالَا : عِدَّتُهَا إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ .

(۱۹۰۷۶) حضرت فضالہ بن عبیدؓ اور حضرت ابو عیاضؓ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت وہی ہے جو اس آزاد عورت کی ہوتی ہے جس کا خاندان فوت ہو جائے۔

(۱۹۰۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَالِدِ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا .

(۱۹۰۷۷) حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ جب ام ولد باندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔
(۱۹۰۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا : عِدَّةُ أُمِّ الْوَالِدِ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا .

(۱۹۰۷۸) حضرت حسنؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ جب ام ولد باندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

(۱۹۰۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عَتِيْبَةَ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَالِدِ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فَقَالَ : وَمَا السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةٌ أُعْتِقَتْ فَأَعْتَدْتُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .

(ابن ماجہ ۲۰۰۷۔ بیہقی ۲۵۱)

(۱۹۰۷۸) حضرت حکم بن عتیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کے بعد اس کی عدت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے آزاد عورت والی عدت گزار لی تھی۔

(۱۹۰۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (۱۹۰۷۹) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام ولد باندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

(۱۹۰۸۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ مِثْلَ ذَلِكَ . (۱۹۰۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام ولد باندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

(۱۹۰۸۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ . (۱۹۰۸۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام ولد باندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

(۱۵۷) مِنْ قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

جن حضرات کے نزدیک ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے

(۱۹۰۸۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ . (۱۹۰۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۰۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تَوَفَّتْ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ . (۱۹۰۸۳) حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں اس کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۰۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا تَوَفَّتْ عَنْهَا سَيِّدُهَا . (۱۹۰۸۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں باندی (ام ولد باندی) کی

عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۰۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ . (۱۹۰۸۵) حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں باندی (ام ولد باندی) کی

عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۰۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ .

(۱۹۰۸۶) حضرت صحاح بریضیہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں باندی کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۰۸۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لَا تُورَثُ نَهَا إِذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلَاثَ حَيْضٍ .

(۱۹۰۸۷) حضرت شعبی بریضیہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے۔ اگر تم اس کی عدت تین حیض قرار دیتے ہو تو اس کو آقا کا وارث کیوں نہیں بناتے!؟

(۱۹۰۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسَّرْوَةِ إِذَا تُوَفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَحَمْسُ لَيَالٍ .

(۱۹۰۸۸) حضرت عطاء بریضیہ اور حضرت طاؤس بریضیہ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی اور آقا سے ازدواجی تعلقات رکھنے والی باندی کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی عدت دو مہینے پانچ راتیں ہے۔

(۱۹۰۸۹) حَدَّثَنَا النَّعْفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذِكْرَةَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَرَّقَ بَيْنَ رَجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ نِكَحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَبْتَدُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أَلَا تَرَاهُمْ مِنَ الْأَزْوَاجِ .

(۱۹۰۸۹) حضرت یحییٰ بن سعید بریضیہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بریضیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ عبد الملک بن مروان بریضیہ نے مردوں اور ان کی ایسی بیویوں کے درمیان جدائی کرادی جو اپنے آقاؤں کی ام ولد تھیں۔ لیکن ایک یا دو حیضوں کے بعد ان کے نکاح کرادیئے گئے تھے۔ عبد الملک بن مروان بریضیہ کا حکم تھا کہ وہ چار مہینے دس دن کی عدت گزاریں۔ یہ سن کر حضرت قاسم بریضیہ نے فرمایا سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ تو کیا یہ آقا ان کے خاوند ہیں؟

(۱۵۸) مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُ ؟

اگر ام ولد کو آزاد کر دیا جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

(۱۹۰۹۰) حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ الْعَاصِ أَمْرًا أُمًّا وَوَلَدًا أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَ ثَلَاثَ حَيْضٍ وَكُتِبَ إِلَى عَمْرٍو فَكُتِبَ يُحْسِنُ رَأْيَهُ .

(۱۹۰۹۰) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر بریضیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص بریضیہ نے اس ام ولد کو جسے آزاد کیا گیا تھا حکم دیا کہ وہ تین حیض عدت کے گزارے اور حضرت عمر بریضیہ کو یہی فیصلہ لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر بریضیہ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔

(۱۹۰۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثٌ حَيْضٍ .

(۱۹۰۹۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ام ولد کو آزاد کیا گیا تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۹۲) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثٌ حَيْضٍ .

(۱۹۰۹۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد کو آزاد کرے یا اسے چھوڑ کر مر جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۹۳) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَكَلِدَهُ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ :

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ .

(۱۹۰۹۳) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی ام ولد کو آزاد کر دے تو اس کی عدت دو حیض ہے۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۰۹۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ سُرَيْتَهُ وَهُوَ

صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ تَحِيضٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضٌ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ .

(۱۹۰۹۴) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی ایسی باندی کو آزاد کیا جس سے اس کے ازدواجی

تعلقات تھے تو اگر اسے حیض آتا ہو تو تین حیض عدت گزارے گی اور اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو مہینے کی عدت گزارے گی۔

(۱۹۰۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا

أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا .

(۱۹۰۹۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ام ولد کی عدت ایک حیض ہے خواہ اسے آزاد کیا جائے یا آقا مر جائے۔

(۱۵۹) مَا قَالُوا كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طَلَّقَتْ ؟

جب باندی کو طلاق دی جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

(۱۹۰۹۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۹۰۹۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر اسے حیض نہ آتے ہوں تو اس کی عدت ڈیڑھ مہینہ ہے۔

(۱۹۰۹۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ

لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۹۰۹۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت

گزارے گی۔

(۱۹۰۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمٍ .

(۱۹۰۹۸) حضرت ابراہیم بن سلیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۹۰۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۹۰۹۹) حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .

(۱۹۱۰۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔

(۱۹۱۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۹۱۰۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .

(۱۹۱۰۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۰۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ وَسَمِعَ عُمَرُو بْنُ أَوْسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا فَعَلْتُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتَهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَّتْ .

(۱۹۱۰۳) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں باندی کی عدت ایک حیض اور نصف مقرر کرنے کی طاقت رکھتا تو ضرور ایسا کر دیتا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان کی عدت ڈیڑھ مہینہ مقرر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے سکوت اختیار فرمایا۔

(۱۹۱۰۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ .

(۱۹۱۰۴) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۰۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِيضُ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةً .

(۱۹۱۰۵) حضرت شحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی باندی جو قریب البلوغ ہو اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔ اگر اسے حیض آتا ہو تو اس کی عدت ایک حیض ہے۔

(۱۹۱۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحِيضَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا .

(۱۹۱۰۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت دو حیض ہیں اور اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔

(۱۹۱۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَبَّاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ (۱۹۱۰۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے۔

(۱۶۰) مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِيَعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟

اگر کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دے تو کیا اس پر عدت واجب ہوگی؟

(۱۹۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوَطَّأُ : إِذَا بَيْعَتْ ، أَوْ وَهَبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبِرْ بِحَيْضَةٍ .

(۱۹۱۰۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ باندی جس سے جماع کیا گیا ہو اگر اسے بیچ دیا جائے یا ہبہ میں دے دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے تو وہ ایک حیض عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ .

(۱۹۱۰۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۱۱۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۹۱۱۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۹۱۱۱) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ اعْتَدَتْ بِحِيضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۹۱۱۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کیا جائے تو وہ دو حیض عدت گزارے گی۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۱۲) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ .

(۱۹۱۱۳) حضرت عطاء بن یشیعہ فرماتے ہیں کہ جب باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۱۶۱) مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زَوْجٌ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر کسی باندی کو آزاد کیا جائے اور اس کا خاوند ہو تو وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو عدت کا کیا حکم ہوگا؟
(۱۹۱۱۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَبْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۳) حضرت حسن بن یزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ آزاد عورتوں والی عدت گزاریں۔

(۱۹۱۱۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَشِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۳) حضرت ابراہیم بن یزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے آزاد عورت والی عدت گزاری۔

(۱۹۱۱۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقْتُ فَأَعْتَدْتُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۵) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے آزاد عورت والی عدت گزاری۔

(۱۶۲) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ تَعْتِقُ

اگر ایک آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو اور وہ اسے ایک طلاق دے دے پھر اس باندی

کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت کا کیا حکم ہے؟

(۱۹۱۱۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ طَلَّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاةٌ قَبْلَ أَنْ تُنْقَضِيَ قَالَ : تَعْتَدُ عِدَّةَ الْأَمَةِ.

(۱۹۱۱۶) حضرت ابراہیم بن یزید فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کو دو طلاقیں دی جائیں اور پھر اسے عدت کے پورا ہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو باندی والی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۱۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاةٌ قَبْلَ أَنْ تُنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلَّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاةٌ اعْتَدَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَ مِنْهُ وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا كَذَلِكَ.

(۱۹۱۱۷) حضرت ابراہیم بن یزید فرماتے ہیں کہ جب کسی باندی کو ایک طلاق دی جائے اور پھر اس کو عدت کے پورا ہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو وہ آزاد عورت والی عدت گزارے گی۔ اگر اسے دو طلاقیں دی جائیں اور پھر اسے آزادی مل جائے تو وہ باندی والی عدت گزارے گی۔ یہی حکم اس باندی کا ہے جس کا خاوند مر جائے۔ اور پھر اسے آزادی بھی مل جائے۔

(۱۹۱۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لَا يَنْزَوِجُهَا حَتَّى تَزُوجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ .

(۱۹۱۱۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی ایسی بیوی کو جو کہ باندی تھی ایک طلاق دے دی، پھر عدت کے دوران اسے آزاد بھی کر دیا گیا تو وہ آزاد عورت والی عدت گزارے گی۔ اور جب اس کو دو طلاقیں دیں اور پھر وہ آزاد کر دی گئی تو وہ اس وقت تک اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اس کی عدت باندی والی عدت ہوگی۔

(۱۹۱۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُ حَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ وَزَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا .

(۱۹۱۱۹) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک باندی کو دو طلاقیں دی گئیں۔ پھر اسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ دو حیض عدت گزارے گی۔ اگر اسے ایک طلاق دی گئی اور اسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ تین حیض عدت گزارے گی اور اس کا خاندان اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

(۱۹۱۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ .

(۱۹۱۲۰) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت آزاد عورت والی عدت ہوگی۔

(۱۹۱۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ .

(۱۹۱۲۱) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کو دو طلاقیں دی گئیں پھر اسے آزاد کر دیا گیا تو اس کی عدت باندی والی عدت ہوگی اور اگر اسے ایک طلاق دینے کے بعد آزاد کیا گیا تو اس کی عدت آزاد عورت والی عدت ہوگی۔

(۱۶۲) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَمُوتُ ثُمَّ تَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ

اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہو اور وہ آدمی مر جائے اور اس کی موت کے بعد باندی کو

بھی آزاد کر دیا جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۱۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُهَيَّبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ .

(۱۹۱۲۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا خاندان انتقال کر جائے اور پھر اسے آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ باندی والی

عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۳۲) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْإِعْتِقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَتَمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

(۱۹۱۳۳) حضرت شعبيؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا خاوند انتقال کر جائے اور پھر اسے آزاد بھی کر دیا جائے اور وہ عدت میں ہو تو وہ چار مہینے دس دن پورے کرے گی۔

(۱۶۴) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَيَّهِمَا تَبْدَأُ ؟

اگر کوئی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اور پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی

جائے تو وہ کس عدت کو پہلے گزارے گی؟

(۱۹۱۳۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرَ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمَلُ عِدَّتُهَا الْأُولَى ، وَتَأْتِي مِنْ هَذَا عِدَّةٌ جَدِيدَةٌ وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ حَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيُّ : يَفْرُقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَتُكْمَلُ عِدَّتُهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُ مِنْ هَذَا عِدَّةٌ جَدِيدَةٌ ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا حَاطِبَيْنِ .

(۱۹۱۳۴) حضرت صالح بن مسلمؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر عدت میں کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ اور وہ دوسرے خاوند سے نئے سرے سے عدت شروع کرے گی اور اس کا مہر بیت المال سے دیا جائے گا۔ دوسرا خاوند تو اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا اور پہلا خاوند پیام نکاح بھیج سکتا ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ وہ پہلی عدت کو پورا کرے گی اور اس خاوند سے نئی عدت گزارے گی۔ وہ آدمی ہی اس کا مہر دے گا اور وہ دونوں اسے پیام نکاح بھیج سکتے ہیں۔

(۱۹۱۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمَلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُكْمَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(۱۹۱۳۵) حضرت شعبيؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت میں شادی کر لے اور پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو تین حیضوں سے نئے سرے سے عدت پوری کرے گی اور باقی ماندہ عدت کو پہلے حیض سے شروع کرے گی۔ اور حضرت ابراہیمؒ فرماتے

فرماتے ہیں کہ وہ پہلے خاوند کی باقی ماندہ عدت کو پورا کرے گی اور پھر نئے سرے سے تین حیض پورے کرے گی۔

(۱۹۱۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمَلُ عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُ مِنْ مَاءِ الْآخِرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ .

(۱۹۱۲۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ عورت پہلی عدت کو پورا کرے گی پھر دوسرے پانی کی عدت شروع کرے گی۔ اس کو دوسرے خاوند سے مہر بھی ملے گا۔ جب عدت پوری ہو جائے تو چاہے تو اس دوسرے مرد سے شادی کر لے اور چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے۔

(۱۶۵) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَكُلٌّ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ

وَكُلِّهَا ، مَنْ قَالَ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگر ایک عورت کا کوئی خاوند ہو اور اس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہو اور وہ بچہ مر

جائے تو جن حضرات کے نزدیک مرد اس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب

تک اسے حیض نہ آجائے

(۱۹۱۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأُمَّةَ وَلَهَا وَكُلٌّ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً .

(۱۹۱۲۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا کوئی خاوند ہو اور اس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہو تو مرد اس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب تک اس کے پیٹ کے بچے کی صورت حال واضح نہ ہو جائے یا جب تک اسے حیض نہ آجائے۔

(۱۹۱۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ هَلْ بَهَا حَبْلٌ ، أَوْ لَا .

(۱۹۱۲۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔

(۱۹۱۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَعْتَدَ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ .

(۱۹۱۲۹) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک وہ عدت نہ گزار لے یا اسے حیض نہ آجائے۔

(۱۹۱۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةً فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ .

(۱۹۱۳۰) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک جنازہ پڑھایا اور پھر خاندان سے فرمایا (جب کہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے بچہ تھا) تیرے لئے یہ بات درست نہیں کہ تو کسی دوسرے کے حصے پر قبضہ جمائے۔

(۱۹۱۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالَا : لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَمْ لَا .

(۱۹۱۳۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اور حضرت عمارہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک حمل کا ہونا اور نہ ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔

(۱۹۱۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .

(۱۹۱۳۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے حیض نہ آجائے۔

(۱۶۶) مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعَيْنِينِ ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟

اگر نامرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو کیا عورت عدت گزارے گی؟

(۱۹۱۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : أَجَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَيْنِينَ سَنَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۹۱۳۳) حضرت سعید رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دی کہ اگر وہ جماع کی طاقت رکھے تو ٹھیک ورنہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور عورت پر عدت لازم ہوگی۔

(۱۹۱۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَى السَّنَةُ اعْتَدَتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلَّقْهَا .

(۱۹۱۳۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مہلت کو ایک سال گزار جائے تو عورت مطلقہ والی عدت گزارے گی خواہ نامرد نے طلاق نہ دی ہو۔

(۱۹۱۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةِ الْعَيْنِينَ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

(۱۹۱۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نامرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو اس پر عدت لازم ہوگی۔

(۱۹۱۳۶) حَدَّثَنَا أُسُودُ بْنُ غَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۹۱۳۶) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نامرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو اس پر عدت لازم ہوگی۔

(۱۶۷) مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ، عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعْلَىٰ أَمْرَاتِهِ عِدَّةٌ؟

کیا مرتد کی بیوی پر عدت لازم ہوگی؟

(۱۹۱۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: كَمْ تَعْتَدُ أَمْرَاتِهِ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۱۳۷) حضرت موسیٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرتد شخص کی بیوی کتنی عدت گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ تین حیض۔ میں نے پوچھا اگر اسے قتل کر دیا جائے تو؟ فرمایا چار مہینے دس دن۔

(۱۹۱۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ، عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ: تَعْتَدُ أَمْرَاتِهِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضٌ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعُ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَزَوُّجٍ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا يَسْتَانِ عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا.

(۱۹۱۳۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کافروں کی سرزمین میں چلا جائے تو اس کی بیوی کو اگر حیض آتا ہو تو تین حیض عدت گزارے گی اور اگر حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے۔ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ پھر وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس کا خاندان عدت پوری ہونے سے پہلے واپس آجائے اور توبہ کر لے تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔

(۱۹۱۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ، عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ أَمْرَاتِهِ بِتَطْلِيقِهِ بَائِنَةً وَكَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُ عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ.

(۱۹۱۳۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اس کے پاس بیوی سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا اور عورت مطلقہ والی عدت گزارے گی۔

(۱۹۱۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ أَمْرَاتِهِ، قَالَ أَبُو مَعْشَرَ: فَكُتِبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.

(۱۹۱۴۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہوگا اگر عدت میں وہ رجوع کر لے تو وہ اسی کی بیوی رہے گی۔ حضرت ابو معشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہی بات حضرت عبدالحمید بن عبدالرحمن کی طرف مرتد کے بارے میں لکھی تھی۔

(۱۶۸) مَا قَالُوا فِي ذِمَّةٍ طَلَّقَتْ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجَهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمْ

يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ؟

اگر ذمیہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند مر جائے اور وہ عدت میں مسلمان ہو جائے

تو کتنی عدت گزارے گی؟

(۱۹۱۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طَلَّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ.

(۱۹۱۴۱) حضرت زیاد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر ذمیہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند مر جائے اور وہ عدت میں مسلمان ہو جائے تو کتنی عدت گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر مسلمان عورتوں کے احکام لاگو ہوں گے۔

(۱۹۱۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةٌ ثَلَاثَ حِيضٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۹۱۴۲) حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی نصرانی عورت جو کہ ایک نصرانی کے نکاح میں تھی۔ اگر اسلام قبول کرتی ہے تو کیا ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پر عدت لازم ہوگی، تین حیض یا تین مہینے۔

(۱۹۱۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو سَبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجَهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، نَمَّ تَسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۱۴۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا عیسائی خاوند مر جائے اور عورت اسلام قبول کر لے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ چار مہینے اور دس دن۔

(۱۶۹) مَنْ قَالَ طَلَّاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَّاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا

جن حضرات کے نزدیک عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی

طرح ہے اور ان کی عدت بھی مسلمان عورت کی طرح ہے

(۱۹۱۴۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: طَلَّاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَّاقُ

الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

(۱۹۱۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اور ان کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔

(۱۹۱۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ ، أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَطَلَّاقُهَا طَلَّاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ .

(۱۹۱۴۵) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے کسی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو ان کے درمیان برابری سے کام لے۔ ان کی طلاق اور عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہوگی۔

(۱۹۱۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَّاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَّاقُ الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيُقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ .

(۱۹۱۴۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اور ان کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔ اور ان کے درمیان تقسیم بھی آزاد عورت کی طرح کرے گا۔

(۱۹۱۴۷) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَقَسَمَتْهُمَا سَوَاءً .

(۱۹۱۴۷) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نصرانی کی عدت مسلمان عورت کی طرح ہے اور ان کے درمیان تقسیم بھی برابر ہوگی۔

(۱۹۱۴۸) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يَسْوَى بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ .

(۱۹۱۴۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مسلمان، یہودیہ اور عیسائیہ عورت سے شادی کرے تو مال اور جان میں ان کے درمیان برابری کرے گا۔

(۱۹۱۴۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً .

(۱۹۱۴۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عیسائی عورت سے شادی کرے تو (مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے ان دونوں میں برابری اور تقسیم کا) کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان تقسیم میں برابری کرے گا۔

(۱۷۰) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَكَدَانٍ فَتَضَعُ أَحَدَهُمَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہوں، وہ ایک کو

جنم دے دے تو عدت کا حکم ہے؟

(۱۹۱۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .

(۱۹۱۵۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ایک بچے کو جنم دے اور دوسرا اس کے پیٹ میں ہو تو مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۹۱۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .

(۱۹۱۵۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور ایک بچہ اس کے پیٹ میں باقی تھا تو مرد اس سے رجوع کرنے کا حقدار ہے جب تک وہ دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۹۱۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ .

(۱۹۱۵۲) حضرت عطاء بن میسرہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۹۱۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَعَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا ، وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرٌ ، فَيَرَجِعُهَا رَوْجَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجِعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا .

(۱۹۱۵۳) حضرت قتادہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطاء اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کے بعد عورت ایک بچے کو جنم دے اور دوسرا بچہ اس کے رحم میں ہو تو دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے آدمی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔

(۱۹۱۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْعَقِيلِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَكَدَانٍ ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ وَتَلَا : ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .

(۱۹۱۵۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہوں تو وہ دوسرے بچے کی پیدائش تک رجوع کا حق رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

(۱۹۱۵۵) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْيَدَى يُطَلَّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوِلْدَانُ قَالَ لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

(۱۹۱۵۵) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کے رحم میں دو بچے ہوں تو مرد اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۹۱۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعْ الْآخَرَ.

(۱۹۱۵۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۹۱۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَالْحَسَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعْ الْآخَرَ.

(۱۹۱۵۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۹۱۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كَلَّةٌ.

(۱۹۱۵۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بچے کا کچھ حصہ اپنی ماں کے رحم سے باہر آ جائے تو پھر بھی خاندان کو رجوع کا حق ہوتا ہے جب تک بچہ پورے کا پورا باہر نہ آ جائے۔

(۱۹۱۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ أَبِي حَنْظَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعْ الْآخَرَ.

(۱۹۱۵۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک دوسرے بچے کو جنم نہ دے۔

(۱۷۱) مَنْ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ

جن حضرات کے نزدیک اگر ایک بچے کو جنم دے دے تو عدت ختم ہو جاتی ہے

(۱۹۱۶۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَوَفَّى الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَيَقِي فِي بَطْنِهَا آخَرَ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ.

(۱۹۱۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دی۔ عورت نے بچے کو جنم دیا اور اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ بھی تھا تو پہلے بچے کی پیدائش سے عدت پوری ہو گئی۔

(۱۹۱۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتُ .

(۱۹۱۶۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بچہ جنم دے دیا تو وہ بانہ ہوگئی۔

(۱۹۱۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتُ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ : حُصِمَ الْعَبْدُ .

(۱۹۱۶۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بچہ جنم دے دیا تو وہ بانہ ہوگئی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اب وہ شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بندے (حضرت عمرؓ) سے جھگڑا کیا گیا۔

(۱۷۲) مَا قَالُوا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا

عورت عدت کہاں گزارے گی؟

(۱۹۱۶۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زَيْنَةٍ .

(۱۹۱۶۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور زینت والا سرمہ نہیں لگائے گی۔

(۱۹۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنِّي تَرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : أَحْبِسْهَا ، قَالَ : لَا تَجْلِسْ قَالَ : فَيُذْهَبُ قَالَ : إِنَّ لَهَا إِخْوَةَ غَلِيظَةً رِقَابَهُمْ ، قَالَ : اسْتَعِدِ الْأَمِيرَ .

(۱۹۱۶۴) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ گھر سے جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسے روکے رکھو۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ نہیں رکتی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قید کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ اس عورت کے بھائی ہیں جو بڑے مضبوط اور توانا ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر کی طرف رجوع کرو۔

(۱۹۱۶۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَزْوَرُ وَلَا تَبِيْتُ .

(۱۹۱۶۵) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت اپنے اقارب سے ملاقات کر سکتی ہے لیکن وہاں رات نہیں گزار سکتی۔

(۱۹۱۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ الطَّهْرِ بِنِدَاءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ .

(۱۹۱۶۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ اپنے خاوند کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ خوشبو بھی صرف طہر میں لگائے جو کہ قسط اور اظفار نامی خوشبو میں سے معمولی سی۔

(۱۹۱۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو زَكِيْرٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَيْشِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : طَلَّقْتُ

بُنْتُ عَمَّ لِي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَاتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: تَعْتَدُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طَلَّقْتُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

(۱۹۱۶۷) حضرت عبدالرحمن بن نھله رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چچا زاد بہن کو تین طلاقیں دے دیں پھر میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں اپنے خاندان کے گھر میں عدت گزارے گی جہاں اسے طلاق دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت قاسم، سالم، ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث، خارجہ بن زید اور سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہم سے سوال کیا تو ان سب نے وہی بات کی جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔

(۱۹۱۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: تَعْتَدَانِ فِي بَيْتِ زَوْجِيهِمَا وَتُحَدَّانِ.

(۱۹۱۶۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں یا اس کا خاوند انتقال کر گیا ہو وہ اپنے خاندان کے گھر میں عدت گزاریں گی اور زیر ناف بالوں کو صاف کریں گی۔

(۱۹۱۶۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَنْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأُرْسِلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ: اتَّقِ اللَّهَ وَرَدَّ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي.

(۱۹۱۶۹) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی (بنت عبدالرحمن بن حکم رضی اللہ عنہ) کو طلاق دی۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور عورت کو اس کے خاوند کے گھر واپس بھیج دو۔ مروان نے کہا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مجھ پر غالب آگئے ہیں۔

(۱۹۱۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةَ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا.

(۱۹۱۷۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو یا اس کا خاوند انتقال کر گیا ہو تو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔

(۱۹۱۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: طَلَّقَتِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ فَسَنِلَ فَفَقَّهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: تَمَكُّتْ فِي بَيْتِهَا، فَسَنِلَ سَعِيدٌ: فَقَالَ: تَمَكُّتْ.

(۱۹۱۷۱) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت کو طلاق دی گئی پھر اس کے بارے میں مدینہ کے فقہاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔ اس بارے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں

نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی۔

(۱۷۲) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّغَةِ أَنْ تَعْتَدَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

جن حضرات کے نزدیک مطلقہ عدت میں اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ بھی کہیں رہ سکتی ہے

(۱۹۱۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفَنِّحَنِي عَلَيَّ قَالَ : فَأَمْرَهَا أَنْ تَحْوَلَ . (مسلم ۱۱۲۱ - ابن ماجہ ۲۰۳۳)

(۱۹۱۷۲) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس بنی مہضہ نے (طلاق کے بعد) حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے اہل کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔

(۱۹۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا : تَعْتَدُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ .

(۱۹۱۷۳) حضرت حسن بن علیؓ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اُردوہ چاہے تو اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں بھی عدت گزار سکتی ہے۔

(۱۹۱۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ قَالٍ : سَأَلْتُ عَطَاءَ فَقَالَ : تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا .

(۱۹۱۷۴) حضرت حبیب بن قالیؓ نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مطلقہ کی عدت کے مقام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ حضرت بنی مہضہ حسن بھی یہی فرماتے تھے۔

(۱۹۱۷۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ :

كُنْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبُتَّةَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَصَعْتَ شَيْئًا لَمْ يَرِ شَيْئًا .

(مسلم ۱۱۱۲ - ابوداؤد ۲۴۷۸)

(۱۹۱۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس بنی مہضہ فرماتی ہیں کہ میں بنو محزوم کے ایک آدمی سے نکاح میں تھی۔ انہوں نے مجھے حتمی طلاق دے دی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ نابینا آدمی ہیں۔ اگر تم ضرورت کے تحت اپنے کپڑے اتارو گی تو بھی وہ کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔

(۱۷۴) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ بَكَرَاءٍ ، مَا تَصْنَعُ ؟

اگر عورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اسے طلاق ہوگئی تو اب وہ کیا کرے؟

(۱۹۱۷۶) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ سَيْلَ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتِ

بِكْرَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطَىٰ أَجْرًا وَتَمُكَّتْ فِي بَيْتِهَا حَتَّىٰ تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا.

(۱۹۱۷۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اسے طلاق ہوگئی تو اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ آدمی مکان کا کرایہ دے اور وہ عدت کے پورا ہونے تک اسی گھر میں رہے۔

(۱۹۱۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتِ بِكْرَاءٍ عَلَىٰ مِنَ الْبِكْرَاءِ ؟ قَالَ : عَلَىٰ زَوْجِهَا .

(۱۹۱۷۷) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت کرائے کے گھر میں رہتی ہو اور اسے طلاق ہو جائے تو کرایہ کون دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کرایہ اس کے خاوند پر لازم ہوگا۔

(۱۷۵) مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّغَةِ ، لَهَا أَنْ تَحْبَرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ كَرِهَهُ

کیا عورت عدت کے دنوں میں حج کر سکتی ہے؟

(۱۹۱۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةَ حَاجَاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .

(۱۹۱۷۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کو واپس بھیج دیا جو عدت کے دنوں میں حج یا عمرے کے لئے نکلی تھیں۔

(۱۹۱۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَمِيدِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةَ حَوَاجٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّىٰ اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .

(۱۹۱۷۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عدت میں حج یا عمرے کے لئے جانے والی عورتوں کو واپس بھیج دیا تھا۔

(۱۹۱۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةَ حَاجَاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .

(۱۹۱۸۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج یا عمرے کے لئے نکلنے والی ان عورتوں کو واپس بھیج دیا جو عدت میں نکلی تھیں۔

(۱۹۱۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا وَالْمُطَلَّغَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مَجْسَدًا .

(۱۹۱۸۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے یا جسے طلاق دے دی جائے وہ نہ حج کرے، نہ عمرہ کرے اور جسم کے ساتھ جڑا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے۔

(۱۹۱۸۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحَجُّ فِي عِدَّتِهَا .
(۱۹۱۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عورت کو ڈانٹا تھا جو اپنی عدت میں حج کے لئے گئی۔

(۱۹۱۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَاتٍ قُتِلَ أَرْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَيَاهِ .

(۱۹۱۸۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کو ذوالحلیفہ سے واپس بھیج دیا تھا جو حج کرنے گئی تھیں جبکہ ان کے خاوند وہاں شہید کر دیئے گئے تھے۔

(۱۹۱۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَرْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبِيَدَاءِ ، فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ .

(۱۹۱۸۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کو بیداء سے واپس بھیج دیا تھا جن کے خاوند انتقال کر گئے تھے اور انہیں حج سے روک دیا تھا۔

(۱۷۶) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحَجَّ فِي عِدَّتِهَا

جن حضرات نے عورت کو عدت میں حج کرنے کی اجازت دی ہے

(۱۹۱۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كَلْبُومٍ فِي عِدَّتِهَا .

(۱۹۱۸۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کی عدت میں حج کرایا۔

(۱۹۱۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَرْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحُجَّجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .

(۱۹۱۸۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی عدت میں حج کریں۔

(۱۹۱۸۷) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا: تَحَجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۹۱۸۷) حضرت حبيب معلم رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا عورت اپنی عدت میں حج کر سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتی ہے۔ حضرت حبيب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۷۷) فِي الْمَتَوَقَّى عَنْهَا، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے جن حضرات کے نزدیک وہ اپنے خاوند کے گھر میں

عدت گزارے گی

(۱۹۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدَّرَ كَهْمُ بِطَرْفِ الْقُدُومِ فَفَتَلَوْهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةً عَنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ ، عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي وَلَمْ يَدْعُ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا مَالَ وَرِثْتَهُ وَلَا دَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتُ أَنْ تَأْذَنَ فَالْحَقَّ بَدَارِ أَهْلِي ، وَدَارِ إِخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ إِلَيَّ بَعْضُ أَمْرِي قَالَ : فَالْعَلَىٰ إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فَقَالَ : كَيْفَ زَعَمْتَ ؟ قَالَتْ : فَقَصَّصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : أَمْكِنِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (ترمذی ۱۲۰۳۔ ابو داؤد ۲۲۹۴)

(۱۹۱۸۸) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فریعد بنت مالک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند اپنے عجب ناموں کی تلاش میں نکلے جو کہ فرار ہو گئے تھے۔ وہ انہیں مقام قدوم میں ملے جہاں انہوں نے میرے خاوند کو شہید کر دیا۔ جب مجھے میرے خاوند کے انتقال کی خبر ملی تو اس وقت میں میں انصار کے ایک گھر میں تھی جو میرے اہل و عیال کے گھروں سے دور تھا۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے خاوند کے انتقال کی خبر آ پہنچی ہے اور میں ایک ایسے گھر میں ہوں جو میرے والدین اور میرے بھائیوں کے گھر سے دور ہے۔ میرے خاوند نے میرے لئے پیسے بھی نہیں چھوڑے جو مجھ پر خرچ کئے جائیں، نہ مال ہے جس کی میں وارث بنوں اور نہ ہی کوئی ایسا گھر ہے جس کے وہ مالک ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں۔ یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اس میں میرے لئے زیادہ فائدہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جو چاہو کر لو۔ حضرت فریعد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فیصلہ سن کر میں اس حال میں باہر آئی کہ میری آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ پھر اس کے بعد میں مسجد میں تھی یا کسی کمرے میں تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں ہی ٹھہری رہو جس میں تمہارے خاوند کے انتقال کی خبر آئی تھی یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے چار مہینے اور دس دن وہیں گزارے۔

(۱۹۱۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسْوَةَ مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهَا أَرْوَاجُهَا

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْتَمِعَنَّ بِالنَّهَارِ وَيَبْتِنَ فِي يَوْمَيْهِمَا.

(۱۹۱۸۹) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمدان کی کچھ عورتوں کے خاوند قتل کر دیئے گئے تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دن کو جمع ہو جایا کریں اور رات اپنے گھروں میں گزارا کریں۔

(۱۹۱۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَوَفَّى عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَرْوَاجَهُنَّ فَأَرَدْنَا أَنْ يَجْتَمِعَنَّ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَتَعَدَّدَنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُ قَالَ: تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا.

(۱۹۱۹۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمدان کی کچھ عورتوں کے خاوند قتل کر دیئے گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان میں سے ایک عورت کے گھر میں عدت گزار لیں۔ اس بارے میں سوال کرنے کے لئے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر عورت اپنے گھر میں عدت گزارے۔

(۱۹۱۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مَسِيكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَمَخَّضَتْ عِنْدَهُمْ فَبَعَثُونِي إِلَى عُمَانَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ فَلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَمَخَّضُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: فَأَمْرَبَهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْجَالِ.

(۱۹۱۹۱) حضرت مسیکہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے گئی۔ وہاں اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ اس وقت وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ فلاں عورت اپنی عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لئے گئی تھی وہاں اسے بچے کی پیدائش کا درد ہونے لگا ہے۔ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے اسی حال میں اس کے گھر لے جایا جائے۔

(۱۹۱۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ تُوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بِيَاضِ يَوْمِهَا.

(۱۹۱۹۲) حضرت ابن توبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور وہ فاقہ کا شکار تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس بات کی رخصت دے دی کہ دن کی روشنی میں وہاں چلی جایا کرے۔

(۱۹۱۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخَّصْ لَهَا إِلَّا فِي بِيَاضِ يَوْمِهَا أَوْ لَيْلَتِهَا.

(۱۹۱۹۳) حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے اسے روشنی میں ان کے پاس جانے کی

اجازت دے دی۔

(۱۹۱۹۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتْ امْرَأَةٌ تَعْتَدُ مِنْ زَوْجِهَا ، تُؤَفِّي عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبَاهَا تَمْرُضُهُ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كُنْتُ إِحْدَى طَرَفِي النَّهَارِ فِي بَيْتِكَ .

(۱۹۱۹۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا خاندان فوت ہو گیا تھا اور وہ عدت میں تھی۔ اس دوران اس عورت کے والد بیمار ہو گئے۔ اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج کر سوال کیا کہ کیا وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لئے جاسکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دن کے ایک کنارے میں اپنے گھر میں رہو تو جاسکتی ہو۔

(۱۹۱۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا يَبِيْتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا .

(۱۹۱۹۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاندان فوت ہو گیا ہو وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں رات نہیں رہ سکتی۔

(۱۹۱۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً تُؤَفِّي زَوْجِهَا فَاعْتَدَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ .

(۱۹۱۹۶) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کا خاندان فوت ہو گیا تھا اس نے عدت کے دنوں میں سے ایک دن اپنے گھر کے علاوہ کہیں گزارا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے وہ دن قضا کرنے کا حکم دیا۔

(۱۹۱۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ .

(۱۹۱۹۷) حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ وہ عورت جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو کیا وہ شہر چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ البتہ اگر اس کے گھر والے چھوڑ رہے ہوں تو چھوڑ سکتی ہے۔

(۱۹۱۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا؟ قَالَ : لَا .

(۱۹۱۹۸) حضرت خصیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاندان فوت ہو گیا ہو کیا وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۹۱۹۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ : لَا تَنْتَقِلُ .

(۱۹۱۹۹) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ وہ گمراہ نہیں کر سکتی۔

(۱۹۲۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُؤَفِّي أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا .

(۱۹۲۰۰) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت کا خاندان فوت ہو گیا ہو وہ اپنی عدت پوری کئے بغیر خاندان کے

گھر سے نہیں نکل سکتی۔

(۱۹۲.۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَاذَتْ عُمَرَ فَلَمْ يَرْخُصْ لَهَا إِلَّا فِي لَيْلَةٍ .

(۱۹۲.۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت خاوند کے فوت ہونے کے بعد عدت گزار رہی تھی۔ کہ اس کے والد بیمار ہو گئے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی تیمارداری کی اجازت چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف دن کے وقت انہیں جانے کی اجازت دی۔

(۱۹۲.۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ : تُوَفِّي صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زُرْعًا لَهُ بَقَاءً فَجَانَّتْ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ أَخْرُجُ فَاقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَاتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ .

(۱۹۲.۲) حضرت عوف بن ابی جمیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ قباء میں ان کا کھیت تھا۔ ان کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے سوال کرو کہ کیا میں اس کھیت میں کام کر سکتی ہوں؟ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کے پاس آیا اور میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دن کے وقت نکل سکتی ہے رات کو نہیں نکل سکتی۔

(۱۹۲.۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُوَفِّي زَوْجَهَا فَاتَتْهُمْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنْعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكَ فَبِيتِي فِيهِ .

(۱۹۲.۳) حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی ایک بیٹی کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے پاس رات گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنے گھر چلی جاؤ اور وہیں رات گزارو۔

(۱۷۸) مِنْ رَخِصَ لِلْمَتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجَهَا أَنْ تَخْرُجَ

جن حضرات کے نزدیک خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت اس کے گھر سے جا سکتی ہے

(۱۹۲.۴) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كَلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ .

(۱۹۲.۴) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا گھر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن کا گھر تبدیل کر دیا تھا۔

(۱۹۲.۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْرُجُ

(۱۹۲۰۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت اس کے گھر سے جا سکتی ہے۔

(۱۹۲۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْنَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَا : تَخْرُجُ .

(۱۹۲۰۶) حضرت عطاء بن یساف اور حضرت ابو شعناہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت اس کے گھر سے جا سکتی ہے۔

(۱۹۲۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ أَنَهُمَا قَالَا : تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا حَيْثُ شَاءَتْ .

(۱۹۲۰۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔

(۱۹۲۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ رَحْلٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا .

(۱۹۲۰۸) حضرت علی بن رضی اللہ عنہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت کو اس کے گھر سے جانے کی اجازت دیتے تھے۔

(۱۹۲۰۹) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كَلْتُومٍ بَعْدَ سَبْعِ .

(۱۹۲۰۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ (اپنی صاحبزادی) حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کی شہادت کے سات دن بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔

(۱۷۹) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ

اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اسے ایک یا دو حیض آجائیں اور وہ عورت

شادی کر لے تو کیا پہلے خاوند کے پاس رجوع کا حق ہوگا؟

(۱۹۲۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَنْقَضَتْ عِدَّتَهَا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَالَ : بَأْتَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .

(۱۹۲۱۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور اسے ایک یا دو حیض آجائیں، پھر وہ عورت عدت میں کسی سے شادی کر لے اور اس کی عدت دوسرے خاوند کے پاس پوری ہو تو وہ پہلے خاوند سے ایک طلاق کے ساتھ بائسہ ہو جائے گی۔

(۱۹۲۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ أَنْقَضَتْ عِدَّتَهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لَزَوْجَهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ أَنْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا .

(۱۹۲۱۱) حضرت عبدالاعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس کی عدت میں شادی کرے اور پھر اسے بعد میں معلوم ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے تو کیا پہلے خاوند کو رجوع کا حق ہے؟ انہوں نے سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرانی جائے گی اور مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا کیونکہ عورت کی عدت اس کے پاس پوری ہوگئی۔

(۱۹۲۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَفْرُبُهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا .
(۱۹۲۱۳) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کا زیادہ حقدار ہے اور وہ عدت پوری ہونے تک اسکے قریب نہیں جائے گا۔
(۱۹۲۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مِغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتَ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ .

(۱۹۲۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں، پھر اس کے پاس سے دو حیض آئے اور پھر ایک آدمی نے اس سے شادی کی اور اس کے پاس سے ایک حیض آیا تو وہ پہلے خاوند سے ہائے ہوگئی اور اس کے بعد والے کو شمار نہیں کرے گی۔

(۱۹۲۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ .
(۱۹۲۱۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والے کو شمار کرے گی۔

(۱۸۰) مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُ ؟

کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

(۱۹۲۱۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي الْأَمَةَ اعْتَدَتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ .

(۱۹۲۱۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ دو مہینے پانچ دن عدت گزارے گی۔

(۱۹۲۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ .

(۱۹۲۱۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت آزاد عورت کی عدت کا نصف ہے یعنی دو مہینے پانچ دن۔

(۱۹۲۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ .

(۱۹۳۱۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ دو مہینے پانچ دن عدت گزارے گی۔

(۱۹۳۱۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الْأَمَةِ : إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخُمْسَةَ أَيَّامٍ .

(۱۹۳۱۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن قسیط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ دو مہینے پانچ دن عدت گزارے گی۔

(۱۹۳۱۹) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .

(۱۹۳۱۹) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر باندی کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ آزاد عورت والی عدت گزارے گی۔

(۱۸۱) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّلَاثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرَا جَعَهَا ،

مَنْ قَالَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

ایک عورت کو اس کا خاوند طلاق دے اور پھر عدت میں اسے تیسرا حیض آجائے تو جن

حضرات کے نزدیک اب خاوند رجوع نہیں کر سکتا

(۱۹۳۲۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مَعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِذَا طَعَنْتَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ بَرَأْتَ مِنْهُ .

(۱۹۳۲۰) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کا تیسرا حیض شروع ہو گیا تو وہ خاوند سے آزاد ہو گئی۔

(۱۹۳۲۱) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ الْمَطْلُوقَةُ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَرَا جَعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .

(۱۹۳۲۱) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رجوع سے پہلے عورت کا تیسرا حیض شروع ہو گیا تو خاوند رجوع نہیں کر سکتا۔

(۱۹۳۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا دَخَلْتَ فِي الدَّمِ الثَّلَاثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .

(۱۹۳۲۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عورت تیسرے حیض میں داخل ہوئی تو اب آدمی رجوع نہیں کر سکتا۔

(۱۹۳۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا

حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ .

(۱۹۲۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت کو تیسرا حیض آجائے تو وہ بانہ ہوگی۔
(۱۹۲۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ .

(۱۹۲۲۳) حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما اور حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت کو تیسرا حیض آجائے تو وہ بانہ ہوگی۔

(۱۹۲۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

(۱۹۲۲۵) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت کو تیسرا حیض آجائے تو وہ بانہ ہوگی۔

(۱۸۲) مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

جن حضرات کے نزدیک آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت

تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے

(۱۹۲۲۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ .

(۱۹۲۲۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔

(۱۹۲۲۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ .

(۱۹۲۲۷) حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔

(۱۹۲۲۸) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۹۲۲۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔

(۱۹۲۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ .

(۱۹۲۲۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔

(۱۹۲۳۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَابِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ ، وَأَبْنُ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءَ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّلَاثَةِ ، بِرِثَتِهَا وَتَرْتِئُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

(۱۹۲۳۰) حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابودرداء، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ ایک یا دو طلاقیں دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض کا غسل نہ کر لے۔ جب تک وہ عدت میں ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

(۱۹۲۳۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ تَفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . (سعيد بن منصور ۱۲۲۳)

(۱۹۲۳۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے غسل خانے میں جانے کے بعد پانی ڈالنے سے پہلے وہ رجوع کر لے تو وہ اس کا حقدار ہے۔

(۱۹۲۳۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ .

(۱۹۲۳۲) حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔

(۱۹۲۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكَ فَقَالَتْ : كَذَبْتُ كَذَبْتُ ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا .

(۱۹۲۳۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس وقت جائے جب وہ تیسرے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنے لگی ہو اور اس سے کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کی، اور وہ عورت کہے کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا اور اپنے سر پر پانی ڈال لے تو بھی وہ شخص اس عورت کا زیادہ حقدار ہوگا۔

(۱۹۲۳۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ مَرْحَمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .

أَوْ تَطْلِقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ : يَا فُلَانَةُ إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكَ ، فَقَالَتْ : كَذَبْتَ ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَأَرْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ ، هَلْ كُنْتَ لَطَمْتَنِي بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْتُ ، قَالَ : فَقَالَ : خُذْ بِيَدِهَا .

(۱۹۲۳۳) حضرت ضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے کسی نوجوان سے شادی کی۔ اس نوجوان نے اسے ایک یا دو طلاقیں دے دیں۔ پھر وہ اس کے پاس اس وقت آیا جب وہ عورت تیسرے حیض کا غسل کر رہی تھی۔ اور اس سے کہا کہ اے فلانی! میں نے تجھ سے رجوع کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا! تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے ابو عبدالرحمن! آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عورت کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تو نے اپنے جسم پر پانی ڈال لیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا۔

(۱۸۳) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجْلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَعْلَمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَرَا جِعَهَا وَلَا يَعْلَمُهَا
الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ

ایک شخص اپنی بیوی کو اعلانیہ طلاق دے اور پھر رجوع کر لے لیکن عورت کو رجوع کا علم نہ

ہو اور وہ شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۲۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمُهَا فَأَشْهَدَ عَلَيَّ رَجْعَتِهَا وَلَمْ يَعْلَمُهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ أَدْرَكَتَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا .

(۱۹۲۳۵) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو کنف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اطلاع دیے بغیر طلاق دی اور پھر اطلاع دیے بغیر رجوع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس کے شادی کرنے سے پہلے اسے پالو تو تم ہی اس کے حقدار ہو۔

(۱۹۲۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : إِذَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ رَجْعَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمُهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمُهَا .

(۱۹۲۳۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر کسی کو گواہ بنا لے تو وہ اپنی بیوی کا زیادہ حقدار ہے اس کا اعلان کرے یا نہ کرے۔

(۱۹۲۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مَطْرَفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ بَرِيدٍ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحِ

فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: طَلَّقْنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِى زَوْجِي فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۹۲۳۷) حضرت عمیر بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کا جھڑالے کر آیا۔ عورت کہتی تھی کہ اس نے مجھے طلاق دی، لیکن رجوع کا نہ بتایا، یہاں تک کہ میری عدت گزر گئی اور میں نے شادی کر لی۔ میرے خاوند نے مجھ سے دخول بھی کر لیا۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ جیسے تم نے اسے طلاق کا بتایا تھا رجوع کا کیوں نہ بتایا؟! پھر آپ نے عورت اسے واپس نہ کی۔

(۱۹۲۳۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقُضِيَ الْعِدَّةَ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .

(۱۹۲۳۸) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اسے رجوع کی اطلاع نہ دی یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی اور اس نے شادی کر لی اور دوسرے خاوند نے اس سے دخول بھی کر لیا تو پہلے کو کچھ نہیں ملے گا۔

(۱۹۲۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكْتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنَّ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ .

(۱۹۲۳۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا لیکن رجوع کو خفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزر گئی۔ تو اگر عورت کے نکاح کرنے سے پہلے اس نے عورت کو پالیا تو وہ اسکی بیوی ہوگی اور اگر عورت نے شادی کر لی تو اس کی رجوع ضائع ہوگی۔

(۱۹۲۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابَ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ فَرَكَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

(۱۹۲۴۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابونکف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر سفر پر چلے گئے اور بیوی سے رجوع کر لیا۔ اس کی طرف خط بھی لکھا اور اس رجوع پر گواہ بھی بنائے۔ عورت کو ان کا خط نہیں ملا اور عدت کے پورا ہونے پر اس نے شادی کر لی۔ ابونکف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کے اس وقت تک زیادہ حقدار ہو جب تک وہ اس سے دخول نہ کر لے۔

(۱۹۲۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخُلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .

(۱۹۲۴۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت میں پہلا خاوند زیادہ حقدار ہے خواہ دوسرا دخول کرے یا نہ کرے۔

(۱۹۲۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ .
(۱۹۲۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی۔

(۱۹۲۴۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُمَيْبَةَ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِي كَنْفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يَعْلَمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ تَأْتِ زَوْجَهَا الَّذِي نَكَحَتْ فِيهِ امْرَأَتِكَ ، فَرَجِعْ فَلَمْ يَجِدْهَا أَنْتَ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا .

(۱۹۲۴۳) حضرت حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابونکف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر ان سے رجوع کر لیا لیکن رجوع کی اطلاع انہیں نہ دی۔ پھر ان کی بیوی نے شادی کر لی۔ ابونکف رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اگر ان کا خاندان کے قریب نہیں گیا تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ گئے اور دیکھا کہ ان کے خاندان بھی ان کے قریب نہ گئے تھے۔ لہذا ابونکف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا۔

(۱۹۲۴۴) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فِيهِ امْرَأَتَهُ .

(۱۹۲۴۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر اسے رجوع کا پیغام بھیجا۔ لیکن رجوع کا پیغام ملنے سے پہلے وہ شادی کر چکی تھی تو وہ عورت باندہ ہو جائے گی اور اگر شادی کرنے سے پہلے رجوع کا پیغام ملا تو وہ اسی کی بیوی رہے گی۔

(۱۹۲۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۹۲۴۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں رجوع کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

(۱۸۴) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، فِي أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُ ؟

اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۱۹۲۴۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ قَالَ : وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ : عَدَّتْهَا مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ . وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ .

(۱۹۲۳۶) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت نافع رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اس دن سے عدت گزارے گی جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

(۱۹۲۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمَ يَمُوتُ.

(۱۹۲۴۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس دن سے عدت گزارے گی جس دن خاوند کا انتقال ہوا ہے۔

(۱۹۲۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلَّقُ.

(۱۹۲۴۸) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہوا جس دن وہ طلاق دے۔

(۱۹۲۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا.

(۱۹۲۴۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوگی جس دن آدمی طلاق دے یا جس دن اس کا انتقال ہو۔

(۱۹۲۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَابْنِ الْعَلَاءِ، قَالُوا: الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ، فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۵۰) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا وہ طلاق دے۔ جس نے میراث میں سے کوئی چیز کھائی تو وہ اس کے حصہ میں سے شمار ہوگی۔

(۱۹۲۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: تَعْتَدُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلَّقُ.

(۱۹۲۵۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ طلاق دے۔

(۱۹۲۵۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَعْتَدُ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ.

(۱۹۲۵۲) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ طلاق دے۔

(۱۹۲۵۳) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَنْكَلِمَ بِالطَّلَاقِ.

(۱۹۲۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ طلاق کی بات کرے۔

(۱۹۲۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.

(۱۹۲۵۴) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو۔

(۱۹۲۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا .

(۱۹۲۵۵) حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو۔

(۱۹۲۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلَّقُ .

(۱۹۲۵۶) حضرت جابر بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ

طلاق دے۔

(۱۹۲۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ .

(۱۹۲۵۷) حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ

طلاق دے۔

(۱۹۲۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، وَيَوْمَ يُطَلَّقُ .

(۱۹۲۵۸) حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ

طلاق دے۔

(۱۹۲۵۹) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ قَفَّهُ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلَّقُ .

(۱۹۲۵۹) حضرت عبد الرحمن بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ

طلاق دے۔

(۱۸۵) مِنْ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی

(۱۹۲۶۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .

(۱۹۲۶۰) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۹۲۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .

(۱۹۲۶۱) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۹۲۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .

(۱۹۲۶۲) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۹۲۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبْرُ .

(۱۹۲۶۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۹۲۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبْرُ .

(۱۹۲۶۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۹۲۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَلَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَا : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبْرُ .

(۱۹۲۶۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کو خبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

(۱۸۶) مَنْ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

جن حضرات کے نزدیک عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فوتیدگی یا

طلاق کی گواہی دیں

(۱۹۲۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

(۱۹۲۶۶) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فوتیدگی یا طلاق کی گواہی دیں۔

(۱۹۲۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ :

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تَوَفَّى إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ .

(۱۹۲۶۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ اس وقت سے عدت شروع کرے گی

جس دن گواہ اس کے فوت ہونے کی گواہی دے دیں۔

(۱۹۲۶۸) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ وَإِذَا

طَلَّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ .

(۱۹۲۶۸) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ

کس دن سے عدت گزارنا شروع کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر گواہی قائم ہو جائے تو جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا اسی

دن سے عدت گزارنا شروع کر دے اور جب طلاق ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۹۲۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ

إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۲۶۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوجیدگی یا طلاق کی گواہی قائم ہو جائے۔

(۱۹۲۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۲۷۰) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوجیدگی یا طلاق کی گواہی قائم ہو جائے۔

(۱۹۲۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۲۷۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوجیدگی یا طلاق کی گواہی قائم ہو جائے۔

(۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : تَعْتَدُ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۲۷۲) حضرت محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوجیدگی یا طلاق کی گواہی قائم ہو جائے۔

(۱۹۲۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گواہی ہو تو عدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن خاوند کا انتقال ہو اور اگر گواہی نہ ہو تو اس دن سے جب اسے انتقال کی خبر ملی۔

(۱۹۲۷۴) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلَّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ إِذَا اعْتَدَتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۴) حضرت مکحول رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غائب ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو اگر عادل گواہی قائم ہو جائے تو عورت اسی دن سے عدت گزارنا شروع کرے جس دن انتقال ہو اور اگر عادل گواہی نہ ہو تو اس دن سے عدت گزارے جس دن اسے اطلاع ملی۔

(۱۹۲۷۵) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا شَهِدَتْ الشَّهَادَةُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۲۷۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں تو عورت اس دن سے عدت گزارے جس دن خاوند

کا انتقال ہوا۔

(۱۸۷) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبِقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقَهُ طَلَاقًا؟

اگر شادی شدہ غلام فرار ہو جائے تو کیا اس کا فرار ہونا طلاق کے مترادف ہے؟

(۱۹۲۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

(۱۹۲۷۶) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام کا فرار ہونا طلاق نہیں ہے۔

(۱۹۲۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ.

(۱۹۲۷۷) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ غلام کا فرار ہونا طلاق نہیں ہے۔

(۱۹۲۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا.

(۱۹۲۷۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام کا فرار ہونا طلاق ہے۔

(۱۹۲۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ سُنِلَ عَنْ عَبْدِ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنْ

جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِيَ الْعِدَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقِهِ.

(۱۹۲۷۹) حضرت حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر شادی شدہ غلام فرار ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ عدت پوری ہونے سے پہلے واپس آجائے تو وہ اسی کی بیوی ہوگی اور اگر عدت پوری ہو جائے تو وہ ایک

طلاق کے ساتھ بائذ ہو جائے گی۔

(۱۸۸) مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّعَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا؟

طلاق یافتہ عورت کا خاوند (جس کے پاس رجوع کا حق ہو) اس کے پاس آنے سے

پہلے اجازت لے گا یا نہیں؟

(۱۹۲۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ

يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: يَخَوْفُقُ بِنَعْلَيْهِ.

(۱۹۲۸۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے پاس رجوع کا حق تھا تو وہ اس کے

پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو توں کی آواز سے

اسے اطلاع دے گا۔

(۱۹۲۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا .

(۱۹۲۸۱) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں تھیں اور وہ ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے۔

(۱۹۲۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْحُلُ بِكُحْلِ زَيْنَةٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا .

(۱۹۲۸۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی اور وہ زینت کے لئے سرمہ نہیں لگائے گی اور اس کا خاوند اس کی اجازت سے ہی اس کے پاس آسکتا ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں ہوگا۔

(۱۹۲۸۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ وَكَيْتَنَحَّحْ وَلَا يَغْتَرِهَا بَدْخُولِ .

(۱۹۲۸۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی (اپنی طلاق یافتہ عورت گزارنے والی) بیوی کے پاس جانے لگے تو اسے اپنی آمد کا احساس دلادے اور گلا صاف کرنے کی آواز نکال لے، اچانک اس کے پاس بلا اطلاع داخل نہ ہو۔

(۱۹۲۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا .

(۱۹۲۸۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی کو ایک طلاق دے دی تو اس کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔

(۱۹۲۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا : يُشْعِرُ بِالتَّحْنُحِ .

(۱۹۲۸۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گلا صاف کر کے اسے اپنی آمد کا احساس دلانے۔

(۱۹۲۸۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّحْنُحِ .

(۱۹۲۸۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گلا صاف کر کے اسے اپنی آمد کا احساس دلانے۔

(۱۹۲۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سَيْلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يَصَوْتُ وَيَتَنَحَّحُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا .

(۱۹۲۸۷) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے تو کیا اس کے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ آواز دے اور گلا صاف کرنے کی آواز نکالے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اس عورت کے بال دیکھنا درست نہیں ہے۔

(۱۸۹) من قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

اگر خاوند کے پاس رجوع کا حق ہو تو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی

(۱۹۲۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سَلِيمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا ، أَوْ تَطْلِيقَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

(۱۹۲۸۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوں تو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔

(۱۹۲۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْتِهَا﴾ . قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .

(۱۹۲۸۹) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْتِهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب تک مرد کے پاس رجوع کا حق ہو عورت اس کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔

(۱۹۰) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَّاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوُّفٌ وَتَزِينٌ لَهُ

جن حضرات کے نزدیک اگر آدمی نے عورت کو طلاقِ رجعی دی ہو تو وہ بناؤ سنگھارا اور

زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے

(۱۹۲۹۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ طَلَّاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَنِّعَ وَتَشَوِّفُ لَهُ ، وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا .

(۱۹۲۹۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاقِ رجعی دی ہو تو وہ سرمہ لگا سکتی ہے، رنگ والے کپڑے پہن سکتی ہے، بناؤ سنگھار کر سکتی ہے۔ لیکن اپنے کپڑے نہیں اتارے گی۔

(۱۹۲۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزِينَتْ لَهُ وَتَعَرَّصَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ .

(۱۹۲۹۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاقِ رجعی دی ہو تو وہ اس کے لئے زیب و زینت اختیار کرے گی، اس کے سامنے آئے گی اور جسم کو ڈھانپ کر رکھے گی۔

(۱۹۲۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا ، أَوْ تَطْلِيقَيْنِ فَإِنَّهَا تَزِينُ وَتَشَوِّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ .

(۱۹۲۹۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اور بناؤ سنگھارا اختیار کر سکتی ہے لیکن اس کے سامنے اپنی چادر نہیں اتارے گی۔

(۱۹۲۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا بَيْتًا ، وَيَسْلُمُ إِذَا دَخَلَ .

(۱۹۲۹۳) حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو وہ اس کے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔ البتہ عورت جیسے کپڑے اور زیورات چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر ان دونوں کے پاس ایک ہی کمرہ ہو تو درمیان میں پردہ ڈال لیں اور آدمی آنے سے پہلے سلام کرے۔

(۱۹۲۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَادَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالًا : تَشَوُّفُ لَهٗ .

(۱۹۲۹۴) حضرت زہری رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں تو عورت اس کے لئے بناؤ سنگھارا کر سکتی ہے۔

(۱۹۲۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : لَتَشَوُّفُ لَهٗ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا .

(۱۹۲۹۵) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاقِ رجعی کے بعد عورت اپنے خاوند کے لئے بناؤ سنگھارا کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے اس کے بال دیکھنا درست نہیں۔

(۱۹۲۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَزِينُ لَهٗ وَتَضَعُ لَهٗ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقًا .

(۱۹۲۹۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اختیار کر سکتی ہے اور بن ٹھن کر رہ سکتی ہے۔

(۱۹۱) مَنْ قَالَ الْمُطَلَّعَةَ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزَّيْنَةِ

جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ زیب وزینت کے حکم میں اس عورت کی

طرح ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو

(۱۹۲۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَفَقَّهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَسَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُطَلَّعَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ،

فَقَالُوا: تَحِدَانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطْيِبَ وَالتَّمَشُّطَ.

(۱۹۲۹۷) حضرت عطاء خراسانی، حضرت سعید بن مسیب، فقہاء مدینہ اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاندان کا انتقال ہو گیا ہو وہ دونوں زیر ناف بالوں کو صاف کریں گی لیکن سرمہ، خضاب، خوشبو اور کنگھی کا استعمال نہیں کریں گی۔

(۱۹۲۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزَّيْنَةِ.

(۱۹۲۹۸) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق یافتہ عورت اور وہ جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو زینت کے معاملے میں دونوں کا ایک حکم ہے۔

(۱۹۲۹۹) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَا تَكْحِلُ بِكُحْلِ زَيْنَةٍ.

(۱۹۲۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق یافتہ عورت زینت کے لئے سرمہ نہیں لگائے گی۔

(۱۹۳۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ.

(۱۹۳۰۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاندان کا انتقال ہو گیا ہو وہ دونوں سرمہ نہیں لگائیں گی اور خضاب بھی استعمال نہیں کریں گی۔

(۱۹۳۰۱) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْحِلُ وَلَا تَزِينُ ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عِنْدَهُ.

(۱۹۳۰۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ سرمہ نہیں لگائے گی اور زینت بھی اختیار نہیں کرے گی۔ اس کا حکم اس عورت سے زیادہ سخت ہے جس کا خاندان انتقال کر گیا ہو۔

(۱۹۳۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَّارٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزَّيْنَةِ.

(۱۹۳۰۲) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاندان کا انتقال ہو گیا ہو وہ دونوں زینت کے حکم میں برابر ہیں۔

(۱۹۲) مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزَّيْنَةِ فِي عِدَّتِهَا ؟

وہ عورت جس کا خاندان انتقال کر گیا ہو وہ عدت میں زینت کی کن کن چیزوں سے اجتناب کرے گی؟

(۱۹۲.۳) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تَكْحِلُ وَلَا

تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا ، إِلَّا تَوَبَّ عَصَبٌ ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنِدْوَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ : فِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا .

(۱۹۳۰۳) حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوند انتقال کر گیا وہ عدت میں سرمہ اور خضاب استعمال نہیں کرے گی، رنگا ہوا کپڑے نہیں پہنے گی، البتہ عصب نامی کپڑا پہن سکتی ہے۔ خوشبو استعمال نہیں کرے گی البتہ حیض کا غسل کرتے ہوئے قسط اور اظفار نامی خوشبو میں سے تھوڑی سی لگا سکتی ہے۔

(۱۹۳۰۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ .

(۱۹۳۰۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس عورت کو خوشبو اور زینت سے منع کیا کرتے تھے جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو۔

(۱۹۳۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اشْتَكَّتْ صَفِيَّةُ عِنْدَ لَمَّا تَوَفَّى ابْنُ عُمَرَ ، فَكَانَتْ تَقَطِّرُ فِيهَا الصَّبْرَ .

(۱۹۳۰۵) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے وصال کے بعد ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو وہ آنکھ میں صبر نامی بوٹی کا پانی پٹکایا کرتی تھیں۔ (یعنی علاج کے لئے بھی سرمہ نہیں لگاتی تھیں)

(۱۹۳۰۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطَّيِّبَ ، وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ .

(۱۹۳۰۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند انتقال کر جائے وہ سرمہ، خوشبو، زیور اور رنگ استعمال نہیں کرے گی۔

(۱۹۳۰۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

(۱۹۳۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۹۳۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إِلَّا تَوَبَّ عَصَبٌ ، وَلَا تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ .

(۱۹۳۰۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند انتقال کر گیا ہو وہ نہ سرمہ لگائے گی، نہ خضاب اور نہ ہی خوشبو، وہ صرف عصب نامی کپڑا پہنے گی۔ اپنے خاوند کے گھر سے باہر رات نہیں رہے گی البتہ اقارب سے ملاقات کے لئے جاسکتی ہے۔

(۱۹۳۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَمِيَةَ بِنْتُ عُمَانَ تَوَفَّى زَوْجُهَا فَرَمَدَتْ عَيْنَهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا ، فَهَتَّهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا إِنَّي قَدْ كُنْتُ عَوَدْتَهُ عَيْنِي ، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا لَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ، وَإِنْ أَنْفَضَخْتُ عَيْنُكَ .

(۱۹۳۰۹) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امینہ بنت عثمان رضی اللہ عنہا کے خاوند فوت ہو گئے، خاوند کی فوجیدگی کے بعد ان کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی کو بھیج کر پوچھا کہ بیماری کی صورت میں میں آنکھوں میں اٹھ سرمہ لگایا کرتی تھی۔ مجھے اپنی آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا میں وہی سرمہ استعمال کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اٹھ سرمہ ہرگز نہ لگانا خواہ تمہاری آنکھ ہی ضائع ہو جائے۔

(۱۹۳۱۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ عَطَّارَةٌ ، وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .

(۱۹۳۱۰) حضرت لیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میں خوشبو بیچتی ہوں اور میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے کیا میرے لئے ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت مجاہد نے انہیں خوشبو کو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم سرمہ بھی ضرورت کے تحت لگا سکتی ہو۔

(۱۹۳۱۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ ، عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا .

(۱۹۳۱۱) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ اپنی عدت میں زیور نہیں پہن سکتی۔

(۱۹۳) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ يَنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا

اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر اس کے ورثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا

(۱۹۳۱۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، يَنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے نفقہ نہیں ملے گا بلکہ اس پر اسی کے ورثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .

(۱۹۳۱۳) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ نہیں ملے گا اور اس کے لئے میراث کافی ہے۔

(۱۹۳۱۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر اس کے ورثتی حصے میں سے خرچ کیا

جائے گا۔

(۱۹۳۱۴ م) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۳ م) حضرت عطاءؓ سے ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۹۳۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : لَوْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيْبِهَا ، أَنْفَقْتُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِ الَّذِي لِي بِطُنْجِهَا .

(۱۹۳۱۵) حضرت قبصہ بن ذویبؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں عورت پر اس کے حصے کے علاوہ خرچ کروں تو میں اس کے حصے میں سے خرچ کروں گا جو اس کے پیٹ میں ہے۔

(۱۹۳۱۶) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ وَابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۶) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَقَصَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابن زبیرؓ نے ہمارے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(۱۹۳۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۸) حضرت حکمؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا۔ حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۱۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : نَفَقَتْهَا مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۱۹۳۱۹) حضرت مکحولؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۴) مِنْ قَالَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال

میں سے خرچ کیا جائے گا

(۱۹۳۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ وَشَرِيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَشُرَيْحٍ قَالَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۱) حضرت عبداللہ اور حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ ابْنِ أَسْوَعٍ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ اور کوفہ کے قضاہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۳۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ

فِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَتَفَقَّهْتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت کا خاندان فوت ہو جائے اگر وہ آدمی زیادہ مال والا ہو تو اس کا نفقہ بچے کے حصے میں سے ہوگا اور اگر تھوڑے مال والا ہو تو کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔
(۱۹۳۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ، وَعَنْ مُعِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَوا الْحَامِلُ: الْمَتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۹) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت حماد رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۵) مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟

اگر ام ولد حاملہ ہو اور اس کا آقا انتقال کر جائے تو اس پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟

(۱۹۳۳۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ: فَوَلِي أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النِّفَقَةَ فَكَّرَهُ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا هُوَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَتَفَقَّهْتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْفَى ذَلِكَ.

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ ہر حاملہ کے لئے نفقہ کے قائل تھے۔ یعلیٰ بن خالد کی ام ولد کے لئے انہوں نے نفقہ کی رائے دی تھی لیکن وہ اس بات کو کمرہ خیال فرماتے تھے کہ ام ولد پر قاضی کے بغیر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے عبد الملک بن یعلیٰ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے نفقہ سے منع کر دیا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر زندہ بچے کو جنم دے تو اس کا نفقہ بچے کے حصے میں سے ہوگا اور اگر مردہ بچے کو جنم دے تو اسے لغو قرار دے دیا جائے گا۔

(۱۹۳۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمٌّ وَلَدٍ فَتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا فَتَفَقَّهْتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا.

(۱۹۳۳۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ام ولد کا آقا فوت ہو جائے تو اس کا نفقہ اس کے حصے میں سے ہوگا جو اس کے پیٹ میں ہے۔

(۱۹۶) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتَهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کو حیض نہ آئے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۳۳۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ طَالَتْ ، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَالْأَكْثَرَ .

(۱۹۳۳۲) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت حیض سے شمار کی جائے گی خواہ وہ طویل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت حفص فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال یا زائد کا ذکر کیا۔

(۱۹۳۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُ بِالْحَيْضِ .

(۱۹۳۳۳) حضرت شعبی اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حیض کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

(۱۹۳۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَتْ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَدَتْ لِلْحَمْلِ سَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ .

(۱۹۳۳۴) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کو طلاق دی جائے، پھر اسے ایک یا دو حیض آئی اور اس کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو وہ حیض کے لئے تین مہینے شمار کرے گی اور حمل کے لئے نو مہینے شمار کرے گی، پھر مردوں کے لئے حلال ہو جائے گی۔

(۱۹۳۳۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَمَكَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ .

(۱۹۳۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی، پھر اسے ایک یا دو حیض آئے اور پھر حیض بند ہو گئے تو وہ ایک سال تک انتظار کرے اور ایک سال کے بعد پھر تین مہینے انتظار کرے پھر شادی کرے۔

(۱۹۳۳۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَى الزُّهْرِيِّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرَضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ فَيَقِيلُ لَهُ : إِنَّ مِتَّ وَرَيْتُكَ فَقَالَ : أَحْمِلُونِي إِلَى عُمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُمَانُ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَرَى أَنَّ تَرْتَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالَا : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَا مِنَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّلَاثَةَ فَوَرَّثَتْهُ

(۱۹۳۳۶) حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت زہری نے میری طرف خط لکھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ وہ اس کے ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ پھر وہ عورت سات مہینے یا آٹھ مہینے رکی رہی اسے حیض نہ آیا۔ آدمی سے کسی نے کہا کہ اگر تو مر گیا تو وہ تیری وارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، اسے حضرت عثمان کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور یہ انہی سے اس بارے میں سوال کرے۔ انہوں نے دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہ وارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لئے کہ یہ ان عورتوں میں سے نہیں جو حیض سے ماپوس ہیں اور ان میں سے بھی نہیں جنہیں حیض نہیں آتا۔ اس کو حیض نہ آنے کی وجہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اس کے بعد آدمی نے اپنا بچہ اس سے لے لیا، بچے کا دودھ چھڑوادینے کے بعد اس عورت کو ایک حیض آیا، پھر دوسرے مہینے اسے دوسرا حیض آیا، پھر عورت کو تیسرا حیض آنے سے پہلے آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اس کی وارث بن گئی۔

(۱۹۳۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَتْ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَهَ بَنُ عَبِيدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُوْجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَثَ فِيهَا رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَرْتَهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرْتَهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ .

(۱۹۳۳۷) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شام کے ایک آدمی جن کا احوص تھا انہوں نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں، ابھی وہ عورت تیسرے حیض میں تھی کہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ یہ مقدمہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت فضالہ بن عبید سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا۔ لیکن کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ لہذا ایک سوار کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس اس بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور اگر عورت مر جائے تو خاوند بھی وارث نہیں ہوگا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(۱۹۳۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّلَاثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَانَهَا وَوَرَثَتُهَا مِنْهَا .

(۱۹۳۳۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں پھر خاتون کو سولہ یا سترہ مہینوں میں ایک یا دو حیض آئے، انہیں تیسرا حیض نہ آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی میراث تمہارے لئے روک کر رکھی۔ پھر حضرت عبداللہ نے انہیں وارث قرار دیا۔

(۱۹۳۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّه طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تَرْضِعُ وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكْنَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حَبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

(۱۹۳۳۹) حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت حبان بن منقذ کی دو بیویاں تھیں، ایک بنو ہاشم سے اور دوسری انصار سے۔ انہوں نے اپنی انصاریہ بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ بچے کو دودھ پلاتی تھیں۔ جب وہ بچے کو دودھ پلاتی تھیں تو انہیں ایک سال تک حیض نہیں آتا تھا۔ حضرت حبان وہ سال پورا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو حضرت عثمان بن عفان نے ان کی بیوی کو وارث قرار دیا۔ اور ہاشمیہ بیوی سے فرمایا کہ یہی رائے تمہارے پچازاد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔

(۱۹۳۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْيَتْمَى لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ قَالَ : تَعْتَدُ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ .

(۱۹۳۴۰) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو کئی مہینوں میں ایک مرتبہ حیض آتا ہو وہ بھی عدت حیض کے اعتبار سے گزارے گی خواہ حیض طویل ہی کیوں نہ ہو جائے۔

(۱۹۷) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقِضِيَ الْعِدَّةَ

اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق کو چھپائے رکھے یہاں تک کہ عدت گزر جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۳۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ رَجَلَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السَّرِّ وَقَالَ : اِكْتُمَا عَلَيَّ ، فَكْتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيِّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهِمَا رَجْعَةً .

(۱۹۳۴۱) حضرت خلاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دو آدمیوں کو خفیہ طریقے سے گواہ بنایا اور ان سے کہا کہ اس راز کو چھپا کر رکھنا۔ انہوں نے اس بات کو خفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزر گئی۔ یہ مقدمہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ کو مجرم گردانتے ہوئے کوڑے لگوائے اور مرد کو رجوع کے حق سے محروم قرار دیا۔

(۱۹۳۴۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِنَسِ مَا صَنَعَ .

(۱۹۳۳۲) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور ایک سال تک انہیں طلاق کی خبر نہ دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا۔

(۱۹۳۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(۱۹۳۳۳) حضرت محمد بن منشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر طلاق کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ عدت گزر گئی تو اہل علم نے اسے برا قرار دیا۔

(۱۹۸) مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ دو ثالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہوگا

(۱۹۳۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا يَفْرُقُ .

(۱۹۳۴۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثالثوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو جمع کرتا ہے اور انہی کے ذریعے جدا کرتا ہے۔

(۱۹۳۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ .

(۱۹۳۴۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو ثالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دو ثالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہوگا۔

(۱۹۳۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَانَا جَمَعَا ، وَإِنْ شَانَا فَرَّقَا .

(۱۹۳۴۶) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثالث چاہیں تو دونوں کو جمع کر دیں اور چاہیں تو جدا کر دیں۔

(۱۹۳۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ .

(۱۹۳۴۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو ثالث ہیں۔

(۱۹۳۴۸) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا حُكْمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ وَإِنْ اتَّفَقَا جَارَ حُكْمَهُمَا .

(۱۹۳۴۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں کسی اور

کو ثالث بنایا جائے اور اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو انہی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔

(۱۹۲۴۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ: إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمَيْهِمَا وَلَا تَتَّبِعْ أَثَرِ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ.

(۱۹۳۳۹) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر دیں تو ان کا فیصلہ قبول کر لو اور کسی اور کے پیچھے مت جاؤ اگر چہ ان کی طرف سے تمہارے خلاف ہی فیصلہ کیا گیا ہو۔

(۱۹۳۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ: هُمَا الْحَكَمَانِ.

(۱۹۳۵۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو ثالث ہیں۔

(۱۹۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبِرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ

لَا وَاخْتِلَافَهُمَا فِي ذَلِكَ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟

(۱۹۳۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ.

(۱۹۳۵۱) حضرت ابو زناد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ سنت ہے۔

(۱۹۳۵۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ، أَوْ يُطَلِّقَ.

(۱۹۳۵۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یا اسے نفقہ دے یا طلاق۔

(۱۹۳۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ، قَالَ: وَيَلْغِي أَنْ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ.

(۱۹۳۵۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے مہلت دی جائے گی اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی یونہی

فرماتے ہیں۔

(۱۹۳۵۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَفْرُقْ بَيْنَهُمَا .
(۱۹۳۵۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔

(۱۹۳۵۵) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ ، عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا ، امْرَأَةٌ ابْتَلَيْتَ فَلْتَصْبِرْ .

(۱۹۳۵۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ اس عورت پر آزمائش آئی ہے یہ صبر کرے۔

(۱۹۳۵۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ : يُوَجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا .

(۱۹۳۵۶) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے لیکن اس کے پاس اسے دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ اگر پھر بھی کچھ نہ ہو سکے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔

(۱۹۳۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا .
(۱۹۳۵۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(۲۰۰) مَنْ قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوی سے دور چلا گیا ہو اس پر بھی بیوی کا نفقہ لازم ہے

اگر وہ بھیجے تو ٹھیک وگرنہ طلاق دے

(۱۹۳۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا مَرُومُ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يَقَارِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ .

(۱۹۳۵۸) حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کردہ لشکروں کے سپہ سالاروں کو حکم لکھا تھا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے دور ہیں انہیں حکم دو کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ جائیں۔ یا تو انہیں چھوڑ دیں یا انہیں نفقہ بھیجیں۔ جو اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اس نفقے کو بھیجے جو اب تک نہیں بھیجا ہے۔

(۱۹۳۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا .

(۱۹۳۵۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام یہ خط لکھا کہ جو شخص دو سال سے اپنی بیوی سے دور ہے وہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے لئے نفقہ بھیجے۔

(۱۹۳۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا .
(۱۹۳۶۰) حضرت نکر مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دو سال سے اپنی بیوی سے دور ہے وہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے لئے نفقہ بھیجے۔

(۱۹۳۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَوْ طَلَّقَهَا .

(۱۹۳۶۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کافی عرصے سے اپنی بیوی سے دور ہو تو یا تو اپنی بیوی کو نفقہ دے یا اسے طلاق دے دے۔

(۱۹۳۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً .

(۱۹۳۶۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ کے نزدیک بیوی سے دور شخص پر نفقہ واجب نہیں۔

(۱۹۳۶۳) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقَهَا .

(۱۹۳۶۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کافی عرصے سے بیوی سے دور ہو تو یا تو اسے نفقہ بھیجے یا اسے طلاق دے دے۔

(۲۰۱) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟

اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو کیا عورت دخول سے پہلے اس سے نفقہ طلب کر سکتا ہے؟

(۱۹۳۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .

(۱۹۳۶۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرے تو اسے اس وقت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کرے۔

(۱۹۳۶۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فَضِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .

(۱۹۳۶۵) حضرت کامل بن فضیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے دخول کے بغیر کہیں چلا جائے تو جب وہ واپس آئے تو کیا عورت اس سے نفقہ لے گی۔ حضرت شعبی نے فرمایا کہ جب تک دخول نہ کر لے نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۹۳۶۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ: خُذْهَا فَلَا يَأْخُذْهَا.

(۱۹۳۶۶) حضرت یونس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر اس سے دخول کے بغیر کہیں دور چلا جائے تو کیا اس عورت کو نفقہ ملے گا؟ ہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اس عورت کو اس وقت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کر لے۔ یا پھر یہ کہ لڑکی کے اولیاء نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جائیں وہ ساتھ نہ لے جائے تو پھر نفقہ ملے گا۔

(۱۹۳۶۷) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصْكٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمٍ تَطْلُبُ ذَلِكَ.

(۱۹۳۶۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت کا نفقہ مرد پر اس وقت لازم ہوتا ہے جب عورت مطالبہ کرے۔

(۱۹۳۶۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحُسْبُ مِنْ قِبَلِهَا.

(۱۹۳۶۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب دوری کی وجہ عورت ہو تو وہ مرد پر نفقہ دینا واجب نہیں۔

(۲۰۲) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا، أَلِهَا النَّفَقَةُ؟

اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی میں گھر سے نکلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟

(۱۹۳۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا، أَلِهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ مَكَّنْتُ عَشْرِينَ سَنَةً.

(۱۹۳۶۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی میں گھر سے نکلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں خواہ وہ بیس سال تک باہر رہے۔

(۱۹۳۷۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةِ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلْتُ حَمَادًا فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.

(۱۹۳۷۰) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی میں گھر سے نکلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے نفقہ نہیں ملے گا۔

(۱۹۳۷۱) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مَرَاغِمَةً لِرُزُوجِهَا ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تَرَابٍ .

(۱۹۳۷۱) حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی میں گھر سے نکلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے مٹی ملے گی۔

(۲۰۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، هَلْ تَرِثُهُ ؟

اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو کیا وہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ پائے گی؟

(۱۹۳۷۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ صَالِحٍ أَنَّ عُمَانَ وَرَثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .

(۱۹۳۷۲) حضرت صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں عدت گزارنے کے بعد میراث میں حصہ دار بنایا۔

(۱۹۳۷۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَثَتَهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةً مَا لَمْ يَبْرَأْ ، أَوْ تَزُوجَ .

(۱۹۳۷۳) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دے تو وہ وارث ہوگی۔ اگر چہ اس کے بعد ایک سال گزر جائے۔ البتہ اگر آدمی پھر سے تندرست ہو گیا یا عورت نے شادی کر لی تو پھر میراث نہیں ملے گی۔

(۱۹۳۷۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : فَقَدْ وَرَثَ عُمَانُ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ .

(۱۹۳۷۴) حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو کیا وہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ پائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے اصبح کی بیٹی کو میراث میں حصہ دلوایا تھا لیکن میرے خیال میں ایسی عورت وارث نہ ہوگی۔

(۱۹۳۷۵) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ ، وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : تَرِثُ .

(۱۹۳۷۵) حضرت خالد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو کیا وہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ پائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث ہوگی۔
 (۱۹۳۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَثَتْهَا مِنْهُ .
 (۱۹۳۷۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک سال تک بیمار رہا تو عورت وارث ہوگی۔

(۲۰۴) من قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت کی حالت میں طلاق دے

تو اگر عورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہو تو وارث ہوگی

(۱۹۳۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَنَا بِي عُرْوَةَ الْبَارِقِيٍّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا .
 (۱۹۳۷۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے میرے پاس عروہ باریقی آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت کی حالت میں تین طلاقیں دے دے تو اگر عورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہو تو وارث ہوگی۔ جبکہ مرد عورت کا وارث نہیں ہوگا۔

(۱۹۳۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
 (۱۹۳۷۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے تو خاوند کی وارث ہوگی لیکن وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔

(۱۹۳۷۹) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ قَوْلَ رَبِّهِ .
 (۱۹۳۷۹) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو مرض الوفا میں طلاق دی اور پھر وہ ان کی وارث ہوئی تھی۔

(۱۹۳۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرَثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
 (۱۹۳۸۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دی تو اگر آدمی کے انتقال کے وقت عورت عدت میں تھی تو وہ وارث ہوگی۔

(۱۹۳۸۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ الْيَمِينِ بِنْتَ عَيْبَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتِ

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِشُرَىٰ مِنْهَا تُنْمَهَا فَأَبَتْ فَلَمَّا قِيلَ أُمَّتٌ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: تَرَكَهَا حَتَّىٰ إِذَا أُشْرِفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا، فَوَرَّيْنَهَا.

(۱۹۳۸۱) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام بنین بنت عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کاشانہ خلافت میں محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے ام بنین کو طلاق دے دی۔ وہ ان کی طرف پیغام بھیجا کرتے تھے کہ ان سے ان کا شن خرید لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ام بنین نے اس بات کا تذکرہ حضرت علی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا پھر جب موت کے قریب ہوئے تو اسے طلاق دے دی اور اسے وارث بنا دیا۔

(۱۹۳۸۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هَبِيرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ : أَنَّهُ قَارَأَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، تَرْتُهُ.

(۱۹۳۸۲) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت میں تین طلاقیں دے دے تو کیا وہ اس کی وارث ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ وارث ہوگی۔

(۱۹۳۸۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ : تَرْتُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۸۳) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو اگر اس کی عدت میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو وہ وارث ہوگی۔

(۱۹۳۸۴) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيْرُتُ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرُتُ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ وَلَا نَفَقَةٌ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يَطْلُقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ.

(۱۹۳۸۴) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حتمی طلاق دے دے تو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ اور کیا عورت کو نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اور عورت کو نفقہ بھی نہیں ملے گا، البتہ اگر حاملہ ہو تو نفقہ ملے گا۔ آدمی بچے کی پیدائش تک اس پر خرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر مرض الموت میں عورت کو نقصان پہنچانے کے لئے طلاق دے تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۹۳۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : تَرْتُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الموت میں تین طلاقیں دے دے تو اگر عدت میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو عورت وارث ہوگی۔

(۱۹۳۸۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَخْتَلِفُونَ مَنْ قَرَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رُدًّا إِلَيْهِ يَعْنِي ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ .

(۱۹۳۸۶) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ تو اختلاف نہیں کرو گے، جو شخص اللہ کی کتاب سے بھاگے گا اسے اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا یعنی وہ شخص جو مرض الوفا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔

(۲۰۵) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّلَاثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکا ہو اور مرض الموت میں تیسری طلاق دے

دے تو وراثت کا کیا حکم ہوگا؟

(۱۹۳۸۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لَا يَرْتُّهَا وَلَا تَرْتُّهُ .

(۱۹۳۸۷) حضرت حارث رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکا ہو اور مرض الموت میں اسے تیسری طلاق دے دے اور عدت میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

(۲۰۶) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ فَيُنْسِي فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ

اگر کوئی شخص کسی عمل پر طلاق یا آزادی کی قسم کھائے اور پھر بھول کر وہ کام کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۳۸۸) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنَّ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَأَمْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيُنْسِي فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ : إِلَّا أَنْ أُنْسَى .

(۱۹۳۸۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں فلاں کے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کو طلاق ہے، پھر وہ بھول کر اس گھر میں داخل ہو گیا اور بغیر علم کے وہاں داخل ہو گیا تو یہ جان بوجھ کر جانے کی طرح ہوگا۔ البتہ اگر اس نے قسم کھاتے ہوئے بھول وغیرہ کو مستثنیٰ کیا تھا تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔

(۱۹۳۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَلَفَ أَخِي عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعَيْتِ جَارِيَةٍ لَهُ لِأَنَّ بَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا ، إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ ، فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَشَرِبَ ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ

جَبِيْرٌ ، وَعَلِيًّا الْأَزْدِيَّ ، فَكُلُّهُمُ رَأَىٰ أَنَّهُا حُرَّةٌ.

(۱۹۳۸۹) حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عمر بن عثمان رضی اللہ عنہما نے اس بات کی قسم کھائی کہ فلاں مدت تک اگر فلاں باندی کے ہاتھ سے بیویں تو وہ آزاد ہے۔ پھر وہ مدت پوری ہونے سے پہلے بھول گئے اور اس کے ہاتھ سے بی لیا۔ میں نے حضرت عطاء، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت علی ازدی رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب نے یہی کہا کہ وہ آزاد ہے۔

(۱۹۳۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَإِنَّكَ أَنْ يَكُونَ كَانَ عَطَاءُ بَرَىٰ فِي النَّسِيَانِ شَيْئًا ، قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي ، عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . (حاكم ۳۶۲)

(۱۹۳۹۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تین چیزوں کو اٹھالیا ہے: خطا، بھول اور وہ عمل جو بردستی کرایا گیا ہو۔

(۱۹۳۹۱) حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ مِبْرَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النَّسِيَانِ .

(۱۹۳۹۱) حضرت زہری رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما بھول کر دی گئی طلاق کو نافذ قرار دیتے تھے۔

(۱۹۳۹۲) حَدَّثَنَا عَمْرٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ .

(۱۹۳۹۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب اس طلاق کو نافذ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ وَلَا يَعْلَمَانِ مَا هُوَ؟

اگر دو آدمی کسی ایسی بات پر بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھالیں جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۳۹۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : أَحْسَدُنَا أَمْ أَنَّهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ حَبِطْنَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا أُمْرَاتُكُمَا .

(۱۹۳۹۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تو بہت حاسد ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو زیادہ حسد کرتا ہے اس کی بیوی کو طلاق۔ پہلے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں نے نقصان اٹھایا اور دونوں نے غلطی کی، تم دونوں کی بیویوں کو طلاق ہوگئی۔

(۱۹۳۹۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَدْبَيْتُهُمَا وَآمَرُهُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمْتُمَا بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ : وَبَابُ التَّنْدِينِ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ .

(۱۹۳۹۲) حضرت حارث رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں یہ بات ان کی دینداری پر چھوڑوں گا اور انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دوں گا۔ اور ان کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ دینداری کا باب اس مسئلے میں اس نکتے سے سائل میں دیکھا جاتا ہے۔

(۱۹۳۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرُبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرُبُهَا هَذَا .

(۱۹۳۹۵) حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ دو آدمیوں نے ایک پرندہ دیکھا، ایک نے کہا کہ اگر یہ کوانہ ہو تو اس کی بیوی کو تین طلاق اور دوسرے نے کہا کہ اگر یہ کبوتر نہ ہو تو اس کی بیوی کو تین طلاق۔ تو انہوں نے حضرت قتادہ کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب پرندہ اڑا اور معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے تو نہ یہ اپنی بیوی کے قریب جائے اور نہ یہ اپنی بیوی کے قریب جائے۔

(۱۹۳۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَيْرًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطَّيْرُ قَالَ : يُعْتَزَلَانِ نِسَانَهُمَا .

(۱۹۳۹۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ دو آدمیوں کے پاس سے ایک پرندہ گزرا، ایک نے کہا کہ اگر یہ پرندہ نہ تو اس کی بیوی کو طلاق ہے اور دوسرے نے کہا کہ اگر یہ کوانہ ہو تو اس کی بیوی کو طلاق ہے اور وہ پرندہ اڑ گیا۔ حضرت شعبی نے فرمایا کہ وہ دونوں اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

(۲۰۸) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ ، أَوْ الْمَرَأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ أَمْرَأَتَهُ

اگر کوئی مرد یا عورت اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۳۹۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِ ابْنِ عُمَرَ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْهَا ، فَأَبَى فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اطَّعْ أَبَاكَ وَطَلَّقْهَا . (ترمذی ۱۱۸۹ - ابوداؤد ۵۰۹۵)

(۱۹۳۹۷) حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیوی تھیں جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو وہ عورت پسند نہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اس کو طلاق

دے دو۔ انہوں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد کی اطاعت کرو اور اسے طلاق دے دو۔

(۱۹۳۹۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرَّكِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَاهُ أَعْرَابِيَانِ فَاسْتَفَاهَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي كُنْتُ أَبِيغِي إِبِلًا لِي فَفَزَلْتُ بِقَوْمٍ فَأَعَجَبْتَنِي فَنَاءَ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتُهَا فَحَلَفَ أَبُوَايَ أَنْ لَا يَضْمَاهَا أَبَدًا ، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفٌ مُحَرَّرٌ وَأَلْفٌ هَدِيَّةٌ وَأَلْفٌ بَدَنَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ائْبِرْ وَالِدَيْكَ .

(۱۹۳۹۸) حضرت ابو طلحہ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ دو دیہاتی اپنا جھڑا لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا ایک قوم میں جا پہنچا، ان کی ایک لڑکی مجھے بہت پسند آئی میں نے اس سے شادی کر لی۔ میرے والدین نے قسم کھالی ہے کہ وہ اس عورت کو بہو کے طور پر کبھی قبول نہ کریں گے۔ لڑکے نے قسم کھالی کہ اگر وہ اس کو طلاق دے تو اس پر ایک ہزار غلام آزاد کرنا، ایک ہزار ہدیے دینا اور ایک ہزار اونٹ صدقہ کرنا لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نہ تو تمہیں طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی والدین کی نافرمانی کا۔ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو۔

(۱۹۳۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ مِنَ الْحَيِّ قَتَّى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةً عَمَّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : لَا اسْتَطِيعُ ، عَلِقْتُ رِئِي مَا لَا اسْتَطِيعُ أَنْ أُطَلِّقَهَا مَعَهُ ، قَالَتْ : فَطَعَامُكَ وَسَرَابُكَ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَوَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَى الشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، وَلَا أَنَا بِالَّذِي أَمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ .

(۱۹۳۹۹) حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے میں ایک نوجوان تھا جس کی والدہ نے اصرار کر کے اس کی شادی اس کی چچا زاد بہن سے کرادی۔ پھر وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس کی والدہ نے اسے حکم دیا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اب میں اسے چاہنے لگا ہوں اور اب اسے طلاق دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تیرا کھانا اور تیرا پانی مجھ پر حرام ہے جب تک تو اسے طلاق نہ دے دے۔ اس نوجوان نے شام کی طرف سفر کیا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے سارا قصہ ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہ تو تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اپنی والدہ کی نافرمانی کا کہتا ہوں۔

(۱۹۴۰۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَنْ يُطَلَّقَ فَقَالَ الْحَسَنُ لَيْسَ طَلَّاقَهُ امْرَأَتَهُ مِنْ بَرِّ امِّهِ فِي شَيْءٍ.

(۱۹۳۰۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ماں نے پہلے اسے حکم دیا کہ شادی کر لے اور پھر اسے حکم دیا کہ اب اپنی بیوی کو طلاق دے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دینا ماں کی فرمانبرداری کا حصہ نہیں ہے۔

(۲۰۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيُطَلَّقُ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرِي أَيُّهُنَّ طَلَّقَ؟

ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کو طلاق دے اور فوت ہو جائے لیکن یہ معلوم نہ

ہو کہ اس نے کس کو طلاق دی ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۰۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَنْالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنْالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ .

(۱۹۳۰۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کو طلاق دے اور فوت ہو جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس کو طلاق دی ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو طلاق کا اتنا حصہ ملے گا جتنا میراث میں سے ملے گا۔

(۱۹۴۰۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرِ أَيُّهُنَّ طَلَّقَ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِلأَرْبَعِ الأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرَّبْعُ .

(۱۹۳۰۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی چار بیویاں تھیں، اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے کر ایک اور عورت سے شادی کر لی، پھر وہ انتقال کر گیا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کو طلاق دی تھی۔ اس صورت میں میراث کے تین ربح پہلی چار بیویوں کو نہیں گئے اور پانچویں کو ایک ربح ملے گا۔

(۱۹۴۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَن سَلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرِي أَيُّهُنَّ طَلَّقَ ؟ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يَكْمَلُ لِهَذِهِ الأُتَى رُبْعُ الْمِيرَاثِ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ هُوَ لِأَيِّ الأَرْبَعِ .

(۱۹۳۰۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے اور یہ معلوم نہ ہو کہ

اس نے کس کو طلاق دی ہے اور پھر وہ پانچویں سے شادی کر لے تو جس سے شادی کی ہے اسے میراث میں سے ربع ملے گا اور باقی تین ربع باقی عورتوں کو مل جائیں گے۔

(۱۹۴.۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ وَلَا يَعْلَمُ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ: رُبْعُ الثَّمَنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ آخِرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ.

(۱۹۴.۴) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو چار بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے کر پانچویں سے شادی کر لے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کس کو طلاق دی ہے، اس صورت میں ثمن کا ربع اس عورت کو ملے گا جس سے سب سے آخر میں شادی کی ہے اور تین ربع باقی چار عورتوں کو مل جائیں گے۔

(۱۹۴.۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رُبْعُ الرُّبْعِ، أَوْ رُبْعُ الثَّمَنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيُقْسِمُ مَا بَيْنَهُنَّ.

(۱۹۴.۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ربع کا ربع یا ثمن کا ربع اس عورت کو ملے گا جس سے سب سے آخر میں شادی کی اور باقی دوسری عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔

(۱۹۴.۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَالْحَسَنِ قَالَ: يُفْرَعُ بَيْنَهُنَّ.

(۱۹۴.۶) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی۔

(۲۱۰) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ لِيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، أَوْ لِيَتَزَوَّجَنَّ عَلَىٰ أُمَّرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

اگر کوئی شخص طلاق کی قسم کھا کر کہے کہ وہ ضرور بضرور اپنے غلام کو مارے گا یا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی کرے گا اور ایسا کرنے سے پہلے اس کا انتقال

ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴.۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ: هِيَ أَمْرَأَتُهُ حَتَّىٰ يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۴.۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہ کرے تو اسے طلاق ہے۔ اس صورت میں جب یہ شادی کر لے تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو ایک دوسرے کی میراث میں حصہ دار نہیں ہوں گے۔

(۱۹۴۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : أَمْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِنْهُ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ أَمْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ .

(۱۹۴۰۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ اگر وہ اپنے غلام کو سوسو کوڑے نہ مارے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے۔ اس قسم کی صورت میں غلام کے مر جانے تک وہ اس کی بیوی رہے گی۔

(۱۹۴۰۹) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَابْتِئَ ، قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَتَانِ .

(۱۹۴۰۹) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ اپنے غلام کو نہ مارے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے۔ پھر اس کا غلام بھاگ گیا۔ وہ دونوں جماع کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔

(۱۹۴۱۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهَا ، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حَنَنَهُ الْآنَ .

(۱۹۴۱۰) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر یہ قسم کھائی کہ اگر وہ بصرہ نہ گیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہے، پھر وہ بصرہ نہ گیا یہاں تک کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ اس کے انتقال کے بعد بصرہ چلا گیا۔ اس صورت میں عورت کو میراث نہیں ملے گی اور آدمی کی قسم کا ٹوٹنا ثابت ہوگا۔

(۱۹۴۱۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ آتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرَثَهَا .

(۱۹۴۱۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں اگر وہ اس کی موت کے بعد بصرہ گیا تو وہ اس عورت کا وارث ہوگا۔

(۱۹۴۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَأَمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَانْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : لَا يَقْرُبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَتَا .

(۱۹۴۱۲) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کسی اور سے شادی نہ کی یا میں نے تجھے نہ نکالا تو تجھے طلاق ہے۔ اس صورت میں آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاسکتا اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

(۱۹۴۱۳) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أُخْرَجْ إِلَى وَاسِطٍ فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَتَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ .

(۱۹۴۱۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں واسطہ کی طرف نہ گیا تو اس کی بیوی کو طلاق۔ اس صورت میں آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اور حضرت ابن

سیرین فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس سے جماع نہ کرے جب تک وہ کرنے لے جس کا وہ کہہ رہا ہے۔

(۲۱۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، أَعْلَىٰ أَمْرًا تَبَهُ عِدَّةٌ لَوْ قَاتِهِ ؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الوفا میں تین طلاقیں دے اور پھر انتقال کر جائے تو کیا عورت پر

اس کی وفات کی عدت لازم ہوگی؟

(۱۹۴۱۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : تَرْتَهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرْتَهُمَا وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .

(۱۹۴۱۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ باریقی میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض الوفا میں تین طلاقیں دے دے تو عورت اس کی وارث ہوگی جب کہ وہ عورت کا وارث نہیں ہوگا۔ اور عورت پر اس عورت کی عدت لازم ہوگی جس کا خاوند انتقال کر چکا ہو۔

(۱۹۴۱۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .

(۱۹۴۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت پر اس عورت کی عدت لازم ہوگی جس کا خاوند انتقال کر چکا ہو۔

(۱۹۴۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

(۱۹۴۱۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کا انتقال عورت کی عدت میں ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن عدت گزارے گی۔

(۱۹۴۱۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا وَرِثَتْ اعْتَدَّتْ .

(۱۹۴۱۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق کا ایک بہت طویل باب ہے، جب وہ وارث ہوگی تو عدت بھی گزارے گی۔

(۱۹۴۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .

(۱۹۴۱۸) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت کا ایک ہی دن باقی رہ جائے اور وہ مر جائے تو عورت وارث ہوگی اور نئے سرے سے اس عورت کی عدت گزارے گی جس کا خاوند انتقال کر گیا ہو۔

(۱۹۴۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنَفُ الْعِدَّةَ .

(۱۹۴۱۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نئے سرے سے عدت گزارے گی۔

(۲۱۳) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَأُمَّ وَكَدِيهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

اگر کوئی شخص اپنی ام ولد سے کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَكَدِيهِ وَحَلَفَ : أَنْ لَا يَفْرُبُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلُّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا . (نسائی ۸۹۰۷ - ابن جریر ۱۵۶)

(۱۹۴۲۰) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس بات کی قسم کھالی کہ اپنی ام ولد کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ تو اس میں آپ سے کہا گیا کہ جسے حرام کیا ہے وہ حلال ہے اور جو قسم آپ نے کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسموں کو کفارہ سکھا دیا ہے۔

(۱۹۴۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لَأُمَّ وَكَدِيهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ يُكْفَرُ يَمِينُهُ وَيَأْتِي أُمَّتَهُ .

(۱۹۴۲۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی ام ولد سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی باندی کے پاس جائے۔

(۱۹۴۲۲) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ قَالَ : أُمَّتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُكْفَرُ يَمِينُهُ وَيَأْتِي أُمَّتَهُ .

(۱۹۴۲۲) حضرت ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اس کی باندی اس پر حرام ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنی باندی کے پاس جائے۔

(۲۱۳) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بَأَنَّهُ طَلَّقَ فِي مَوَاطِنِ

اگر کسی آدمی کے بارے میں تین شخصوں نے مختلف جگہوں میں طلاق دینے کی گواہی دی

تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۲۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ .

(۱۹۴۲۳) حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس پر تین آدمیوں کو گواہ بنایا۔ ہر

ایک شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے الگ الگ جگہ طلاق دی ہے۔ اس صورت میں حضرت عبداللہ بن مہوب نے فیصلہ فرمایا کہ یہ ایک طلاق ہوگی۔

(۲۱۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ امْرَأَتَهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ بَيْتَ فُلَانٍ ، فَأَدْخَلْتَ

بَعْضَ جَسَدِهَا

اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق

ہے اور اس نے اپنے جسم کا کچھ حصہ اس گھر میں داخل کیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعَيْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ بَيْتَ فُلَانٍ ، فَأَدْخَلْتَ بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا .

(۱۹۴۲۴) حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اور اس نے اپنے جسم کا کچھ حصہ اس گھر میں داخل کیا تو اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۲۱۵) فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ لَا تَحِلِّينَ لِي

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۲۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي قَالَ : نَيْتُهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .

(۱۹۴۲۵) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر اس نے ایک کی نیت کی تو ایک اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

(۱۹۴۲۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُعَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَثَلَةً .

(۱۹۴۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۱۶) فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَكَلَّمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَعَلْبَهُ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ

اگر ایک آدمی نے کسی چور کو پکڑا اور اس کے بارے میں اس سے بات کی گئی تو اس نے

طلاق کی قسم کھالی، پھر وہ اس پر غالب آ گیا اور اس سے بھاگ گیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۲۷) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ وَاقِدِ مَوْلَى بِنِي حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ

لِصَّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَقَالَ : إِنْ تَرَكْتَهُ فَأَمْرَانِ طَالِقٌ تَلَانًا ، فَعَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأُقِلَّتْ مِنْهُ قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا عَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

(۱۹۳۲۷) حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی چور پکڑا، پھر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس چور کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس کو چھوڑے تو اس کی بیوی کو تین طلاق۔ پھر چور اس پر غالب آ گیا اور اس سے بھاگ گیا تو حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس پر کچھ لازم نہیں وہ اس پر غالب آ گیا تھا۔

(۲۱۷) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُوجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ

کیا کوئی شخص اپنی نابالغ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے؟

(۱۹۶۲۸) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَ يُونُسُ : وَكَانَ غَيْرَ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ .

(۱۹۳۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغ بیٹی کی شادی کر دے پھر وہ اس کو خلع کرانا چاہے تو یہ جائز ہے۔ جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خلع کرنا درست نہیں ہے۔

(۱۹۶۲۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا اقْتَدَى بِهِ .

(۱۹۳۲۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی نابالغ بیٹی کی طرف سے خلع کرنا چاہا لیکن وہ راضی نہ ہوئی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کا والد فدیہ کا ضامن ہوگا۔

(۲۱۸) فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمْرَأَتِهِ إِذَا حِضَّتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۶۳۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضَّتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَرْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَحَبَلَتْ قَالَا : لِيُجَامِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبُعِيدِ .

(۱۹۳۳۰) حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے۔ پھر اس کا حیض بند ہو گیا اور وہ حاملہ ہو گئی تو آدمی اس سے اس وقت تک جماع کر سکتا ہے جب تک اسے حیض نہ آجائے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قریب میں درست ہے تو دور میں بھی درست ہے۔

(۲۱۹) فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتُ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو چاہے تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كَلَّمَا شِئْتُ، قَالَ الْحَكَمُ: كَلَّمَا شَأَنْتُ فِيهِ طَالِقٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: مَرَّةً.

(۱۹۴۳۱) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو چاہے تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ وہ جب چاہے اسے طلاق ہو جائے گی اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق ہو سکتی ہے۔

(۲۲۰) فِي الطَّلَاقِ، بَيِّدٌ مَنْ هُوَ؟

طلاق کا اختیار کس کے قبضے میں ہوگا؟

(۱۹۴۳۲) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْآبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْآبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ.

(۱۹۴۳۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب باپ نے شادی کرائی تو طلاق کا اختیار بھی اسی کو ہوگا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو نکاح کا مالک ہوگا وہی طلاق کا بھی مالک ہوگا۔

(۲۲۱) فِي الطَّلَاقِ فِي الشَّرْكِ، مَنْ رَأَهُ جَائِزًا

جن حضرات کے نزدیک حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہے

(۱۹۴۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا.

(۱۹۴۳۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کو جائز قرار دیتے تھے۔

(۱۹۴۳۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشَّرْكِ جَائِزًا.

(۱۹۴۳۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کو جائز قرار دیتے تھے۔

(۱۹۴۳۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا.

(۱۹۴۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۹۴۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبْلَعُكَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۱۹۳۳۶) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے اہل جاہلیت کو ان میں رائج نکاح اور طلاق کے ضابطوں کو باقی رکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے۔

(۱۹۴۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ يَعْنِي طَلَاقَ الشَّرِكِ .

(۱۹۳۳۷) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے حالت شرک میں دی گئی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔

(۱۹۴۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً .

(۱۹۳۳۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے سختی میں اضافہ کیا ہے۔

(۱۹۴۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ : طَلَّاقُهُ فِي الشَّرِكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۹۳۳۹) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کو دو طلاقیں دیدیں۔ پھر اسلام قبول کیا اور اسلام میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حالت شرک میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۲۳۲) قَوْلُهُ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)

قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر کا بیان
(۱۹۴۱۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، عَنْ عِكْرَمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ : الدَّمُ .

(۱۹۳۴۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے اور حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خون ہے۔

(۱۹۴۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : الْحَبْلُ ، وَالْحَيْضُ وَقَالَ الْآخَرُ الْحَيْضُ .

(۱۹۳۴۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حمل اور حیض ہے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے۔

(۱۹۴۴۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَ بِحَامِلٍ ، أَوْ تَقُولَ : أَنَا حَائِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ .

(۱۹۴۴۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اسے مراد یہ ہے کہ عورت یہ کہے کہ میں حاملہ ہوں حالانکہ وہ حاملہ نہ ہو۔ یا وہ یہ کہے کہ میں حائل ہونے والی ہوں حالانکہ وہ حائل ہونے والی نہ ہو۔

(۱۹۴۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَيْضُ وَالْحَبْلُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَبْلُ .

(۱۹۴۴۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض اور حمل ہے اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حمل ہے۔

(۱۹۴۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ .

(۱۹۴۴۳) حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد اور حیض ہے۔

(۱۹۴۴۵) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، وَلَا تَقُولَ : إِنِّي حَائِلَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلَةٍ وَلَا تَقُولَ : لَسْتُ بِحَائِلَةٍ ، وَهِيَ حَائِلَةٌ .

(۱۹۴۴۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کے لئے یہ کہنا حلال نہیں کہ میں حائضہ ہوں حالانکہ وہ حائضہ نہ ہو اور یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ میں حاملہ ہوں حالانکہ وہ حاملہ نہ ہو اور جب وہ حاملہ ہو تو یہ کہنا درست نہیں کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔

(۱۹۴۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) قَالَ : الْحَيْضُ .

(۱۹۴۴۶) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے۔

(۱۹۴۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) قَالَ : الْحَبْلُ وَالْحَيْضُ وَحَدَهُ .

(۱۹۴۴۷) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے

ہیں کہ اس سے مراد حمل اور حیض ہے اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے۔

(۲۲۳) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَمَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحْلِفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ .

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں حضرت سالم رضی اللہ عنہما اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس سے قسم لی جائے کہ اس نے حتمی طلاق کا ارادہ نہیں کیا۔

(۱۹۴۴۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ قَالَ : نَحْمَلُهُ ذَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً ، أَوْ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً .

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اور اس نے تعداد کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ ایک دی ہے یا دو یا تین۔

(۲۲۴) فِي الْمُطَلَّقةِ كَمْ يَنْفِقُ عَلَيْهَا ؟

مطلقہ کا نفقہ کتنا ہوگا؟

(۱۹۴۵۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقةِ كُلُّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ .

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مطلقہ پر ہر روز گندم کا نصف صاع خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۴۵۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَضْرَبَهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ .

حضرت شعبی رضی اللہ عنہما نے اس عورت کے لئے ہر مہینے میں گندم کے پندرہ صاع اور دو درہم لازم کئے جس کے خاوند نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔

(۱۹۴۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةٌ لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْمَرْأَةِ .

(۱۹۳۵۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نفقہ میں عورت اور اس کی خادمہ کے لئے ہر مہینے بارہ درہم مقرر کئے، چار خادمہ کے لئے اور آٹھ عورت کے لئے۔

(۱۹۴۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أُمِّ حَصِيبِ الْوَابِشِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوْفِي وَتَرَكَهَا حَامِلًا ، فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ .

(۱۹۳۵۳) حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے خاندان کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ تھیں۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت شریح کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ کل مال میں سے ان پر پندرہ درہم خرچ کئے جائیں گے۔

(۱۹۴۵۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ .

(۱۹۳۵۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خادمہ پر ایک درہم خرچ کیا جائے گا۔

(۲۳۵) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَكَلْدٌ صَغِيرٌ

اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے اور اس کا چھوٹا بچہ ہو تو وہ کس کے پاس رہے گا؟

(۱۹۴۵۵) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبُرْ ، أَوْ يَتَزَوَّجَ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ : هِيَ أَعْطَفُ وَالْطَفُ وَالْأَرْقُ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ .

(۱۹۳۵۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام عاصم کو فریق بنا کر حضرت عاصم کی پرورش کا مسئلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ حضرت ام عاصم کے پاس رہے گا جب تک بالغ نہ ہو جائے اور یا جب تک شادی نہ کر لے۔ اور فرمایا کہ ماں بچے پر زیادہ مہربان، رحم کرنے والی، نرم دل اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔

(۱۹۴۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ : شَهَدْتُ عُمَرَ خَيْرَ صَبِيٍّ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ .

(۱۹۳۵۶) حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو ماں اور باپ کے درمیان اختیار دیا۔

(۱۹۴۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْحَمُ .

(۱۹۳۵۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باپ زیادہ حقدار ہے اور ماں زیادہ نرمی کرنے والی ہے۔

(۱۹۴۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ حَدَّثَتْ عَنْهُ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ صَبِيٍّ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . (ترمذی ۱۳۵۷۔ احمد ۲/۲۳۶)

(۱۹۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچے کو ماں باپ کے درمیان اختیار دیا۔

(۱۹۴۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ .

(۱۹۴۵۹) حضرت حسن فرماتے ہیں عورت بچے کی زیادہ حق دار ہے خواہ شادی بھی کر لے۔

(۱۹۴۶۰) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِيهِ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَنْزَوْجْ ، أَوْ تَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ .

(۱۹۴۶۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عورت اس وقت تک بچے کی زیادہ حق دار ہے جب تک شادی نہ کر لے اور جب تک وہ علاقہ نہ چھوڑنا چاہے۔

(۱۹۴۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ أَنَّهُ خَيْرٌ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِمَا يَخْتَارُ .

(۱۹۴۶۱) حضرت عمرو بن مارتی نے ماں باپ کے بارے میں بچے کو اختیار دیا تھا۔

(۱۹۴۶۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهْمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّائِي : اخْتَرُ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ : فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَدَهَبَتْ بِهِ .

(احمد ۲ / ۳۴۷ - طحاوی ۳۰۸۸)

(۱۹۴۶۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ عورت اپنا بچہ لینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میاں بیوی بچے کے بارے میں قرعہ اندازی کر لو۔ آدمی نے کہا کہ میرے اور میرے بچے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے بچے سے فرمایا کہ جس کو چاہا اختیار کر لو۔ بچے نے ماں کو اختیار کر لیا اور وہ اسے لے کر چلی گئی۔

(۱۹۴۶۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ ، وَقَضَى عَلَيَّ عُمَرَ بِالْتَّفَقَةِ .

(۱۹۴۶۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم بن عمر کا فیصلہ ان کی والدہ کے حق میں کیا اور بچے کا نفقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لازم کیا۔

(۱۹۴۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا ، وَفِي جِجْرَهَا عَاصِمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَادَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْعَلَامُ ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا وَجِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْكَ حَتَّى يَشَبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ .

(۱۹۴۶۴) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام عاصم کو طلاق دے دی، پھر وہ ان

کی گود میں سے حضرت عاصم کو لینے کے لئے آئے۔ ان دونوں نے بچے کو حاصل کرنا چاہا تو بچہ رو پڑا۔ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پاس گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ماں کا پیار، ماں کی گود اور ماں کی خوشبو بچے کے لئے تم سے بہتر ہے۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ خود اختیار کر لے گا۔

(۱۹۴۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَفْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَهُ الشَّمْسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ، وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ ، فَأَخَذَتْهُ ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبَّهَانِ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : خَلَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا ، فَأَخَذَتْهُ .

(۱۹۴۶۵) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت کو طلاق دے دی۔ پھر جمیلہ بنت عاصم نے شادی کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لینے کے لئے آئے۔ حضرت جمیلہ کی والدہ شمس بنت ابی عامر انصاریہ نے بچے کو اٹھالیا اور دونوں اس مقدمے کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بچے اور اس کی ماں کے بیچ میں مت آؤ۔ پھر وہ بچے کو لے کر چلی گئیں۔

(۲۲۶) مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ ، أَيُّهُمُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟

اولیاء اور چچوں میں سے بچے کا زیادہ حقدار کون ہے؟

(۱۹۴۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمَّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا : إِنَّا أَحَدُو ابْنَتِنَا قَالَتْ : إِنِّي أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ أَنْ تَفْرُقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي فَإِنَّا الْوَالِدُ وَأَنَا الْمُرْضِعُ وَوَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ لِقَرَبِ ابْنَتِي مِنِّي فَأَبَوْا ، فَقَالَتْ : مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا خَيْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي : أَخْتَارُ اللَّهَ وَالْإِيمَانَ وَذَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا يَقِيْتُ عَنْقِي فِي مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهُمْ بِهَا فَقَالَ بِلَالٌ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، شَهَدْتُ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمُوا فَقَضَى بِهَا لَأُمِّهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عَنْقِي فِي مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّهَا .

(۱۹۴۶۶) حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کی ایک عورت اپنے چچا زاد کے گھر میں تھی۔ (اس خاوند سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی) اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک انصاری مرد سے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد لڑکی کے چچا زاد آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم میرے اور میری

بٹی کے درمیان میں نہ آؤ۔ میں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی اس بچی کا استحقاق نہیں رکھتا۔ لوگوں نے اس کی بات کا انکار کیا تو اس نے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو اور فیصلہ کرا لو۔ پھر اس خاتون نے اپنی بچی سے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ تمہیں اختیار دیں تو تم کہنا کہ میں نے اللہ کو، ایمان کو، مہاجرین اور انصار کے گھر کو اختیار کر لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم! جب تک میری جان ہے تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ (حضور ﷺ کے وصال کے بعد) پھر وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بچی کا فیصلہ اس کے خاندان والوں کے حق میں کر دیا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! میری موجودگی میں یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تھے، یہ عورت بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بچی کا فیصلہ عورت کے حق میں فرمایا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تک میں زندہ ہوں تم اس بچی کو نہیں لے جا سکتے۔ پھر آپ نے وہ بچی اس کی ماں کو دے دی۔

(۱۹۶۶۷) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : عَصَبَتْهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمَّهَا إِنْ خَرَجَتْ .

(۱۹۶۶۷) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کو کوفہ سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ماں بچی کو شہر سے نکالنا چاہتی ہے تو بچی کے عصبات اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

(۱۹۶۶۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ نَلِكِ الْمَعَازِي قَالَ : فَفُتِلَ فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي فَحَاصَمْتُهُ أُمِّي أَلَى عَلِيٍّ قَالَ : وَمَعِيَ أَحْ لِي صَغِيرٌ قَالَ : فَخَيْرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا فَاخْتَرْتُ أُمِّي فَأَبَى عَمِّي أَنْ يَرْضَى قَالَ : فَوَكَّرَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَصَرَبَهُ بِدِرْزِهِ وَقَالَ : وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ خَيْرٌ .

(۱۹۶۶۸) حضرت عمارہ بن ربیعہ جرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ایک سمندری غزوہ میں شہید ہو گئے۔ میرے چچا مجھے لینے کے لئے آ گئے۔ میری والدہ اس مقدمہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے تین مرتبہ اختیار دیا تو میں نے اپنی والدہ کو اختیار کیا۔ میرے چچا نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مکارا اور انہیں اپنا کوڑا مارا اور فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا اور جب یہ بالغ ہوگا تو اسے اختیار دیا جائے گا۔

(۱۹۶۶۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : خَيْرٌ شَرِيحٌ غَلَامًا وَجَارِيَةٌ يَتِيمَيْنِ فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوْلَاهَا وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّتَهُ فِيمَا يَحْسَبُ فَأَجَارَهُ شَرِيحٌ .

(۱۹۶۶۹) حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم لڑکے اور ایک یتیم لڑکی کو اختیار دیا۔ لڑکی نے اپنے موالی کو اور لڑکے نے اپنی چھوٹی چھوٹی کو اختیار کیا تو حضرت شریح نے اسے درست قرار دیا۔

(۱۹۴۷۰) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رِضَاعِ الصَّبِيِّ قَالَ : أُمَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ فَلَاؤَلِيَاءُ .

(۱۹۴۷۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی ماں اسی شہر میں ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے اور اگر وہ شہر کو چھوڑنا چاہے تو اولیاء اس انتظام کے زیادہ حقدار ہیں۔

(۲۲۷) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ لِأَعْيَظَنَكَ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں ضرور بضرورت تجھ پر بہت زیادہ غصہ ڈھاؤں گا تو

کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِبِلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَخْلِفَ : لَا يَكْلُمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوْرَنَّهَا .

(۱۹۴۷۱) حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ایلاء کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آدمی اس بات کی قسم کھالے کہ وہ بیوی سے بات نہیں کرے گا، اس سے جماع نہیں کرے گا، اس کا اور اس کی بیوی کا سر جمع نہیں ہوں گے۔ یا وہ اس پر ضرور بضرور بہت زیادہ غصہ ڈھائے گا یا وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔

(۱۹۴۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوْنَتِكَ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْْنِي الْجَمَاعَ فَهُوَ إِبِلَاءٌ .

(۱۹۴۷۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، اگر اس جملے سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کرے گا یا کسی باندی سے جماع کرے گا تو یہ کوئی چیز نہیں اور اگر مراد جماع نہ کرنے کی نیت تھی تو یہ ایلاء ہے۔

(۱۹۴۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوْنَتِكَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : فَهُوَ إِبِلَاءٌ .

(۱۹۴۷۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم! میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا اور پھر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو یہ ایلاء ہے۔

(۲۲۸) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا مر جائے اور اس کے گھر میں سامان ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۴۷۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ فَجِنَزَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى سُرْبِحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ: دَفَعْنَا إِلَيْهِ الصَّدَاقَ وَقُلْنَا: جَهَّزَهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ: إِنَّ عَقْرَهَا مِنْ مَالِكَ.

(۱۹۴۷۴) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر کے سامان کا دعویٰ کیا، اس کی چاروں بیویاں حضرت شریح کے پاس آئیں اور انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے مہر دے دیا تھا۔ اور کہا تھا کہ اس کا سامان خرید لے تو اس نے سامان خرید لیا تھا۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے سامان کا فیصلہ آدمی کے خلاف کیا اور فرمایا کہ اس کا تادان تیرے مال سے ہوگا۔

(۱۹۴۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي فَلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ: الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا.

(۱۹۴۷۵) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے عورت کے سامان سے کمرہ تیار کیا پھر وہ مر گیا تو سامان کس کا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مرد کا ہی ہوگا جب تک وہ عورت کو دے نہ دے۔

(۱۹۴۷۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا كَانَ لِلرَّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيْتَ.

(۱۹۴۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی صورت میں جو چیزیں مردوں کی ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہوں گی اور جو عورتوں کی ہوتی ہیں وہ عورتوں کی ہوں گی۔ اور باقی ماندہ اس کے لئے ہوگا جس نے گواہی قائم کی۔

(۱۹۴۷۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانَ لِلرَّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.

(۱۹۴۷۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق مردوں سے ہو وہ مردوں کے لئے ہے اور جس کا تعلق عورتوں سے ہو وہ عورتوں کو ملے گی اور جو باقی بچے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔

(۱۹۴۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَيْتِ يَتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَهَا مَا أَعْلَقَتْ عَامَّةً مَالِهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيِّبَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ.

(۱۹۴۷۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاندان تو اس کے لئے آدمی کے مال میں سے وہ چیز ہوگی جس سے اپنے دروازے پر پردہ ڈال سکے۔ جیسے پادر اور میٹھی وغیرہ۔

(۱۹۴۷۹) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ .

(۱۹۴۷۹) حضرت حماد ویشیہ سے گھر کے سامان کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کے کپڑے عورت کے لئے اور مرد کے کپڑے مرد کے لئے ہیں۔ اور جس چیز کے بارے میں ان کا جھگڑا ہوا جائے وہ اس کا ہوگا جس کے قبضے میں ہو۔

(۱۹۴۸۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حِلْيَةٌ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيْتَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِذَلِكَ الزَّوْجِ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا .

(۱۹۴۸۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کے پاس آئے اور اس کے پاس زیورات اور سامان ہوں اور وہ اپنے خاوند کے پاس ٹھہرے۔ پھر اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو یہ سب کچھ میراث ہوگا۔ خواہ عورت کے گھر والے اس بات پر گواہی بھی قائم کر دیں کہ یہ اس کے پاس صرف استعمال کے لئے تھا۔ البتہ اگر وہ خاوند کی زندگی میں اس بات کو واضح کر دیں تو ٹھیک ہے۔

(۱۹۴۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذُكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ .

(۱۹۴۸۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا اور مردوں کا سامان مرد کے لئے ہوگا۔

(۱۹۴۸۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْتَ أَنَّهُ لَهَا .

(۱۹۴۸۲) حضرت حکم ویشیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور گھر میں کچھ سامان چھوڑے تو مردوں والا سامان مرد کے لئے اور عورتوں والا سامان عورت کے لئے ہوگا۔ اور جو مردوں اور عورتوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے وہ مرد کے لئے ہوگا۔ البتہ اگر عورت اس بات پر گواہی قائم کر دے کہ یہ اس کا ہے تو پھر اس کا ہوگا۔

(۲۳۹) مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَلَهُ مَالٌ ، رِضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ ؟

اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں مرجائیں اور اس کے حصے میں مال ہو تو اس کو دودھ پلانے

کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟

(۱۹۴۸۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : رِضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَيْبِهِ .

(۱۹۴۸۳) حضرت ابن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اس کے حصے میں سے ہوگی۔

(۱۹۴۸۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيْبِهِ .

(۱۹۴۸۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اس کے حصے میں سے ہوگی۔

(۱۹۴۸۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَيْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ وَقَالَ لِرِوَيْهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

(۱۹۴۸۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عبید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچے کی رضاعت کا مقدمہ لایا گیا انہوں نے رضاعت بچے کے مال میں سے لازم فرمائی اور اس کے ولی سے کہا کہ اگر اس کا مال نہ ہو تو ہم آپ کے مال میں سے اس کے دودھ کا انتظام کرتے۔ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

(۱۹۴۸۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَقِيَ رَضَاعُهُ نَصِيْبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيْبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۱۹۴۸۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچے کا حصہ رضاعت کو پورا کر دے تو اس کے حصے میں سے ہوگی اور اگر نہ ہو تو پھر پورے مال میں سے۔

(۱۹۴۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّضِيْعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيْبِهِ قَلِيْلًا كَانَ ، أَوْ كَثِيْرًا .

(۱۹۴۸۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے پر اس کے حصے میں سے خرچ کیا جائے گا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔

(۱۹۴۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۱۹۴۸۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ بچے پر جمع مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

(۱۹۴۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۱۹۴۸۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نفقہ اور رضاعت تمام مال میں سے ہوں گے۔

(۲۲۰) فِي قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۱۹۴۹۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : عَلَى

الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ.

(۱۹۳۹۰) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر وہی لازم ہے جو اس کے باپ پر لازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انتظام کرنا۔

(۱۹۴۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر وہی لازم ہے جو اس کے باپ پر لازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انتظام کرنا۔

(۱۹۴۹۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَضَاعُ الصَّبِيِّ.

(۱۹۳۹۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بچے کے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔

(۱۹۴۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَهَشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فَقَالَ: الرَّضَاعُ.

(۱۹۳۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بچے کے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔

(۱۹۴۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ.

(۱۹۳۹۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وارث پر رضاع لازم ہے لیکن حاملہ کا نفقہ لازم نہیں ہے۔

(۱۹۴۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُضَارُّ.

(۱۹۳۹۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

(۱۹۴۹۶) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ: الْوَالِدُ

يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصِيَّتِهِ.

(۱۹۳۹۶) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ چھوٹا بچہ چھوڑے تو اگر باپ کا مال ہے تو بچے کے دودھ کا انتظام اسی کے مال میں سے ہوگا اور اگر مال نہ ہو تو یہ

عصبات کی ذمہ داری ہوگی۔

(۱۹۴۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جَاؤُوا بِبَيْتِمْ إِلَى

عَمْرٍو فَقَالَ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، قَالَ: لَوْلَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ.

(۱۹۳۹۷) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک بیتیم بچے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے پاس

لائے اور عرض کیا کہ اس کے نفقہ کا انتظام کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے دور کے رشتہ دار بھی مل جائیں تو بھی اس کا نفقہ ان پر لازم کروں گا۔

(۱۹۴۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّادَةَ قَالَ لَوْلِي يَتِيمٌ :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَفَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾

(۱۹۴۹۸) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبہ نے ایک یتیم کے ولی سے کہا کہ اگر اس کا مال نہ ہوتا تو

میں تجھ پر اس کا نفقہ لازم کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾

(۱۹۴۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ،

يعنى : النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتْ الْأُمُّ عَلَى رِضَاعِهِ ،

وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَالِدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا ، جُبِرَتْ عَلَى رِضَاعِهِ .

(۱۹۴۹۹) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے

کہ بچے کا نفقہ باپ پر لازم ہے، اگر وہ نہ ہو تو عصبات پر لازم ہے اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو ماں کو دودھ پلانے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر

بچہ ماں کے علاوہ کسی سے دودھ نہ پیے تو اسے بچے کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۵۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ قَالَ :

عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ .

(۱۹۵۰۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر

لازم ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے دے۔

(۱۹۵۰۱) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : ﴿ وَعَلَى

الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ قَالَ : لَا يُضَارُّ .

(۱۹۵۰۱) حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر لازم ہے کہ اس

کا نقصان نہ ہونے دے۔

(۲۳۱) من قال الرضاع على الرجال دون النساء

جن حضرات کے نزدیک بچے کے دودھ کا انتظام مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں

(۱۹۵۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ

بْنَ الْخَطَّابِ أَوْفَقَ بِنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرِضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمِّ لَهُ . (ابن جریر ۵۰۰)

(۱۹۵۰۲) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے بچے کے دودھ کا انتظام اس کے چچا زاد مردوں پر کیا جس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کا کوئی مال باقی نہیں رہا تھا۔

(۱۹۵۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرَّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

(۱۹۵۰۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بچے کے دودھ کا انتظام مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں۔

(۱۹۵۰۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهٗ أُمٌّ وَعَمٌّ وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ فَقَالَ : النِّفْقَةُ عَلَى الْعَمِّ .

(۱۹۵۰۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس بچے کی ماں مال دار ہے جبکہ چچا غریب ہے، دودھ کے انتظام کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ نفقہ چچا پر لازم ہے۔

(۱۹۵۰۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ .

(۱۹۵۰۵) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں بھی ہو اور چچا بھی تو ماں کی ذمہ داری اس کی میراث کے بقدر اور چچا کی ذمہ داری اس کی میراث کے بقدر ہوگی۔

(۲۳۲) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَكَلَّ رَضِيعٌ

جب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا دودھ پیتا بچہ تھا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَكَلَّ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ .

(۱۹۵۰۶) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا دودھ پیتا بچہ تھا تو دودھ کا انتظام مرد پر لازم ہوگا۔

(۱۹۵۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطَمَهُ .

(۱۹۵۰۷) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا دودھ پیتا بچہ تھا تو دودھ کا انتظام مرد پر لازم ہوگا۔ جبکہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔

(۲۳۳) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتِهَا

کیا کسی عورت کو اس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟

(۱۹۵۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَاهُ حَقًّا .

(۱۹۵۰۸) حضرت ضحاک بن عثمان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا عورت کو اس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں اسے درست سمجھتا ہوں۔

(۱۹۵۰۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : نَعَمْ .

(۱۹۵۰۹) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر کسی یتیم کی ماں محتاج ہو تو کیا اس پر اس کے مال میں سے خرچ کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں کے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں خرچ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۳۴) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے پھر لعان سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو

کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟

(۱۹۵۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .

(۱۹۵۱۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک لعان نہ ہو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

(۱۹۵۱۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .

(۱۹۵۱۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک لعان نہ ہو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

(۱۹۵۱۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّعَانِ تَوَارَثَا .

(۱۹۵۱۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب لعان سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو وہ وارث ہوں گے۔

(۱۹۵۱۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرْتَبُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرْتَبُهَا .

(۱۹۵۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا وارث ہوگا۔ حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد کو کوڑے لگائے جائیں

گے اور وہ وارث ہوگا۔

(۱۹۵۱۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: إِنَّ أَكْذَبَ نَفْسُهُ جِلْدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَوَرِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثَ .

(۱۹۵۱۳) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ عورت لعان سے پہلے انتقال کر گئی تو اگر وہ آدمی اپنی تکذیب کر دے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ وارث ہوگا اور اگر وہ گواہ پیش کر دے تو وارث ہوگا اور اگر قسم کھائے تو وارث نہیں ہوگا۔

(۱۹۵۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَلَاعِنَةِ إِنْ هِيَ أَقْرَبَتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ التُّعْنَتُ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقَرَّرْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

(۱۹۵۱۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک لعان سے پہلے مر گیا اور پھر اگر عورت زنا کا اقرار کرے تو اسے سنگسار کیا جائے گا اور میراث اس کے مال میں شامل ہوگی اور اگر وہ لعان کرے تو وارث ہوگی۔ اگر وہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی کا اقرار نہ کرے تو اسے میراث نہیں ملے گی اور اس پر عدت بھی لازم نہیں ہوگی۔

(۱۹۵۱۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَالَا: يَرِثُهَا وَلَا مَلَاعِنَةَ بَيْنَهُمَا .

(۱۹۵۱۶) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور پھر وہ مر گئی تو آدمی اس عورت کا وارث ہوگا اور دونوں کے درمیان لعان نہ ہوگا۔

(۱۹۵۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا مَلَاعِنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

(۱۹۵۱۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور موت کے بعد لعان نہیں ہوتا۔

(۱۹۵۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسُهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثَ .

(۱۹۵۱۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ لعان سے پہلے مر گئی تو اگر وہ چاہے تو اپنی تکذیب کر دے اور وارث ہو جائے اور اگر چاہے تو لعان کر لے اس صورت میں وارث نہیں ہوگا۔

(۱۹۵۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .

(۱۹۵۱۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک لعان نہ ہو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

(۲۳۵) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَأَمْرَاتُهُ حَامِلٌ

اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۲۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لِيِ الْمُتَوَكَّلِيِّ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ .

(۱۹۵۲۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند انتقال کر جائے تو بچے کی پیدائش تک اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا پھر میراث تقسیم کی جائے گی۔

(۱۹۵۲۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَأَمْرَاتُهُ حَبْلَى لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ .

(۱۹۵۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی حاملہ کا خاوند انتقال کر جائے تو بچے کی پیدائش تک میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔

(۱۹۵۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ قَالَ : يُقَسَّمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبٌ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ .

(۱۹۵۲۲) حضرت صحاح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کا خاوند انتقال کر جائے تو میراث تقسیم کر دی جائے گی، اور ایک لڑکے کا حصہ چھوڑ دیا جائے گا اگر لڑکی پیدا ہوئی تو باقی ماندہ حصہ ورثاء میں تقسیم ہوگا اور اگر لڑکا ہو تو اس کو مل جائے گا۔

(۲۳۶) مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النِّفْقَةِ؟

آدمی کو کس کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا؟

(۱۹۵۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يَنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ .

(۱۹۵۲۳) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی محرم کو اپنے محرم پر خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۵۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفْقَةٍ كُلِّ وَارِثٍ .

(۱۹۵۲۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وارث کے نفقہ پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۵۲۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفْقَةِ ابْنِ أَخِيهِ .

(۱۹۵۲۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اپنے بھائی کا نفقہ دینے پر مجبور کیا تھا۔

(۱۹۵۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ.
(۱۹۵۲۷) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے والدین کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا اور وہ ان پر نیکی کے ساتھ خرچ کرے گا۔

(۱۹۵۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أُخِيهِ، إِذَا كَانَ مُعْسِرًا.

(۱۹۵۲۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بھائی تنگ دست ہو تو اسے اس پر خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔
(۱۹۵۲۸) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ أُخِيهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا.

(۱۹۵۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دادا مالدار ہو تو اسے تنگ دست پوتے پر خرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲۳۷) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

اگر کوئی شخص اپنے والد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ: لَا أَنْفِقُ عَلَيْكَ شَيْئًا، فَقَالَ: خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ.

(۱۹۵۲۹) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد مجھے اپنے مال سے محروم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھ پر خرچ نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے باپ کے مال میں سے نیکی کے ساتھ لے لو۔

(۲۳۸) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ يَا أُخِيَّةُ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو "اے چھوٹی بہن" کہہ دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۳۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخِيَّةُ قَالَ: مَا هَذَا وَتَمْرَتَانِ إِلَّا وَاحِدٌ.

(۱۹۵۳۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو "اے چھوٹی بہن" کہہ دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اور دو کھجوریں ایک جیسی چیز ہیں۔

(۱۹۵۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ يَا أُخِيَّةُ قَالَ: لَا تَقُلْ لَهَا: يَا أُخِيَّةُ. (ابوداؤد ۲۲۰۳)

(۱۹۵۳۱) حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنی بیوی کو اے چھوٹی بہن کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اے چھوٹی بہن مت کہو۔

(۲۳۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهَمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيْبَتْ لَهُ صِكًّا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ

اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے اس کے پیسے چرائے ہیں اور پھر اس بات پر قسم

کھا لے کہ اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ غَيْبَتْ صِكِّكَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ غَيْبَتْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَسَمِعْتُ حَمَادًا يَقُولُ : يُدَيِّنُ فِي ذَلِكَ .

(۱۹۵۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے اپنے خاوند کے پیسے چرائے تو آدمی نے کہا کہ اگر تو نے نہ چرائے ہوں تو تجھے تین طلاق۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سچا ہے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس معاملے میں اس کی دینداری دیکھی جائے گی۔

(۲۴۰) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدْعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى امْرَأَتَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَرَأَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ ، ثُمَّ رَدَّتْ عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَرْتَهُ .

(۱۹۵۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی اور یہ مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گئی۔ سلطان نے خاوند سے قسم لی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ پھر وہ عورت واپس اس کے ساتھ بھیج دی گئی اور خاوند مر گیا تو وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔

(۲۴۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَأَمْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ
وَشَهِدَ رَجُلٌ وَأَمْرَأَةٌ

اگر ایک آدمی دو مردوں اور ایک عورت کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر دو گواہ
مردوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور طلاق کے بارے میں ایک مرد اور ایک
عورت گواہی دیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَأَمْرَأَةٍ
فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الْآخَرُ قَالَ : تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْعَائِبُ .
(۱۹۵۳۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دو مردوں اور ایک عورت کی موجودگی میں اپنی بیوی کو طلاق دے
دے، پھر ایک مرد اور عورت گواہی دیں جبکہ دوسرا مرد موجود نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس غائب شخص کے آنے تک
بیوی کو اس کے خاندان سے الگ رکھا جائے گا۔

(۲۴۲) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
اگر ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس کی بیوی کو تین
طلاق تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ
كَلَّمَ أَخَاهُ فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ
أَخَاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ .

(۱۹۵۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس کی بیوی کو تین
طلاق۔ اگر وہ چاہے تو ایک طلاق دے دے اور پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور جب وہ بانسہ ہو جائے تو
اپنے بھائی سے بات کر لے۔ پھر اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے۔

(۲۴۳) من كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رَيْبَةٍ

بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا جن حضرات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے

(۱۹۵۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا كُلَّ ذَوَاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ .

(دارقطنی ۵۱۶۷۔ بزار ۱۳۹۸)

(۱۹۵۳۶) حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھر اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر کسی عورت سے شادی کی، پھر اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر کسی عورت سے شادی کی، پھر اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر مزے چکھنے والا مرد اور ہر مزے چکھنے والی عورت پسند نہیں ہیں۔

(۱۹۵۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ ابْتِغَاءَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ . (ابوداؤد ۲۱۷۰۰)

(۱۹۵۳۷) حضرت محارب بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔

(۱۹۵۳۸) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا تَزَوَّجُوا حَسَنًا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مُطْلَاقٌ .

(۱۹۵۳۸) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل عراق یا اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسن رضی اللہ عنہ سے نہ کرواؤ وہ بہت طلاق دینے والے آدمی ہیں۔

(۱۹۵۲۹) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْتُ أَنْ يَكُونَ عِدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ .

(۱۹۵۳۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ شادی کرتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہے کہ قبائل میں دشمنی کا سبب نہ بن جائیں۔

(۲۴۴) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطُلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ
اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق کر کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھائے اور پھر دونوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَقَقْتُ إِلَيْكَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْتَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

(۱۹۵۴۰) حضرت عبد الاعلیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں بچے اتنا ماں نہ دوں تو تجھے تین طلاقیں، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس گواہی ہو تو ٹھیک در نہ عورت بائ نہ ہو جائے گی۔

(۱۹۵۴۱) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ لَمْ يَنْفِقْ عَلَيْهَا .

(۱۹۵۴۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تجھ پر ہر مہینے دس درہم خرچ نہ کروں تو تجھے تین طلاق۔ عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے تین مہینے سے مجھ پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ اس صورت میں آدمی کا قول معتبر ہوگا البتہ اگر عورت خرچ نہ کرنے پر گواہی قائم کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی۔

(۱۹۵۴۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوْفِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَفْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْعَدِيدِ فَرَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ طَلَّقْتَنِي قَالَ : فَحَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَتُدْبِنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيْتُنْكَ فِيهَا أَنْتَ دَقَقْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ .

(۱۹۵۴۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ اگر میں نے غروب شمس سے پہلے تیرا حق ادا نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ پھر وہ اس سے اگلے دن ملا اور اس نے کہا کہ اس نے کوئی چیز ادا نہیں کی۔ اس کی عورت نے اس سے کہا

کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ پھر وہ یہ مقدمہ لے کر حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک تمہاری بیوی کا سوال ہے تو وہ تمہاری دین داری پر چھوڑتے ہیں اور جہاں تک آدمی کی بات ہے تو تم گواہی لاؤ کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے ورنہ اس کا حق ادا کرو۔

(۲۴۵) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لَامْرَأَتِهِ قَدْ خَلَعْتُكَ، وَكَمْ يَفْعَلُ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے خلع کی، حالانکہ اس نے خلع نہ کی

ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۴۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكَ ، وَكَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ : قَدْ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

(۱۹۵۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے خلع کی، حالانکہ اس نے خلع نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے خلع کر لی اور اس پر کچھ لازم نہ ہوگا۔

(۲۴۶) مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رِضَاعِ ابْنِهَا ؟

آزاد عورت کو بچے کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟

(۱۹۵۴۴) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرِّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ .

(۱۹۵۴۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کو بچے کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جبکہ ام ولد کو مجبور کیا جائے گا۔

(۱۹۵۴۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضِعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أَجْرُ الرِّضَاعِ مِثْلَهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جَبُرَتْ عَلَى رِضَاعِهِ وَأُعْطِيََتْ أَجْرَ مِثْلَهَا .

(۱۹۵۴۵) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا دودھ پینے والا بچہ ہو تو وہ اس کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، اور اس اس جیسی عورتوں کے برابر بدلے ملے گا اگر وہ دودھ پلانے کو قبول کر لے۔ اور اگر وہ قبول نہ کرے تو کسی اور سے دودھ پلویا جائے گا۔ اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے لگے تو ٹھیک ورنہ اس کی ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا اور اسے اس کی قیمت دی جائے گی۔

(۱۹۵۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴾ قَالَ : إِذَا قَامَ الرِّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا أُمَّ أَحَقُّ بِهِ .

(۱۹۵۳۶) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْاُخْرَى﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر رضاعت کسی چیز پر قائم ہو تو ماں اس کی زیادہ حقدار ہے۔

(۱۹۵۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ : إِذَا كَانَ الْوَالِدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَحَشِيَ عَلَيْهِ جُبْرَتٌ .
(۱۹۵۳۷) حضرت سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پئے اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو ماں کو ہی دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔

(۲۴۷) مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ

عورت کا گھر بدلنے کے احکامات

(۱۹۵۴۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ قَالَ : الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا فَعَلْتِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا .

(۱۹۵۳۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فاحشہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر والوں سے بدزبانی کرے، جب وہ ایسا کرے تو وہ اسے اس کے گھر سے نکال سکتے ہیں۔

(۱۹۵۴۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ .

(۱۹۵۳۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا فاحشہ ہے۔

(۱۹۵۵۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ قَالَ : إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدِّ .

(۱۹۵۵۰) حضرت حماد قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی حد کے لئے نکلے تو درست ہے۔

(۱۹۵۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنِ الصَّحَّاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ الْفَاحِشَةُ الْمُبِينَةُ عِصْيَانُ الزَّوْجِ .

(۱۹۵۵۱) حضرت صحاح رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد خاوند کی نافرمانی ہے۔

(۱۹۵۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ قَالَ :

عُرُوْجُهَا فَاحِشَةٌ.

(۱۹۵۵۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا گھر سے نکلتا فاحشہ ہے۔

(۲۴۸) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللَّقْمَةَ فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَانَتْ
السَّنُورُ فَأَكَلَتْهَا

اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اگر تو نے یہ لقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کو طلاق اور اتنے میں ایک بلی آئی اور اس لقمہ کو کھا گئی تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۵۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنْ لَمْ تَأْكُلْهَا فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتْ سَنُورٌ فَأَخَذَتْ اللَّقْمَةَ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتِي .
(۱۹۵۵۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اگر تو نے یہ لقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کو طلاق اور اتنے میں ایک بلی آئی اور اس لقمہ کو کھا گئی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگئی۔

(۱۹۵۵۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : جَاءَ إِلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لَامْرَأَتِي : إِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعُرْقُ ، فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَانَتْ السَّنُورُ ، فَأَخَذَتْ الْعُرْقُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا ، لَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا .

(۱۹۵۵۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ چیز نہ کھائی تو تجھے تین طلاقیں، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے وہ چیز کھالی۔ اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے عورت کا راستہ بند کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کر دیا۔

(۲۴۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ فَنَحِيْرَهَا فِيهِ فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تَكَلِّمْ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا اس نے خط پڑھا لیکن کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۵۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ وَاتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ امْرَأَتُهَا بِبَيْدِهَا فَقَرَأَتْ الْكِتَابَ ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفُرَاشِ ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ

شَيْئًا ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا .

(۱۹۵۵۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی ایک خط لے کر آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا، عورت نے خط پڑھا اور اسے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کا اختیار باقی نہیں رہا۔

(۲۵۰) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلَّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

اگر کوئی غلام طلاقِ رجعی دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۵۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ .

(۱۹۵۵۶) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام طلاقِ رجعی دے تو اس پر نفقہ لازم ہوگا۔

(۲۵۱) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

اگر کوئی شخص عدت گزر جانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۵۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيْتَةُ .

(۱۹۵۵۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گزر جانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس پر گواہی لازم ہے۔

(۱۹۵۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يَصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ .

(۱۹۵۵۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گزر جانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی خواہ وہ گواہی قائم کر لے۔

(۱۹۵۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكَ لَمْ يَصَدَّقْ .

(۱۹۵۵۹) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گزر جانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

(۲۵۲) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطُلَاقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا

اگر کسی آدمی کے بارے میں دو شخص گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے

پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے، اس کے بعد دونوں گواہوں میں سے

ایک اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۶۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادٍ مَوْلَى بُجَيْلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطُلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَنَزَّوَجَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَضَى الْقَضَاءُ ، وَلَا يَلْتَمِسُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ .

(۱۹۵۶۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں دو شخص گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے، اس کے بعد دونوں گواہوں میں سے ایک اپنی گواہی سے رجوع کر لے اور دوسرا اس عورت سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قضاء نافذ ہو چکی اب رجوع کرنے والے کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔

(۲۵۳) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ)

قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ کی تفسیر

(۱۹۵۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ هِيَ الثَّلَاثَةُ . (ابوداؤد ۲۲۰ - بیہقی ۳۳۰)

(۱۹۵۶۱) حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ میں دو طلاقوں کا تذکرہ ہے، تیسری طلاق کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مہربانی کے ساتھ روکنا یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہی تیسری طلاق ہے۔

(۱۹۵۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُكَ وَلَا تَحِلِّينِ مِنِّي قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أَطْلُقُكَ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيَّ عِدَّتِكَ

رَأَجَعْتُكَ ، فَجَزَعْتُكَ ، فَاتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ . (ترمذی ۱۱۹۲۔ مالک ۸۰)

(۱۹۵۶۲) حضرت عروہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو تیرے قریب آؤں گا اور نہ تو میرے نکاح سے نکل سکے گی۔ عورت نے کہا کہ تم ایسا کس طرح کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت پوری ہونے کا وقت قریب آئے گا تو میں تجھ سے رجوع کر لوں گا۔ وہ عورت پریشان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ نازل ہوئی۔ پھر لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ طلاق دی ہوتی تھی یا نہ دی ہوتی تھی۔ (درمیان صورت کوئی نہ تھی)

(۱۹۵۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِسِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيَطْلُقُهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۹۵۶۳) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اسے دو طلاقیں دے دے، پھر جب وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو کر لے اور اگر ایک چاہے تو ایک طلاق دے دے، اس تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے۔

(۱۹۵۶۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

(۱۹۵۶۳) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے تو چاہے تو اس سے نکاح بحال کر لے۔ اور جب دو طلاقیں دے دے تو چاہے تو اس سے نکاح کر لے اور جب تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی اور آدمی سے شادی نہ کر لے۔

(۱۹۵۶۵) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاصَتْ ، ثُمَّ طَهَّرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ حَاصَتْ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةَ ، فَهَاتَانِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرْآنٍ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : ﴿فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَإِحْسَانَ﴾ فَيَطْلُقُهَا

لِي ذَلِكَ الْقُرْءُ كُلُّهُ اِنْ شَاءَ حِيْنَ تَجْمَعُ عَلَیْهَا نِيَابَهَا.

(۱۹۵۶۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، پھر جب اسے حیض آئے اور پھر طہر آئے تو ایک قرء مکمل ہو گیا۔ پھر اسے دوسری طلاق اسی طرح دے جس طرح پہلی طلاق دی تھی۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر لے۔ پھر جب وہ دوسری طلاق دے دے اور اسے دوسرا حیض آجائے تو یہ دو طلاقیں اور دو قرء ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری طلاق کے بارے میں فرماتا ہے کہ ﴿فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾ پھر وہ اس پورے قرء میں اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے یہاں تک کہ عورت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے۔

(۱۹۵۶۶) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَارُوسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْحٌ ، لَيْسَ بِطَّلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي اَوَّلِ الْآيَةِ وَفِي آخِرِهَا وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَّلَاقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾.

(۱۹۵۶۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ فرقت اور فسح ہے طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں اور آخر میں طلاق کا ذکر کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان خلع کا ذکر کیا ہے جو کہ طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾

(۱۹۵۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَيُّوبَ قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ . (۱۹۵۶۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو تین کے بعد ہو۔

(۱۹۵۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جُوَيْرِ ، عَنْ الصَّحَّاحِ : ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا﴾ قَالَ : لَعَلَّهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ .

(۱۹۵۶۸) حضرت صحاح رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی آیت ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شاید کہ وہ عدت میں رجوع کر لے۔

(۱۹۵۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا﴾ قَالَ : لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ اِلَى الرَّجْعَةِ .

(۱۹۵۶۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ شاید بعد میں آپ نادم ہوں اور آپ کے لئے رجوع کا راستہ بن جائے۔

(۲۵۴) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجِعَ سِرًّا

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پر دی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے

(۱۹۵۷۰) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجِعَ سِرًّا فَتَلَكَ رَجْعَةً ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلَانِيَةً وَرَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيَّ رَجْعَتِهِ .

(۱۹۵۷۰) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب پوشیدگی سے طلاق دی تو رجوع بھی پوشیدگی سے کر لے، تو یہ رجوع ہے۔ اگر اس کے بعد اس نے جماع بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طلاق علانیہ دی اور رجوع کر لیا تو اپنے رجوع پر گواہ بنالے۔

(۱۹۵۷۱) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجِعَ سِرًّا .

(۱۹۵۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پر دی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے۔

(۲۵۵) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ آلِي مِنْ أُمَّرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر وہ مر گیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنْ أُمَّرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِلَّتَيْهَا قَالَ : تَعْتَدُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا .

(۱۹۵۷۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھر وہ اس کی عدت کے آخری دنوں میں مر گیا تو عورت گیارہ مہینے عدت گزارے گی۔

(۲۵۶) مَنْ قَالَ إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا

اگر کسی خلع لینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تو اس کو اس شرط کا حق ہے

(۱۹۵۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَاطِنٌ وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا .

(۱۹۵۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خلع طلاق باطنہ ہے۔ اگر خلع لینے والی عورت نے طلاق کی شرط لگائی تو یہ شرط معتبر ہوگی۔

(۲۵۷) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَاتِبَةِ ؟

مکاتبہ باندی کی طلاق کا بیان

(۱۹۵۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُكَاتِبَةُ طَلَقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. (۱۹۵۷۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ باندی کی طلاق کا حکم باندی کی طلاق والا ہے اور اس کی عدت بھی باندی کی عدت کی طرح ہے۔

(۲۵۸) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْرَقُ بَيْنَهُمَا ، عَلَى مَنْ النِّفْقَةُ ؟

اگر ایک عورت اپنی عدت میں شادی کر لے پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی

جائے تو نفقہ کس پر واجب ہوگا؟

(۱۹۵۷۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: النِّفْقَةُ عَلَى مَنْ تَعَدَّتْ مِنْ مَالِهِ. (۱۹۵۷۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفقہ اس پر ہوگا جس کے پانی پر وہ عدت گزار رہی ہے۔

(۲۵۹) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَفْجِرُ ، أَوْ يَفْجِرُ هُوَ فَيَرْجِمُ أَحَدُهُمَا ؟

اگر کوئی عورت یا مرد زنا کا ارتکاب کریں اور اسے سنگسار کر دیا جائے تو کیا دوسرے کے

لئے میراث ہوگی؟

(۱۹۵۷۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَيُّهُمَا رَجِمَ الزَّوْجُ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ.

(۱۹۵۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو اگر سنگسار کیا گیا تو دوسرے کو میراث ملے گی۔

(۱۹۵۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا رَجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

(۱۹۵۷۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خاندن کو سنگسار کیا گیا تو بیوی کو میراث ملے گی۔

(۱۹۵۷۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ فَجَرَتْ أَيْمَهُ عَلَيْهَا الْحُدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السَّيَاطِ وَرَثَتُهَا.

(۱۹۵۷۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی پھر اس عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور

اس پر حد جاری ہوئی اور وہ مرثیٰ تو مرد عورت کا وارث ہوگا۔

(۱۹۵۷۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنهَا زَنْتٌ قَالَ : تَرْجُمُ وَيُرْتَمَى .

(۱۹۵۷۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے زنا کار ہونے پر چار گواہ قائم کر دیئے تو عورت کو سنگسار کیا جائے گا اور مرد اس کا وارث ہوگا۔

(۲۶۰) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً ، أَيْلَانِينَ

اگر کسی مرد نے اپنی نابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو کیا وہ لعان کرے گا؟

(۱۹۵۸۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ .

(۱۹۵۸۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی نابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو اس پر حد اور لعان لازم نہیں ہوں گے۔

(۲۶۱) مَا قَالُوا ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ امْرَأَهَا بَيِّدٌ رَجُلٍ ؟

ایک آدمی نے کسی عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ عورت کا معاملہ آدمی کے ہاتھ میں ہوگا

(۱۹۵۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ امْرَأَهَا بَيِّدٌ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : بَلَى ، وَقَالَ سُفْيَانُ : رَأَيْتُ رَأَى الزُّهْرِيِّ .

(۱۹۵۸۱) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ عورت کا معاملہ آدمی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی شرط نہیں۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہیں نہیں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے وہی ہے جو حضرت زہری رضی اللہ عنہ کی ہے۔

(۲۶۲) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ؟

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۸۲) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَنبَسَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مُسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ ، فَقَدْ خَيْرَهَا .

(۱۹۵۸۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے طلاق ہے، اسے گویا آدمی نے اختیار دے دیا۔

(۲۶۳) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يَطْلُقُهَا؟

اگر آدمی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھر اسے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ بَيْنَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الْآخَرَ قَالَ: لَا طَلَّاقَ لَهُ.

(۱۹۵۸۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے کسی آدمی سے شادی کی اور پھر دو سال اس کے پاس رہی۔ پھر اس کا شوہر آیا اور اس عورت کو لے گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔

(۱۹۵۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٌ لَا يَبْتَأُ فَلَيْسَ طَلَّاقُهُ فِيهِ طَلَّاقٌ.

(۱۹۵۸۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نکاح فاسد کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۲۶۴) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحْكَمَانِ الرَّجُلَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ

اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ثالث بنا لیں اور پھر رجوع کر لیں تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَمَا رَجُلَيْنِ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا، قَالَ: ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَّكَلَّمَا فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا.

(۱۹۵۸۵) حضرت صالح بن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ثالث بنا لیں اور پھر رجوع کر لیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے لئے اس وقت تک ہے جب تک وہ بات نہ کریں، جب وہ دونوں بات کر لیں تو وہ رجوع نہیں کر سکتے۔

(۲۶۵) مَا قَالُوا فِي اللَّعَانِ كَيْفَ هُوَ؟

لعان کی کیا کیفیت ہے؟

(۱۹۵۸۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: كَيْفَ اللَّعَانُ؟ قَالَ: خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ.

(۱۹۵۸۶) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لعان کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں مذکور لعان کے الفاظ کو اللہ کی قسم کے ساتھ ادا کریں۔

(۲۶۶) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ؟

اگر کوئی شخص کسی حاملہ بیوی کو طلاق دے اور پھر وہ بچے کو جنم دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعُبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فَكَرِهَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَبَى، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلُقُ أَحْبَتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقِهِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ خَرَجَ فَادْرَكَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كَلْثُومٍ قَدْ وَضَعَتْ حَمَلَهَا، قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَهَا اللَّهُ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَتْ فَقَالَ: سَبَقَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهَا، اخْطُبَهَا فَقَالَ: إِنِّهَا لَا تَرْجِعُ لِي أَبَدًا.

(ابن ماجہ ۲۰۲۶۔ بیہقی ۴۳۱)

(۱۹۵۸۷) حضرت عمرو بن ميمون رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ عورتوں پر سختی کرنے والے آدمی تھے۔ جس کی وجہ سے وہ انہیں ناپسند کرتی تھیں۔ انہوں نے حالت حمل میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے طلاق کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہیں دروزہ ہونے لگا تو انہوں نے ایک طلاق کا پرزور مطالبہ کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے انہوں نے ایک طلاق دے دی۔ جب وہ باہر آئے تو انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس کا ناس کرے اس نے مجھے دھوکا دیا! پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب غالب آگئی، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سکتے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب وہ کبھی میرے نکاح میں واپس نہیں آئیں گی۔

(۲۶۷) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتَعَةٌ؟

غلام اگر طلاق دے تو اس پر متعہ لازم نہیں

(۱۹۵۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتَعَةٌ.

(۱۹۵۸۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام اگر طلاق دے تو اس پر متعہ لازم نہیں۔

(۲۶۸) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلَّقُ فِي الْمَنَامِ؟

اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۸۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، إِذَا طَلَّقَ ، أَوْ أُعْتِقَ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۹۵۸۹) حضرت عامر بن بٹوہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے یا آزاد کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۱۹۵۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْحَانَ ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . (ابوداؤد ۴۳۰۱- نسائی ۷۳۳۵)

(۱۹۵۹۰) حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ سویا ہوا انسان جاگنے تک مرفوع القلم ہے۔

(۱۹۵۹۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .

(ابن ماجہ ۲۰۴۱- احمد ۱۰۰)

(۱۹۵۹۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے ایک سویا ہوا جب تک وہ جاگ نہ جائے۔

(۲۶۹) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ

اگر کسی آدمی کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دارالحرب چلی جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۹۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلِحَقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : يَتَّبِعُهَا الطَّلَاقُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ .

(۱۹۵۹۲) حضرت عامر بن بٹوہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دارالحرب چلی جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے کر شادی کرے۔

(۲۷۰) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنَّ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتُهْدَمُ

اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے

طلاق ہے اس کے بعد وہ گھر گر گیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۵۹۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَحُكْمٌ دَلِيلٌ وَبِرَابِئِينَ سَمِينٌ مَتْنَعٌ وَمَنْفَرْدٌ كَتَبَ بِرِ شَمْتَلِ مَفْتٍ أَنْ لَانِ مَكْتَبَةٌ

فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَدِمْتِ الدَّارَ قَالَ: إِذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهَدِمْتِ، أَوْ كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

(۱۹۵۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعد وہ گھر گر گیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر گھر گرا دیا گیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہاشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر اس آدمی کا تھا اور یار راستہ بن گیا اور وہ عورت وہاں سے گذری تو اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۲۷۱) مَا ذُكِرَ مِنَ الرَّخْصَةِ مِنَ الطَّلَاقِ

طلاق دینے کی اجازت کا بیان

(۱۹۵۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ.

(۱۹۵۹۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے طلاق دی تھی۔

(۱۹۵۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ.

(۱۹۵۹۵) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو عورتوں کو طلاق دی، جن میں سے ایک بنو عامر سے تھی۔

(۱۹۵۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ، إِنَّمَا كَانَ يَعْزِلُ.

(۱۹۵۹۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے طلاق نہیں دی تھی۔ آپ نے محض عزلت اختیار فرمائی تھی۔

(۱۹۵۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا آتَى النِّسَاءَ عَلَى لَدْفِهِ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتَهُنَّ.

(۱۹۵۹۷) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو مخزوم کی ایک بانجھ عورت سے شادی کی پھر اسے طلاق دے دی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے لذت کے حصول کے لئے ہم بستری نہیں کرتا اگر اولاد نہ ہوتی تو میں عورتوں کے پاس نہ پھلکتا۔

(۱۹۵۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا.

(۱۹۵۹۸) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، وہ بانجھ نکلی تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔

(۱۹۵۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَمَا ابْنِي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرِ سَائِيئِي وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بِلَاءٌ.

(۱۹۵۹۹) حضرت قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر فرمایا کہ میں نے اسے کسی برائی کی وجہ سے طلاق نہیں دے۔ بلکہ اسے میرے پاس کوئی آزمائش نہیں پہنچی۔

(۱۹۶۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعَمْرُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا وَهِيَ الْيَتْمَى اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ.

(بخاری ۵۲۵۳۔ ابن ماجہ ۲۰۳۷)

(۱۹۶۰۰) حضرت محمد بن کعب، حضرت عبد اللہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے بنو جون کی ایک عورت سے شادی کی، پھر اسے طلاق دے دی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے حضور ﷺ سے پناہ مانگی تھی۔

(۲۷۲) مِنْ كَرِهَةِ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ

جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکروہ قرار دیا ہے

(۱۹۶۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ قَاسِمِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ: سُرِّيَتْ كَانَتْ لِعَلِيٍّ قَالَتْ: قَالَ عَلِيُّ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ، قَدْ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا، قَالَتْ: وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقُلْتُ: طَلِّقْ إِحْدَاهُنَّ وَاسْتَيْدِلْ، فَقَالَ: الطَّلَاقُ قَبِيحٌ، أَكْرَهُهُ.

(۱۹۶۰۱) حضرت ام سعید رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باندی تھیں فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے ام سعید رضی اللہ عنہا! میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں۔ اس وقت ان کے نکاح میں چار عورتیں تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیجئے اور شادی کر لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ طلاق برا کام ہے مجھے پسند نہیں۔

(۲۷۲) مَا ذَكَرَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ

خلع طلب کرنے کی ناپسندیدگی کا بیان

(۱۹۶۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتِ. (احمد ۲/۳۱۳۔ بیہقی ۳۱۶)

(۱۹۶۰۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خلع اور طلاق طلب کرنے والی عورتیں ہی دراصل منافق عورتیں ہیں۔

(۱۹۶۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

(۱۹۶۰۳) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی پریشانی کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوتھے گی۔

(۱۹۶۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أُسْمَاءَ ، عَنْ ثُوْبَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . (ابوداؤد ۲۲۲۱۔ احمد ۵ / ۲۸۳)

(۱۹۶۰۴) حضرت ثوبان سے ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۱۹۶۰۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْرِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَمَا إِنَّهَا مُخَاصِمَتُكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۱۹۶۰۵) حضرت ابو عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع طلب کی تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیری مجرم ہوگی۔

(۱۹۶۰۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ .

(۱۹۶۰۶) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں خلع طلب کریں تو انہیں خاوند کی ناشکری پر مت ڈالو۔

(۱۹۶۰۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَكْرِهُوا لَفْتِيَاكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ .

(۱۹۶۰۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو پست قد اور بد شکل مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ جو تم پسند کرتے ہو اسے وہ بھی پسند کرتی ہیں۔

(۲۷۴) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)

قرآن مجید کی آیت ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر

(۱۹۶۰۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تُتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَمَا أُحِبُّ أَنْ أُسْتَنْطَفَ حَقِّي عَلَيْهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ .

(۱۹۶۰۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں عورت کے لیے خوبصورت بنوں جس طرح مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ میرے لیے خوبصورتی اختیار کرے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے بھی وہ حقوق ہیں جو ان پر

ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس سے اپنا حق پورا پورا لوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے۔

(۱۹۶۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ قَالَ: إِمَارَةٌ. (۱۹۶۰۹) حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حکم چلاتا ہے۔

(۱۹۶۱۰) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: (وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ) قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ.

(۱۹۶۱۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سوائے اس کے میں کچھ نہیں جانتا کہ جو عورتوں کے فرائض ہیں وہی مردوں کے بھی فرائض ہیں۔ جب وہ اس درجہ کو پہچان لیں۔

(۱۹۶۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: (وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ) قَالَ: يُطَلَّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

(۱۹۶۱۱) حضرت مالک رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں ہے۔

(۱۹۶۱۲) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: (وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ) قَالَ فَضَّلُ اللَّهِ، مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ، وَفَضَّلَ مِيرَاثَهُ عَلَى مِيرَاثِهَا، وَكُلُّ مَا فَضَّلَ بِهِ عَلَيْهَا.

(۱۹۶۱۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جہاد، میراث اور دوسرے احکامات میں عطا کیا ہے۔

(۲۷۵) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فِقِيلٌ لَهَا طَلَّقَهَا

اگر ایک آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے کہا جائے

کہ اس کو طلاق دے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۶۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ الْأُولَى: أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ: بَأَنَّا جَمِيعًا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَأَنَّتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةً.

وَقَالَ وَكَيْعُ: وَالنَّاسِ عَلَيَّ قَوْلِ الْحَكَمِ.

(۱۹۶۱۳) حضرت عبد اللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کے نکاح میں کوئی ایسی عورت ہو جس سے اس نے دخول کیا ہو۔ پھر وہ ایک اور عورت سے شادی کر لے اور پہلی بیوی یہ کہے کہ میں تمہیں اس بات پر اتنا معاوضہ دیتی ہوں کہ تم مجھے بھی ایک طلاق دے دو اور اس عورت کو بھی ایک طلاق دے دو، اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دونوں باندہ ہو جائیں گی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس سے دخول نہیں کیا وہ باندہ ہو جائے گی اور دوسری پر ایک طلاق واقع ہوگی۔

(۲۷۶) فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بیان

(۱۹۶۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ: اشْتَكَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى رَبِّهِ دَرْنَا فِي خُلُقِي سَارَةً، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ، فَإِنْ قَوَّمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكَتَهَا أَعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ عَلَيَّ مَا كَانَ فِيهَا.

(۱۹۶۱۳) حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ کے اخلاق کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ عورت پہلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا کر دو گے۔ اس کی عادتوں کے باوجود اس کے ساتھ گزارا کرو۔

(۱۹۶۱۵) حَدَّثَنَا هُوْدَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمْرَةَ بِنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ عَلَيَّ مِنْبِرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تَرَدَّدْتَ بِإِقَامَةِ الضِّلْعِ تَكْسِرُهُ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا. (ابن حبان ۴۱۷۸ - حاکم ۱۷۴)

(۱۹۶۱۵) حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما نے بصرہ کے منبر پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ عورت کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم پہلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ تم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔

(۱۹۶۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ: أَكْرَهْتُ الْحَجَّاجَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَبْرِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لَجَبْرِ: يَا أَبَا عَمْرٍو كَيْفَ تَصْعُقُ مَعَ نَسَائِكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي الْقَمِي مِنْهُنَّ شِدَّةً، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ بَيْتَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا، وَلَا أَقْبَلَ ابْنَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِ أُمِّهِ إِلَّا غَضِبَ: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ،

لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةٍ إِحْدَاهُنَّ فَتَسْتِهْمُكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ فِي الْقَوْمِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَأَ إِلَى اللَّهِ دَرْنَا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ الصَّلْعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ ، فَالْبَسُ أَهْلَكَ عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرُ قَلِيلٍ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، زَادَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، أَظْنَهُ سَفِيَانٌ : مَا لَمْ يَرَّ عَلَيْهَا خَرَبَةٌ فِي دِينِهَا .

(۱۹۶۱۶) حضرت اوس بن ثریب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تو مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جریر رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت جریر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اے ابو عمرو رضی اللہ عنہما! آپ کا اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ان کی طرف سے بہت سختی کا سامنا ہے۔ میں ان میں سے کسی کے کمرے میں باری کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ان میں سے کسی کے بچے کو بھی اس کی ماں کی باری کے علاوہ کسی اور دن چوم لوں تو وہ غصے میں آجاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان میں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتیں اور نہ مؤمنین کو مانتی ہیں۔ بلکہ اگر تمہیں ان میں سے کسی کی کبھی ضرورت ہو تو وہ تم پر ہی الزام دھریں گی۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کے اخلاق اور ان کی نافرمانی کی شکایت کی تھی، تو ان سے کہا گیا تھا کہ عورت پبلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا کر دو گے۔ ان کی عادتوں کے باوجود ان کے ساتھ گزارہ کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تین مرتبہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ تمہارے دل میں بہت زیادہ علم ہے۔

(۱۹۶۱۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلْعِ أَعْلَاهُ ، إِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ . (بخاری ۳۳۳۱۔ مسلم ۶۰)

(۱۹۶۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، عورت کو پبلی سے پیدا کیا گیا ہے، پبلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔

(۱۹۶۱۸) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ ، عَنْ رُكَيْنٍ ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قَدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَأَ إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقِهِنَّ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إِنِّي لَا أَيْ قَالِ : السُّوقِ أَوْ النَّاسِ ، أَشْتَرِي مِنْهُمُ الدَّابَّةَ ، أَوْ التَّوْبَ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَاتِهِمْ ، أَوْ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَوْ مَا تَعْلَمُ مَا شَكَأَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ دَرْدِ فِي خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ ضَلَعٍ فَخُذِ الضَّلْعَ فَأَقِمَّهُ، فَإِنْ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَيَّ مَا فِيهَا.

(۱۹۶۱۸) حضرت نعیم بن حظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیویوں کی بد اخلاقی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس پریشانی کا سامنا تمہیں ہے مجھے بھی ہے۔ میں جب کبھی بازار جاؤں یا لوگوں سے ملوں، کوئی جانور یا کپڑا خریدوں تو کہنے لگتی ہیں کہ یہ بازار لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہے اور انہیں نکاح کا پیام دیتا ہے! یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ جنیذہ غنما کے اخلاق اور ان کی نافرمانی کی شکایت کی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ عورت پسل کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو میزھا کر دو گے۔ ان کی عادتوں کے باوجود ان کے ساتھ گزارا کر دو۔

(۲۷۷) مَا قَالُوا فِي السَّقَطِ تَنْقِضِي بِهِ الْعِدَّةَ؟

اگرنا مکمل بچہ پیدا ہو جائے تو کیا عدت مکمل ہو جائے گی؟

(۱۹۶۱۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّقَطِ فَقَالَ: تَنْقِضِي بِهِ الْعِدَّةَ.

(۱۹۶۱۹) حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگرنا مکمل بچہ پیدا ہو جائے تو کیا عدت مکمل ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں عدت مکمل ہو جائے گی۔

(۱۹۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: السَّقَطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ التَّامِّ.

(۱۹۶۲۰) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نامکمل بچہ پورے بچے کے حکم میں ہے۔

(۱۹۶۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا: إِنْ اسْقَطَتِ الْحُرَّةُ، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

(۱۹۶۲۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے نامکمل بچے کو جنم دیا تو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔

(۱۹۶۲۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنَازِلَ، قَالَ: سَمِعْتُ

شُرَيْحًا يَقُولُ: إِذَا اسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقَطًا تَمَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ.

(۱۹۶۲۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے نامکمل بچے کو جنم دیا تو آزاد عورت کی عدت مکمل ہو گئی اور باندی

آزاد ہو گئی۔

(۱۹۶۲۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرُقِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُنَوَّقِي عَنْهَا

إِذَا رَمَتْ بَوْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ قَالَ: إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: حَتَّى

يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ إِنَّهُ وَلَدُهُ.

(۱۹۶۲۳) حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت گزارنے والی عورت اگرنا تمام بچے کو جنم دے تو وہ خاوند کے لئے حلال ہو گئی

اور ابن تہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بچا تاتا ہو کہ اس کا انسان ہونا معلوم ہو سکے تو عدت مکمل ہوگی۔

(۱۹۶۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَتْهُ عِلْقَةً ، أَوْ مُصَعَّةً بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ فِيهِهِ الْعُرَّةُ وَتَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ .

(۱۹۶۲۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے بچے کو جما ہوا خون یا لوتھڑا ہونے کی حالت میں جنم دیا بعد اس کے کہ حمل ہونا معلوم ہو چکا تھا تو اس میں غرہ ہے۔ اور اس سے عدت پوری ہو جائے گی اور اگر ام ولد ہو تو آزاد ہو جائے گی۔

(۲۷۸) الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ مَا قُلْتُ

اگر دو آدمیوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور ہر ایک اپنی بات کو حق کہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۶۲۵) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ ، وَتَحَتَّ أَحَدُهُمَا خَالِي قَالَ : يُدَيَّتَانِ .

(۱۹۶۲۵) حضرت خالد بن وردان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر دو آدمیوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور ہر ایک اپنی بات کو حق کہے تو کیا حکم ہے؟ جبکہ ان میں سے ایک کے نکاح میں میری خالہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی دینداری کا اعتبار ہوگا۔

(۲۷۹) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۶۲۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنَّ قُرْبُكَ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنَّ قَرِيبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةَ .

(۱۹۶۲۶) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تجھے طلاق ہے۔ پھر اگر چار مہینے پورے ہونے سے پہلے وہ اس کے قریب آیا تو اسے تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائہ ہو جائے گی اور آدمی اگر چاہے تو اس سے نکاح کر لے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے۔

(۱۹۶۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ قَرِيبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ

، وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةَ.

(۱۹۶۲۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے پاس آیا تو اسے تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بائند ہو جائے گی۔ اور اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے اور سال پورا ہونے سے پہلے اس سے جماع کر سکتا ہے۔

(۱۹۶۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ فُرِّبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ فِيهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلَا يَنْزَوُجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقْلٌ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيْلَاءُ ، شَهْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةَ ، وَيَنْزَوُجُهَا وَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةَ وَذَلِكَ رَأَى سَعِيدٍ.

(۱۹۶۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے قریب آیا تو اسے تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بائند ہو جائے گی، اور وہ اس سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک ایلاء سے کم دن یعنی دو یا تین مہینے نہ گزر جائیں۔ پھر وہ اس سے شادی کر لے لیکن ایک سال تک اس کے قریب نہ جائے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔

(۲۸۰) مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟

عورت کا اپنے خاوند کی وفات پر سوگ منانا

(۱۹۶۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. (مسلم ۶۵ - احمد ۶/۳۷)

(۱۹۶۲۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناسکتی۔

(۱۹۶۳۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةَ لَهَا تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا فَاسْتَكْتَفَتْ عَنْهَا فِيهِ تَرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلَتْ زَيْنَبَ : مَا رَمَيْتُ بِالْبُعْرَةِ؟ فَقَالَتْ : كَانَتْ امْرَأَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتِ لَهَا ، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً ، فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ ، وَرَمَتْ بِالْبُعْرَةِ مِنْ وَرَائِهَا. (مسلم ۶۱ - ترمذی ۱۱۹۷)

(۱۹۶۳۰) حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ان کی ایک بیٹی کا خاوند انتقال کر گیا ہے۔ اس کی آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ سرمہ لگانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک سال پورے ہونے پر اونٹ کی میٹھی پھینکی تھی، اب تو عدت چار مہینے دس دن ہے۔ حضرت حمید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اونٹ کی میٹھی پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت خاوند کے انتقال کے بعد ایک بدترین کمرے میں جا بیٹھتی تھی، ایک سال تک وہیں رہتی جب سال پورا ہو جاتا تو باہر نکلتی اور اپنے پیچھے اونٹ کی میٹھی پھینکتی تھی۔

(۱۹۶۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. (احمد ۶/۲۸۶۔ طبرانی ۳۶۱)

(۱۹۶۳۱) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ منانا درست نہیں۔

(۱۹۶۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحَدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أذْنِي طَهْرَهَا بِنِدْوَةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَطْفَارٍ.

(بخاری ۵۳۳۲۔ مسلم ۱۱۲۸)

(۱۹۶۳۲) حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا درست نہیں۔ البتہ عورت اپنے خاوند کا سوگ چار مہینے دس دن تک منائے گی۔ وہ رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی، صرف عصب شدہ کپڑا پہن سکتی ہے۔ سرمہ انہیں لگائے گی اور خوشبو بھی نہیں لگائے گی، البتہ اپنے طہر کے قریب ہونے پر قسط اور اطفار خوشبو تھوڑی سی لگا سکتی ہے۔

(۱۹۶۳۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ النَّجَّيِّ، عَنْ أَبِي مجلر قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدُّونَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

(۱۹۶۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند انتقال کر جائے وہ چار مہینے دس دن عدت گزارے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جاہلیت میں عورتیں اس سے بھی زیادہ سوگ منایا کرتی تھیں۔

(۱۹۶۳۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (مسلم ۱۱۳۸)

(۱۹۶۳۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناسکتی، سوائے اپنے خاوند کے، اس پر چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی۔

(۲۸۱) مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ

جو حضرات سوگ کے قائل نہ تھے

(۱۹۶۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ نَشِئًا .
(۱۹۶۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سوگ کے قائل نہ تھے۔

(۲۸۲) مَنْ قَالَ أَوْتِمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

عورت کی شرمگاہ اس کے پاس امانت ہے

(۱۹۶۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي قَالَ : إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوْتِمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

(۱۹۶۳۶) حضرت ابی الضحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے پاس اس کی شرمگاہ امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہے۔

(۱۹۶۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي قَالَ : إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوْتِمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

(۱۹۶۳۷) حضرت ابی الضحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت داری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔

(۱۹۶۳۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْفَرْجُ أَمَانَةٌ .
(۱۹۶۳۸) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ امانت ہے۔

(۱۹۶۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوْتِمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

(۱۹۶۳۹) حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے پاس اس کی شرمگاہ امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہے۔

(۱۹۶۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَّةُ النِّسَاءِ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نُؤْمَرُ أَنْ نُفْتَحَهُنَّ .

(۱۹۶۴۰) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کے سامنے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا کہ ہمیں ان کے تذکرے کرنے کی اجازت نہیں۔

(۱۹۶۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَرَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيضٍ ، وَطَهَّرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْوَةٍ وَصَلَّتْ ، فَقَالَ عَلِيُّ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ جَاءَتْ بَيْتَهُ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يَرْضَى بِيَدِيهِ وَأَمَانَتِهِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيضٍ وَطَهَّرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْوَةٍ وَصَلَّتْ فِيهَا صَادِقَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِيُّ : قَالُونَ ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بَيْدِهِ يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ .

(۱۹۶۴۱) حضرت عامر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کے خاندان نے اسے طلاق دے دی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس کا خیال تھا کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آچکے ہیں اور وہ ہر حیض سے پاک ہو کر نماز پڑھ چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں سے دیندار اور امانتدار لوگ گواہی دیں کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آئے ہیں اور یہ ہر حیض سے پاک ہو کر نماز ادا کرتی رہی ہے تو یہ سچی ہے اور اگر وہ گواہی نہ دیں تو یہ جھوٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جواب پر رومی انداز میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔

(۲۸۲) مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟

حیض کی مدت کا بیان

(۱۹۶۶۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ الْجَلْدِيِّ بْنِ أَبِي بَرٍّ ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قُرْوَةُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ ، سَبْعٌ ، ثَمَانٌ ، تِسْعٌ ، عَشْرٌ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .

(۱۹۶۴۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حیض کے دن چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو اور دس ہو سکتے ہیں پھر غسل کرے اور نماز پڑھے۔

(۱۹۶۶۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً .

(۱۹۶۴۳) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک، دو یا تین دن خون آنے سے عورت مستحاضہ شمار نہیں ہوگی بلکہ جب دس دن پورے ہو جائیں تو عورت مستحاضہ ہوگی۔

(۱۹۶۶۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنِ أُمِّ الصَّحَّاحِ بِنْتِ رَاشِدٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يَقُولُ : أَقَلُّ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَآخِرُهَا عَشْرَةٌ .

(۱۹۶۴۴) حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

(۱۹۶۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :

الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةَ.

- (۱۹۶۳۵) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیٹھیں ۱۵ مدت بارہ دن ہیں۔
- (۱۹۶۴۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَقْصَى مَا تَجْلِسُ الْحَائِضُ خُمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً .
- (۱۹۶۳۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہیں۔
- (۱۹۶۴۷) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَيْضُ خُمْسَ عَشْرَةَ .
- (۱۹۶۳۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حیض پندرہ دن ہیں۔
- (۱۹۶۴۸) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَفْرَأُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ .
- (۱۹۶۳۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک حیض آئے وہی حیض کی مدت ہے۔





